

ترجمه و تحقیق
خاصائص امپراطوری مغولین
علی ابن ابی طالب

اُذیارت علوی

مؤلف: ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسافی

مترجم و محقق: سید شاهد حسین (رضوی) هنار



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امتیازات علوی

(ترجمہ و تحقیق خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب)

مؤلف

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی

مترجم و محقق

سید شاہد حسین رضوی ہندی



امتاب

میں اپنی اس ناجائز پیش کشی کو حضرت صدیقہ کبریٰ انسیہ حوراء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اور سولی الموحدین یعنیوب الدین امیر المؤمنین عالیٰ کل طالب کل غائب کل مطلوب کل طالب
امام المشرق والمغارب علیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت بقیۃ اللہ
الاعظم روحی وارواج العالمین لہ الفداء کی خدمت میں عاجزان پیش کرنے کی
سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

نام کتاب: امتیازات علوی (ترجمہ و تحقیق خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب)

مؤلف: ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی

مترجم: سید شاہد حسین رضوی ہندی

ناشر: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی (قم، ایران)

پہلا ایڈیشن: ۱۳۲۹ھ مطابق: ۱۹۰۸ء، ۷۲۳۸ھ، ششی

تعداد: ۴۰۰۰

ISBN: 978-964-195-006-6

جمل حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ملئے کا پتہ:

ایران: قم، بوار بہار، جب ہتل از ہرا جبل، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی

تلفکس: 0098251\7749875

E-mail: public-relations@comicis.co
www.eshraaq.com

ہندوستان: ۱۔ بھی: حیدری کتب خان، هزار اعلیٰ اسٹریٹ، امام باڑہ روڈ۔ بھی ۹۔

۲۔ دہلی: شیعہ جامع مسجد، کشمیری گیٹ (مولانا حسن نقوی صاحب)۔

۳۔ کشمیر: مدرسہ علیہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ و آله و سلم، حسین آباد گور سامی پونچھ، جموں و کشمیر۔

۴۔ جامعہ الہمی عربی کالج، علی کالوی اکبر پور امبدی نگر یونی۔

عرض ناشر

بے شک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات، جو کہ پیغمبر اسلام کے زیر سایہ پروان چڑھے اور آپ کے حقیقی جانشین بھی ہیں، ایک ممتاز اور بے مثال شخصیت ہے، جس کا اعتراف تمام مسلمان اور غیر مسلمان دانشمندوں نے کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ کی ذات والاصفات کے فضائل و مناقب کا ذکر کرنا ایک ناممکن امر ہے۔ مسلمانوں کی حدیث کی کتابیں آپ کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں اور آنحضرت کی جانب سے آپ کی فضیلت میں وارد ہونے والی حدیثوں سے مملو ہیں، جیسا کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں: اے علی! اگر دریا روانی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں سارے انسان مل کر لکھیں اور گروہ جن حساب کریں تو بھی تمہارے فضائل و کمال کو شمار نہیں کر سکتے (۱)۔ پھر بھی اگر دریا کے سارے پانی کو جمع نہیں کر سکتے تو کم از کم پیاس تو بھائیں

چاہئے! اس بندوق کے مذکور علم حدیث کے پچھے بزرگ علماء نے امیر المؤمنین حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب کو جمع کرنے کی کوشش کی اور اس راہ میں بہت سی مشقتوں برداشت کیں۔

کتاب هذا "خاصص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہما السلام" انھیں کاوشوں کا شمرہ ہے جسے حافظ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی نے تیسرا صدی ہجری میں تالیف کیا ہے۔

جتناب سید شاہد حسین رضوی ہندی، معلم مرکز جهانی علوم اسلامی حوزہ علمیہ قم نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے؛ ہم موصوف اور ان تمام دانشمندوں کی زحمتوں کی قدردانی کرتے ہیں جنہوں نے اس کام کو اہمیت دی اور اپنا قیمتی وقت سرف کیا۔

آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم، ان حضرات کی توفیقات میں دوام و اضافہ فرمائے (آمین یا رب العالمین)

والسلام

مرکز جهانی علوم اسلامی

شعبہ تحقیقات

فہرست مطالب

صفحہ	عنوان
۱۱	پہلے اسے پڑھیں.....
۱۳	عرض مترجم.....
۱۷	مقدمہ.....
۱۷	احمد بن شعیب نسائی کون ہیں؟.....
۲۰	امام نسائی اور حق کا وقایع.....
۲۲	کتاب خاصص کی اہمیت.....
۲۵	حضرت علیؑ امت کے سب سے پہلے مسلمان اور نمازی.....
۳۱	حضرت علیؑ ابن ابی طالب علیہما کی عبادت.....
۳۳	خدا کے نزدیک حضرت علیؑ کا مرتبہ.....
۴۹	جبریلؑ و میکائیلؑ حضرت علیؑ کے ہمراہ.....
۵۱	اللہ حضرت علیؑ کو ہرگز رسوائیں کرے گا.....

حضرت علی ﷺ کا مغفور بندہ	۵۷
اللہ نے قلب علی ﷺ کو آزمایا	۶۳
علی ﷺ کے در کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیئے جائیں	۶۹
خدانے علی ﷺ کو اندر بیا اور تسمیہ باہر نکلا	۷۱
نگاہِ رسالت میں حضرت علی ﷺ کی منزلت	۷۵
علی ﷺ مجھ سے ہیں اور میں علی ﷺ سے	۹۳
علی ﷺ نفس رسول	۹۷
علی ﷺ رسول اکرم ﷺ کے صفائی اور امین	۹۹
مبلغ سورہ برائت	۱۰۱
جس کا میں ولی اس کے علی ﷺ ولی	۱۰۷
علی ﷺ امیرے بعد ہر مومن کے ولی	۱۱۷
علی ﷺ سے محبت خدا سے محبت، علی ﷺ سے دشمنی خدا سے دشمنی	۱۲۳
علی ﷺ سے محبت کی ترغیب	۱۲۷
مومن اور منافق کی پیچان	۱۳۳
علی ﷺ کی مثال	۱۳۵
رسول ﷺ سے علی ﷺ کی قربت و محبت	۱۳۷
رسول خدا کے دارث	۱۴۱
حضرت عائشہ کا اعتراض و اعتراف	۱۴۳
حضرت علی ﷺ کا مرتبہ	۱۴۷

سوار دو شش نبی	۱۵۳
حضرت زہر اسلام اللہ علیہما کے شہر	۱۵۵
حضرت علی ﷺ کی تین خصوصیتیں	۱۵۹
جنت کی عورتوں کی سردار	۱۶۱
بغضہ الرسول	۱۶۹
علی ﷺ کے بیٹے رسول خدا ﷺ کے فرزند	۱۷۵
جو انان جنت کے سردار	۱۷۷
پیغمبر اسلام ﷺ کے دو پھول	۱۷۹
سب سے زیادہ عزیز اور محبوب	۱۸۱
حضرت علی ﷺ کے لئے دعا	۱۸۳
رسول ﷺ سے نجومی	۱۸۹
شقی ترین انسان	۱۹۱
رسول اسلام ﷺ کے سب سے قریب	۱۹۳
تاویل قرآن پر جگ	۱۹۵
حدیث غدیر	۱۹۷
باغی و ستمگرگروہ	۱۹۹
حق والا گروہ	۲۰۵
خوارج سے حضرت علی ﷺ کی جگ	۲۰۹
خوارج کی پیچان	۲۱۹

ابن عباسؓ کا خوارج سے مناظرہ ۲۳۱
پیغمبر اسلام ﷺ کی پیشین گوئی ۲۳۷
فہرست ۲۳۸
فہرست آیات قرآن کریم ۲۴۳
فہرست احادیث پیغمبر اسلام ﷺ ۲۴۳
فہرست احادیث حضرت علی علیہ السلام ۲۵۳
فہرست اعلام ۲۵۷
فہرست قبیلہ اور گروہ ۲۸۲
فہرست اماکن ۲۸۲
فہرست منابع و مآخذ ۲۸۵

پہلے اسے پڑھیں

خاصص نسائی اہل سنت کے مشہور عالم دین امام نسائی کی کتاب ہے۔
اس کا یہ ترجمہ حق ترجیح کی ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، ممکن ہے
اس میں ایسی روایات بھی ہوں جو شیعی عقائد کے نقطہ نظر سے سازگار نہ
ہوں، لہذا اسے نقل قول سمجھا جائے۔

عرض مترجم

رب بسرلی بحق محمد و علی و فاطمه والحسن والحسین
والائمۃ السعہ الطاھرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام

کتاب خصائص نسائی اپنی قدامت، اعتبار اور قدر و قیمت کے لحاظ سے ان اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے جسے تمام مسلمان اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

کتاب خصائص کے تقریباً بارہ خطی نسخے ہیں جو دنیا کے مختلف کتابخانوں میں موجود ہیں، اور اب تک نور ۹ مرتبہ ہندوستان، مصر، نجف، بیروت، اور ایران میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ ۱۳۱۷ھ میں سید ابوالقاسم رضوی لاہوری ہندی نے فارسی زبان میں کیا جو "حقائق لدنی در تشریح دقاائق لدنی" کے نام سے چھپا ہے اور ۱۸۹۲ء میں اردو زبان میں ترجمہ ہو کر رام پور میں شائع ہوا ہے جو اس وقت نایاب ہے۔

خصائص نسائی کی تحقیق بہت سے محققین نے کی ہے سب سے جدید تحقیق جو متعدد نسخوں کی مدد سے وجود میں آئی ہے وہ محقق فاضل محمد کاظم محمودی نے کی ہے جو

کی رحمتوں کی قدر دانی کرتا ہوں۔ نیز جمیع الاسلام والملمین جناب صدر حسین یعقوبی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موصوف نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں چاری مدد فرمائی۔ اسی طرح ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سلسلہ میں میری مدد فرماء کر شکریہ کا موقع دیا۔

دعا تو فتحی اللہ باللہ

سید شاہد حسین رضوی

۱۵ ار رمذان المبارک ۱۴۲۳ق۔ مطابق

۱۹ نومبر ۲۰۰۲ء بروز منگل

۹۳۴ء میں مجمع احیاء الثقافتہ الاسلامیہ کے ذریعہ تجویز کر قم میں شائع ہوئی ہے جناب محمد کاظم محمودی کی تحقیق کچھ ایسے خاص امتیازات کی حامل ہے کہ جس نے گزشتہ تحقیقات کی کیوں کو پورا کر دیا ہے اور متعدد شخصوں کی مدد سے حدیث کے متن اور سند کی تصحیح کی ہے۔

موجودہ اردو ترجمہ مذکورہ بالا کتاب کے متن کی روشنی میں کیا گیا ہے اور اس میں حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ متن احادیث کا خیال رکھا جائے۔ جہاں کہیں بھی توضیح کی ضرورت ہوئی اسے میں القویں لایا گیا ہے۔ حدیث کا اصلی متن بھی ترجمہ سے پہلے موجود ہے۔

گرچہ حدیثوں سے بہت سے نکات نکلتے ہیں لیکن چونکہ کتاب اور حدیث کی اصلاحیت کے تحفظ کو منظر رکھا گیا ہے لہذا صرف چند ضروری نکتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے دوسرے منابع اکثر دیشتر اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور بعض جگہوں پر شیعوں کی کتابوں سے بھی ہیں، فہرست منابع میں ان تمام منابع و مصادر کو حتی المقدور ان کی تاریخی قدامت کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ میں سلاست اور روایی کو منظر رکھا گیا ہے اور زبان کو عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ مفید عام بن سکے۔

آخر میں جمیع الاسلام والملمین جناب سید احتشام عباس زیدی کہ موصوف نے اس کتاب کی اصلاح فرمائی اور جمیع الاسلام والملمین جناب فتح اللہ محمدی (نجار زادگان) کہ موصوف نے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا، کاشکریہ ادا کرتا ہوں اور ان

مقدمہ

احمد بن شعیب نسائی کون ہیں؟

احمد بن شعیب نسائی نے ۵۲۱ھ میں خراسان کے ایک گاؤں (نساء) میں آنکھیں کھو لیں اور ۳۰۷ھ میں اس دارفانی کو وداع کہا۔ آپ کمہ میں دفن ہیں، آپ شافعی مسک اور اہل سنت کے بزرگ عالم تھے۔

آپ کی سوانح حیات سے آگاہی کے لئے کافی ہے کہ ہم اہل سنت کے علماء کی تحریروں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی وہ ممتاز شخصیت جو اہل سنت کے بزرگوں کے نزدیک ہے ہمارے سامنے آجائے۔

اہل سنت کے ایک بڑے تجزیہ نگار حافظ جمال الدین یوسف مزّمی امام نسائی کے بارے میں قلمطراز ہیں:

ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب، قاضی، حافظ، کتاب سنن (معروف پہ سنن نسائی) شریف یا الجتبی کہ جو اہل سنت کی صحاح ستر میں سے ایک ہے) اس کے علاوہ دیگر مشہور کتابوں کے مؤلف، ایک مشہور و نمایاں امام، محدث اور نامور عالم

ابو عبد الرحمن سلی، دارقطنی سے نقل کرتے ہیں:
 ”میں نسائی پر کسی اور کو مقدم نہیں کر سکتا یعنی تقویٰ و پر ہیزگاری میں ان کی طرح
 کسی کو نہیں جانتا۔“^۱

اہل سنت کے مشہور و معروف مورخ اور رجال شناس ابو عبد اللہ ذہبی نسائی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ابو عبد الرحمن نسائی بزرگوں کی یادگار اور کتاب سن نیز دیگر کتابوں کے مولف ۲۵۶ میں نسائی گاؤں میں پیدا ہوئے، وہ علم کا سمندر، صاحب نظر، ثابت قدم، شجاع، ولیر اور حسن تالیف کے ماں تھے آپ نے علم کی خاطر خراسان، حجاز، عراق، جزیرہ اور شام کا سفر کیا اور اس کے بعد مصر میں سکونت اختیار فرمائی۔“^۲

ناج الدین سکلی اپنی کتاب طبقات شافعیہ میں نسائی کے بارے میں تماں اور ممتاز طور سے اہل سنت کے بزرگ علماء کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”میں نے اپنے استاد محترم ابو عبد اللہ سے دریافت کیا کہ مسلم بن حجاج (صاحب صحیح مسلم) حدیث کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں یا نسائی؟ انہوں نے جواب میں کہا نسائی میں نے اس بات کو اپنے باپ سے بیان کیا تو انہوں نے بھی تائید فرمائی۔“^۳

۱- تاریخ الاسلام، وفات (۳۱۰-۳۰۰ق) ص ۱۰۶، ترجمہ نمبر ۱۱۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۱۲۵۔

۲- طبقات الشافعیہ، ج ۳، ص ۱۳۷۔

۳- جامیں الاصول، ج ۱، ص ۱۹۵۔

تحتے، بے شمار لوگوں نے آپ سے حدیثیں نقل کی ہیں منسحور فقیہ، طحاوی، قاسم مطرز اور ابو علی جیسے بزرگ حضرات آپ کو مسلمانوں کا امام اور پیشوامانتے ہیں اہل سنت کے بزرگ رجال شناس اہن جمعر عقلانی بھی آپ کو انھیں القاب و اوصاف سے یاد کرتے ہیں۔^۴

کتاب ”متدبرک“ کے مولف حاکم نیشاپوری امام نسائی کے بارے میں لکھتے ہیں: ”میں اکثر ویژہ عظیم حدیث شناس یعنی ابو علی کی زبانی متنداخا کہ آپ چار لوگوں کو مسلمانوں کے امام و پیشوائی حیثیت سے بیان کرتے تھے اور سب سے پہلے نسائی کا نام لیتے تھے۔ آپ ہی ابو الحسن بن مظفر سے نقل کرتے ہیں کہ: میں نے مصر میں اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ انھیں نسائی کی امامت و پیشوائی پر یقین تھا اور آپ کی شب و روز کی محنت، عبادات، حج و جہاد پر پابندی سے عمل نیز سنت کے احیاء اور مسلمانین کی ہممشتملی سے گریز کا تذکرہ کرتے تھے اور یہی آپ کا ہمیشہ کا دستور اعمل رہا ہے یہاں تک کہ آپ خوارج (معاویہ کے پیروکاروں) کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔“^۵

دارقطنی جو اہل سنت کے مشہور و معروف حدیث شناس اور کتاب سنن دارقطنی (کہ جو صحاح ستہ میں سے ہے) کے مولف ہیں نسائی کے سلسلہ میں قلمطراز ہیں کہ:

”ابو عبد الرحمن نسائی مصر میں اپنے دور کے تمام علماء سے زیادہ عالم، اور اپنے وقت کے زبردست حدیث اور رجال شناس تھے۔“^۶

۴- تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۳۲۹، ترجمہ نمبر ۸ م

۵- تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۳۳۳، ترجمہ نمبر ۵۲

۶- نقل از تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۳۲۲- تہذیب الحجۃ بہ، ج ۱، ص ۳۵

۷- نقل از تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۳۳۲

ان کے علاوہ دیگر علماء جیسے: ابن القمر، ابن شیر^۱، ابن خلکان^۲ وغیرہم نے بھی نسائی کی بے حد تعریف و تمجید کی ہے اور ان کو علم حدیث و رجال میں امام و پیشوائی حیثیت سے یاد کیا ہے۔^۳

نسائی اور حق کا دفاع

اس میں کوئی شک نہیں کہ نسائی ہمیشہ حق کے حامی اور مدافع رہے، اس سلسلہ میں انھوں نے بے دین و مخالف لوگوں کی خوشنودی کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا اور اپنی ذاتی و دینی شخصیت کو نہ کھویا۔

جمال الدین یوسف مزی اس سلسلہ میں خود نسائی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”مشق میں میری تقدیر کھل گئی کہ وہاں پر حضرت علیؑ سے تاواقف اور مخالف بہت زیادہ لوگ تھے تو میں نے اس امید پر کتاب الحسان امیر المؤمنین علیؑ السلام لکھی کہ خداوند عالم اسی تصنیف کے ذریعہ ان لوگوں کی ہدایت فرمائے۔“^۴
اس کے بعد یوسف مزی اضافہ کرتے ہیں:

”مشق میں نسائی سے فضائل معاویہ کے سلسلہ میں حدیث دریافت کی گئی تو انھوں نے فرمایا: اس (معاویہ) کے بارہ میں کون سی حدیث بیان کروں کیا

۱۔ البدایۃ والتحمایۃ، ج ۱، ص ۱۲۳۔

۲۔ وفیات الاعیان، ج ۱، ص ۷۷۔

۳۔ مقدمہ کتاب الحسان تحقیق محمد کاظم محمودی۔

۴۔ تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۳۲۸۔ تہذیب العہذیب، ج ۱، ص ۳۶۔

۵۔ تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۲۲۸۔ تہذیب العہذیب، ج ۱، ص ۳۶۔ تاریخ الاسلام: وفیات

۳۰۱۔ ق ۳۲۰، ص ۷۷۰، ترجمہ ثبیرے۔

حضرت رسول خدا تعالیٰ ﷺ کی یہ حدیث کہ ”خداوند عالم بھی اس کے علم کو سیرہ فرمائے۔“^۱

حاکم نیشا بوری بھی وارقطنی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”چونکہ نسائی مصر کے حدیث شناسوں میں سرفہرست تھے اس وجہ سے لوگ آپ سے حد کرنے لگے آپ جب رمل گئے تو وہاں پر آپ سے معاویہ کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا اور جب انھوں نے اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان نہیں کی تو لوگوں نے آپ کی پڑائی کی اور آپ ان زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے جمل بنتے۔“^۲

حاکم نیشا بوری نسائی کے اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں:

”ابوعبد الرحمن نسائی اپنی عمر کے آخر میں مصر سے دمشق چلے گئے، وہاں لوگوں نے ان سے معاویہ اور اس کی شان میں حدیث دریافت کی تو آپ نے جواب میں کہا: کیا معاویہ اس بات پر راضی و خوشنود نہیں ہے کہ اس کو علیؑ ﷺ کے مساوی اور برابر تھہرائے کے لئے روایتیں گز جھی گئیں، کہاں اس کی برتری اور افضلیت میں حدیث جعل کی جائے؟ یہ (حق بات) سنتے ہی اہل دمشق نے اُنھیں مارنا شروع کیا اور دھنے دے کر مجده سے باہر کر دیا... اور وہ ۳۰۳ میں ان زخموں کی تاب نہ لا کر سرز میں مکہ میں وفات کر گئے۔“^۳

۱۔ تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۲۲۸۔

۲۔ تقلیل از تہذیب الکمال، ج ۱، ص ۳۹۳۔

۳۔ الطبقات الشافعیہ، ج ۱، ص ۱۶۔

منقبت میں جو حدیثیں حلاش کر کے اس (خاص) میں جمع کی ہیں، اکثر و پیشتر کی سن دیں اچھی اور قابل تقبل ہیں۔^۱

کتاب خصائص کے اعتبار کے سلسلہ میں اتنا ہی کافی ہے کہ اہل سنت کے بڑے بڑے علم، علم حدیث و رجال کے بارے میں نسائی کو امام و پیشوامانتے ہیں بلکہ بعض علماء مثلاً دارقطنی کا کہنا ہے: ”میں نسائی پر کسی اور کو مقدم نہیں کر سکتا۔“^۲

ابوالعلیٰ نیشا بوری کہتے ہیں:

”بلاشبودہ (نسائی) حدیث میں امام ہیں،“^۳ ذہبی لکھتے ہیں کہ ”نسائی احادیث و رجال کی شناخت میں مسلم، ابو داؤد اور ترمذی سے زیادہ ماهر ہیں،“^۴ میرے خیال سے یہ کتاب نسائی کے واقعی چہرہ کو دیکھنے کے لئے ایک اور صاف و شفاف آئینہ ہے، اس کتاب سے نسائی کا عقیدہ، حدیث پر تسلط نیز حدیثوں کی طبقہ بندی کا بہترین ذوق یا قاعدہ نمایاں ہے۔

اس کتاب کا آغاز آپ حضرت علیؓ کے سابق الاسلام ہونے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد دسیوں حدیث جیسے: حدیث ثقیلین، طیر، رایہ، کسائے، غدریہ، اور سد الابواب وغیرہ کو علیؓ کی شان و منزلت میں بیان کرتے ہیں۔

اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا کی شان و منقبت میں کچھ حدیثوں کا تذکرہ، کرتے ہیں اور امام حسن و امام حسین علیہما السلام کے بارے میں حدیثوں پر

۱۔ الاصابع: ج ۲، ص ۶۵۵، رقم ۵۶۵۔

۲۔ وفیات الاعیان: ج ۱، ص ۳۳۲، رقم ۲۹۹۔

۳۔ تہذیب الکمال: ج ۱، ص ۳۳۲، رقم ۲۹۹۔

۴۔ الاطبعات الشافعیہ: ج ۲، ص ۲۸۔

۵۔ تہذیب الکمال: ج ۱، ص ۳۳۳، رقم ۳۰۰۔

۶۔ تذکرۃ الحفاظ: ج ۲، ص ۲۹۹۔

۷۔ سیر العلام المحتلوع: ج ۱، ص ۱۳۲، رقم ۳۱۰۔

۸۔ مقدمہ کتاب خصائص تحقیق محمد کاظم ص ۱۱۲۔

تاج الدین سکلی^۱، ابن خلکان^۲، اسنوفی^۳، اور ذہبی^۴ جی بھی ان کی وفات کا سبب سیبی بتاتے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس قدر رشجاع، حق گو، اور حق و حقانیت علیؓ کے مدافع تھے۔

بعض لوگ بنی امیہ کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی آبرو کے تحفظ کے لئے نسائی کے ضرب و شتم کو خوارج کی طرف نسبت دیتے ہیں اور یہ سوائے حق سے فرار کے کچھ اور نہیں ہے اس لئے کہ نسائی کے زمانے میں دمشق میں خوارج (اہل نہروان) کا اس حد تک بول بالا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا تسلط و اقتدار تھا مگر یہ کہ خوارج سے مراد اس کے واقعی معنی ہوں یعنی وہ لوگ جو دین سے خارج ہو گئے اس لئے کہ بنی امیہ اور اس کے پیروکار حقيقی اسلام سے خارج ہیں جیسا کہ بعض صحابہ، تابعین اور اہل بیت علیهم السلام اسی بات کے معرف ہیں۔

کتاب خصائص کی اہمیت:

کتاب خصائص کی تمام تر حدیثیں سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، علمائے حدیث و رجال کے درمیان اس کتاب کا بڑا مقام ہے، اہل سنت کے مشہور حدیث شناس ”ابن حجر عسقلانی“ اس کتاب کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

”نسائی نے آنحضرتؐ کے دیگر اصحاب کو چھوڑ کر حضرت علیؓ کی شان و

۱۔ وفیات الاعیان: ج ۱، ص ۳۳۲، رقم ۲۹۹۔

۲۔ الاطبعات الشافعیہ: ج ۲، ص ۲۸۔

۳۔ تذکرۃ الحفاظ: ج ۲، ص ۲۹۹۔

۴۔ سیر العلام المحتلوع: ج ۱، ص ۱۳۲، رقم ۳۱۰۔

محضر و شنی ڈالتے ہیں۔ آخر میں حضرت علیؓ کی جنگوں کا تذکرہ اور آپؐ کی حقانیت کے بارے میں آنحضرتؐ کی وصیت کا بیان کیا ہے نیز خوارج اور دشمنان علیؓ (قاطین، ناکشین، اور مارقین) کے پھروں سے پردہ ہٹادیا ہے۔

نسائی نے امام علیؓ کی شان میں صرف کتاب خصائص ہی نہیں لکھی ہے بلکہ ایک اور کتاب ”مند علی بن ابی طالب“ بھی لکھی ہے۔

نسائی کی سوانح حیات لکھنے والوں نے جہاں ان کی تالیفات میں ۳۰ کتابوں کا نام لیا ہے وہیں پر دو باقتوں کی تائید کی ہے۔ ایک یہ کہ کتاب خصائص، کتاب سنن کبریٰ کا جزو نہیں ہے بلکہ ایک مستقل کتاب ہے اور نسائی نے اسے شام جانے کے بعد لکھا ہے۔ ۱

وسری بات: کتاب سنن کبریٰ اور سنن صغیری (المجتبی) (نسائی کے دو علیحدہ کام ہیں۔ سنن صغیری (المجتبی) سنن کبریٰ کا خلاصہ نہیں ہے اور ان دونوں کے درمیان عوام خصوص من وجہ کی نسبت ہے یعنی یہ کہ جو حدیثیں سنن صغیری میں ہیں وہ تمام سنن کبریٰ میں نہیں ہیں اسی طرح جو حدیثیں سنن کبریٰ میں ہیں وہ ساری کی ساری سنن صغیری میں نہیں ہیں۔ ۲

حضرت علیؓ امت کے سب سے پہلے مسلمان اور نمازی

بسم الله الرحمن الرحيم

وصل الله على محمد وآلہ و [صحبہ] وسلم تسليماً عونک یارب
حدیث: اخبرنا ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی
قال: اخبرنا محمد بن المثنی قال حدثنا عبد الرحمن . یعنی ابن مهدی .
قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حبة العرنی قال: سمعت عليا
يقول: "انا اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم"
حبة العرنی کہتے ہیں میں نے حضرت علیؓ کو فرماتے ہوئے سن کر آنحضرت
کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں۔

حدیث: ۱- مند طیاری، حس ر ۲۲۳، ح ۱۸۸، مصنف ابن ابی شیبہ، ح ۳۰۷، ح ۲۰۲، ح ۳۲۰، ح ۲۰۵، ح ۲۳۰، ح ۱۹۶، ح ۱۹۱، ح ۱۹۲، ح ۱۹۳، ح ۱۹۴، ح ۱۹۵، ح ۱۹۶، ح ۱۹۷، ح ۱۹۸، ح ۱۹۹، ح ۲۰۰، ح ۲۰۱، ح ۲۰۲، ح ۲۰۳، ح ۲۰۴، ح ۲۰۵، ح ۲۰۶، ح ۲۰۷، ح ۲۰۸، ح ۲۰۹، ح ۲۱۰، ح ۲۱۱، ح ۲۱۲، ح ۲۱۳، ح ۲۱۴، ح ۲۱۵، ح ۲۱۶، ح ۲۱۷، ح ۲۱۸، ح ۲۱۹، ح ۲۲۰، ح ۲۲۱، ح ۲۲۲، ح ۲۲۳، ح ۲۲۴، ح ۲۲۵، ح ۲۲۶، ح ۲۲۷، ح ۲۲۸، ح ۲۲۹، ح ۲۳۰، ح ۲۳۱، ح ۲۳۲، ح ۲۳۳، ح ۲۳۴، ح ۲۳۵، ح ۲۳۶، ح ۲۳۷، ح ۲۳۸، ح ۲۳۹، ح ۲۴۰، ح ۲۴۱، ح ۲۴۲، ح ۲۴۳، ح ۲۴۴، ح ۲۴۵، ح ۲۴۶، ح ۲۴۷، ح ۲۴۸، ح ۲۴۹، ح ۲۵۰، ح ۲۵۱، ح ۲۵۲، ح ۲۵۳، ح ۲۵۴، ح ۲۵۵، ح ۲۵۶، ح ۲۵۷، ح ۲۵۸، ح ۲۵۹، ح ۲۶۰، ح ۲۶۱، ح ۲۶۲، ح ۲۶۳، ح ۲۶۴، ح ۲۶۵، ح ۲۶۶، ح ۲۶۷، ح ۲۶۸، ح ۲۶۹، ح ۲۷۰، ح ۲۷۱، ح ۲۷۲، ح ۲۷۳، ح ۲۷۴، ح ۲۷۵، ح ۲۷۶، ح ۲۷۷، ح ۲۷۸، ح ۲۷۹، ح ۲۸۰، ح ۲۸۱، ح ۲۸۲، ح ۲۸۳، ح ۲۸۴، ح ۲۸۵، ح ۲۸۶، ح ۲۸۷، ح ۲۸۸، ح ۲۸۹، ح ۲۹۰، ح ۲۹۱، ح ۲۹۲، ح ۲۹۳، ح ۲۹۴، ح ۲۹۵، ح ۲۹۶، ح ۲۹۷، ح ۲۹۸، ح ۲۹۹، ح ۳۰۰، ح ۳۰۱، ح ۳۰۲، ح ۳۰۳، ح ۳۰۴، ح ۳۰۵، ح ۳۰۶، ح ۳۰۷، ح ۳۰۸، ح ۳۰۹، ح ۳۱۰، ح ۳۱۱، ح ۳۱۲، ح ۳۱۳، ح ۳۱۴، ح ۳۱۵، ح ۳۱۶، ح ۳۱۷، ح ۳۱۸، ح ۳۱۹، ح ۳۲۰، ح ۳۲۱، ح ۳۲۲، ح ۳۲۳، ح ۳۲۴، ح ۳۲۵، ح ۳۲۶، ح ۳۲۷، ح ۳۲۸، ح ۳۲۹، ح ۳۳۰، ح ۳۳۱، ح ۳۳۲، ح ۳۳۳، ح ۳۳۴، ح ۳۳۵، ح ۳۳۶، ح ۳۳۷، ح ۳۳۸، ح ۳۳۹، ح ۳۴۰، ح ۳۴۱، ح ۳۴۲، ح ۳۴۳، ح ۳۴۴، ح ۳۴۵، ح ۳۴۶، ح ۳۴۷، ح ۳۴۸، ح ۳۴۹، ح ۳۵۰، ح ۳۵۱، ح ۳۵۲، ح ۳۵۳، ح ۳۵۴، ح ۳۵۵، ح ۳۵۶، ح ۳۵۷، ح ۳۵۸، ح ۳۵۹، ح ۳۶۰، ح ۳۶۱، ح ۳۶۲، ح ۳۶۳، ح ۳۶۴، ح ۳۶۵، ح ۳۶۶، ح ۳۶۷، ح ۳۶۸، ح ۳۶۹، ح ۳۷۰، ح ۳۷۱، ح ۳۷۲، ح ۳۷۳، ح ۳۷۴، ح ۳۷۵، ح ۳۷۶، ح ۳۷۷، ح ۳۷۸، ح ۳۷۹، ح ۳۸۰، ح ۳۸۱، ح ۳۸۲، ح ۳۸۳، ح ۳۸۴، ح ۳۸۵، ح ۳۸۶، ح ۳۸۷، ح ۳۸۸، ح ۳۸۹، ح ۳۸۱۰، ح ۳۸۱۱، ح ۳۸۱۲، ح ۳۸۱۳، ح ۳۸۱۴، ح ۳۸۱۵، ح ۳۸۱۶، ح ۳۸۱۷، ح ۳۸۱۸، ح ۳۸۱۹، ح ۳۸۲۰، ح ۳۸۲۱، ح ۳۸۲۲، ح ۳۸۲۳، ح ۳۸۲۴، ح ۳۸۲۵، ح ۳۸۲۶، ح ۳۸۲۷، ح ۳۸۲۸، ح ۳۸۲۹، ح ۳۸۳۰، ح ۳۸۳۱، ح ۳۸۳۲، ح ۳۸۳۳، ح ۳۸۳۴، ح ۳۸۳۵، ح ۳۸۳۶، ح ۳۸۳۷، ح ۳۸۳۸، ح ۳۸۳۹، ح ۳۸۴۰، ح ۳۸۴۱، ح ۳۸۴۲، ح ۳۸۴۳، ح ۳۸۴۴، ح ۳۸۴۵، ح ۳۸۴۶، ح ۳۸۴۷، ح ۳۸۴۸، ح ۳۸۴۹، ح ۳۸۵۰، ح ۳۸۵۱، ح ۳۸۵۲، ح ۳۸۵۳، ح ۳۸۵۴، ح ۳۸۵۵، ح ۳۸۵۶، ح ۳۸۵۷، ح ۳۸۵۸، ح ۳۸۵۹، ح ۳۸۶۰، ح ۳۸۶۱، ح ۳۸۶۲، ح ۳۸۶۳، ح ۳۸۶۴، ح ۳۸۶۵، ح ۳۸۶۶، ح ۳۸۶۷، ح ۳۸۶۸، ح ۳۸۶۹، ح ۳۸۷۰، ح ۳۸۷۱، ح ۳۸۷۲، ح ۳۸۷۳، ح ۳۸۷۴، ح ۳۸۷۵، ح ۳۸۷۶، ح ۳۸۷۷، ح ۳۸۷۸، ح ۳۸۷۹، ح ۳۸۸۰، ح ۳۸۸۱، ح ۳۸۸۲، ح ۳۸۸۳، ح ۳۸۸۴، ح ۳۸۸۵، ح ۳۸۸۶، ح ۳۸۸۷، ح ۳۸۸۸، ح ۳۸۸۹، ح ۳۸۸۱۰، ح ۳۸۸۱۱، ح ۳۸۸۱۲، ح ۳۸۸۱۳، ح ۳۸۸۱۴، ح ۳۸۸۱۵، ح ۳۸۸۱۶، ح ۳۸۸۱۷، ح ۳۸۸۱۸، ح ۳۸۸۱۹، ح ۳۸۸۲۰، ح ۳۸۸۲۱، ح ۳۸۸۲۲، ح ۳۸۸۲۳، ح ۳۸۸۲۴، ح ۳۸۸۲۵، ح ۳۸۸۲۶، ح ۳۸۸۲۷، ح ۳۸۸۲۸، ح ۳۸۸۲۹، ح ۳۸۸۳۰، ح ۳۸۸۳۱، ح ۳۸۸۳۲، ح ۳۸۸۳۳، ح ۳۸۸۳۴، ح ۳۸۸۳۵، ح ۳۸۸۳۶، ح ۳۸۸۳۷، ح ۳۸۸۳۸، ح ۳۸۸۳۹، ح ۳۸۸۴۰، ح ۳۸۸۴۱، ح ۳۸۸۴۲، ح ۳۸۸۴۳، ح ۳۸۸۴۴، ح ۳۸۸۴۵، ح ۳۸۸۴۶، ح ۳۸۸۴۷، ح ۳۸۸۴۸، ح ۳۸۸۴۹، ح ۳۸۸۵۰، ح ۳۸۸۵۱، ح ۳۸۸۵۲، ح ۳۸۸۵۳، ح ۳۸۸۵۴، ح ۳۸۸۵۵، ح ۳۸۸۵۶، ح ۳۸۸۵۷، ح ۳۸۸۵۸، ح ۳۸۸۵۹، ح ۳۸۸۶۰، ح ۳۸۸۶۱، ح ۳۸۸۶۲، ح ۳۸۸۶۳، ح ۳۸۸۶۴، ح ۳۸۸۶۵، ح ۳۸۸۶۶، ح ۳۸۸۶۷، ح ۳۸۸۶۸، ح ۳۸۸۶۹، ح ۳۸۸۷۰، ح ۳۸۸۷۱، ح ۳۸۸۷۲، ح ۳۸۸۷۳، ح ۳۸۸۷۴، ح ۳۸۸۷۵، ح ۳۸۸۷۶، ح ۳۸۸۷۷، ح ۳۸۸۷۸، ح ۳۸۸۷۹، ح ۳۸۸۸۰، ح ۳۸۸۸۱، ح ۳۸۸۸۲، ح ۳۸۸۸۳، ح ۳۸۸۸۴، ح ۳۸۸۸۵، ح ۳۸۸۸۶، ح ۳۸۸۸۷، ح ۳۸۸۸۸، ح ۳۸۸۸۹، ح ۳۸۸۸۱۰، ح ۳۸۸۸۱۱، ح ۳۸۸۸۱۲، ح ۳۸۸۸۱۳، ح ۳۸۸۸۱۴، ح ۳۸۸۸۱۵، ح ۳۸۸۸۱۶، ح ۳۸۸۸۱۷، ح ۳۸۸۸۱۸، ح ۳۸۸۸۱۹، ح ۳۸۸۸۲۰، ح ۳۸۸۸۲۱، ح ۳۸۸۸۲۲، ح ۳۸۸۸۲۳، ح ۳۸۸۸۲۴، ح ۳۸۸۸۲۵، ح ۳۸۸۸۲۶، ح ۳۸۸۸۲۷، ح ۳۸۸۸۲۸، ح ۳۸۸۸۲۹، ح ۳۸۸۸۳۰، ح ۳۸۸۸۳۱، ح ۳۸۸۸۳۲، ح ۳۸۸۸۳۳، ح ۳۸۸۸۳۴، ح ۳۸۸۸۳۵، ح ۳۸۸۸۳۶، ح ۳۸۸۸۳۷، ح ۳۸۸۸۳۸، ح ۳۸۸۸۳۹، ح ۳۸۸۸۴۰، ح ۳۸۸۸۴۱، ح ۳۸۸۸۴۲، ح ۳۸۸۸۴۳، ح ۳۸۸۸۴۴، ح ۳۸۸۸۴۵، ح ۳۸۸۸۴۶، ح ۳۸۸۸۴۷، ح ۳۸۸۸۴۸، ح ۳۸۸۸۴۹، ح ۳۸۸۸۵۰، ح ۳۸۸۸۵۱، ح ۳۸۸۸۵۲، ح ۳۸۸۸۵۳، ح ۳۸۸۸۵۴، ح ۳۸۸۸۵۵، ح ۳۸۸۸۵۶، ح ۳۸۸۸۵۷، ح ۳۸۸۸۵۸، ح ۳۸۸۸۵۹، ح ۳۸۸۸۶۰، ح ۳۸۸۸۶۱، ح ۳۸۸۸۶۲، ح ۳۸۸۸۶۳، ح ۳۸۸۸۶۴، ح ۳۸۸۸۶۵، ح ۳۸۸۸۶۶، ح ۳۸۸۸۶۷، ح ۳۸۸۸۶۸، ح ۳۸۸۸۶۹، ح ۳۸۸۸۷۰، ح ۳۸۸۸۷۱، ح ۳۸۸۸۷۲، ح ۳۸۸۸۷۳، ح ۳۸۸۸۷۴، ح ۳۸۸۸۷۵، ح ۳۸۸۸۷۶، ح ۳۸۸۸۷۷، ح ۳۸۸۸۷۸، ح ۳۸۸۸۷۹، ح ۳۸۸۸۸۰، ح ۳۸۸۸۸۱، ح ۳۸۸۸۸۲، ح ۳۸۸۸۸۳، ح ۳۸۸۸۸۴، ح ۳۸۸۸۸۵، ح ۳۸۸۸۸۶، ح ۳۸۸۸۸۷، ح ۳۸۸۸۸۸، ح ۳۸۸۸۸۹، ح ۳۸۸۸۸۱۰، ح ۳۸۸۸۸۱۱، ح ۳۸۸۸۸۱۲، ح ۳۸۸۸۸۱۳، ح ۳۸۸۸۸۱۴، ح ۳۸۸۸۸۱۵، ح ۳۸۸۸۸۱۶، ح ۳۸۸۸۸۱۷، ح ۳۸۸۸۸۱۸، ح ۳۸۸۸۸۱۹، ح ۳۸۸۸۸۲۰، ح ۳۸۸۸۸۲۱، ح ۳۸۸۸۸۲۲، ح ۳۸۸۸۸۲۳، ح ۳۸۸۸۸۲۴، ح ۳۸۸۸۸۲۵، ح ۳۸۸۸۸۲۶، ح ۳۸۸۸۸۲۷، ح ۳۸۸۸۸۲۸، ح ۳۸۸۸۸۲۹، ح ۳۸۸۸۸۳۰، ح ۳۸۸۸۸۳۱، ح ۳۸۸۸۸۳۲، ح ۳۸۸۸۸۳۳، ح ۳۸۸۸۸۳۴، ح ۳۸۸۸۸۳۵، ح ۳۸۸۸۸۳۶، ح ۳۸۸۸۸۳۷، ح ۳۸۸۸۸۳۸، ح ۳۸۸۸۸۳۹، ح ۳۸۸۸۸۴۰، ح ۳۸۸۸۸۴۱، ح ۳۸۸۸۸۴۲، ح ۳۸۸۸۸۴۳، ح ۳۸۸۸۸۴۴، ح ۳۸۸۸۸۴۵، ح ۳۸۸۸۸۴۶، ح ۳۸۸۸۸۴۷، ح ۳۸۸۸۸۴۸، ح ۳۸۸۸۸۴۹، ح ۳۸۸۸۸۵۰، ح ۳۸۸۸۸۵۱، ح ۳۸۸۸۸۵۲، ح ۳۸۸۸۸۵۳، ح ۳۸۸۸۸۵۴، ح ۳۸۸۸۸۵۵، ح ۳۸۸۸۸۵۶، ح ۳۸۸۸۸۵۷، ح ۳۸۸۸۸۵۸، ح ۳۸۸۸۸۵۹، ح ۳۸۸۸۸۶۰، ح ۳۸۸۸۸۶۱، ح ۳۸۸۸۸۶۲، ح ۳۸۸۸۸۶۳، ح ۳۸۸۸۸۶۴، ح ۳۸۸۸۸۶۵، ح ۳۸۸۸۸۶۶، ح ۳۸۸۸۸۶۷، ح ۳۸۸۸۸۶۸، ح ۳۸۸۸۸۶۹، ح ۳۸۸۸۸۷۰، ح ۳۸۸۸۸۷۱، ح ۳۸۸۸۸۷۲، ح ۳۸۸۸۸۷۳، ح ۳۸۸۸۸۷۴، ح ۳۸۸۸۸۷۵، ح ۳۸۸۸۸۷۶، ح ۳۸۸۸۸۷۷، ح ۳۸۸۸۸۷۸، ح ۳۸۸۸۸۷۹، ح ۳۸۸۸۸۸۰، ح ۳۸۸۸۸۸۱، ح ۳۸۸۸۸۸۲، ح ۳۸۸۸۸۸۳، ح ۳۸۸۸۸۸۴، ح ۳۸۸۸۸۸۵، ح ۳۸۸۸۸۸۶، ح ۳۸۸۸۸۸۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸، ح ۳۸۸۸۸۸۹، ح ۳۸۸۸۸۸۱۰، ح ۳۸۸۸۸۸۱۱، ح ۳۸۸۸۸۸۱۲، ح ۳۸۸۸۸۸۱۳، ح ۳۸۸۸۸۸۱۴، ح ۳۸۸۸۸۸۱۵، ح ۳۸۸۸۸۸۱۶، ح ۳۸۸۸۸۸۱۷، ح ۳۸۸۸۸۸۱۸، ح ۳۸۸۸۸۸۱۹، ح ۳۸۸۸۸۸۲۰، ح ۳۸۸۸۸۸۲۱، ح ۳۸۸۸۸۸۲۲، ح ۳۸۸۸۸۸۲۳، ح ۳۸۸۸۸۸۲۴، ح ۳۸۸۸۸۸۲۵، ح ۳۸۸۸۸۸۲۶، ح ۳۸۸۸۸۸۲۷، ح ۳۸۸۸۸۸۲۸، ح ۳۸۸۸۸۸۲۹، ح ۳۸۸۸۸۸۳۰، ح ۳۸۸۸۸۸۳۱، ح ۳۸۸۸۸۸۳۲، ح ۳۸۸۸۸۸۳۳، ح ۳۸۸۸۸۸۳۴، ح ۳۸۸۸۸۸۳۵، ح ۳۸۸۸۸۸۳۶، ح ۳۸۸۸۸۸۳۷، ح ۳۸۸۸۸۸۳۸، ح ۳۸۸۸۸۸۳۹، ح ۳۸۸۸۸۸۴۰، ح ۳۸۸۸۸۸۴۱، ح ۳۸۸۸۸۸۴۲، ح ۳۸۸۸۸۸۴۳، ح ۳۸۸۸۸۸۴۴، ح ۳۸۸۸۸۸۴۵، ح ۳۸۸۸۸۸۴۶، ح ۳۸۸۸۸۸۴۷، ح ۳۸۸۸۸۸۴۸، ح ۳۸۸۸۸۸۴۹، ح ۳۸۸۸۸۸۵۰، ح ۳۸۸۸۸۸۵۱، ح ۳۸۸۸۸۸۵۲، ح ۳۸۸۸۸۸۵۳، ح ۳۸۸۸۸۸۵۴، ح ۳۸۸۸۸۸۵۵، ح ۳۸۸۸۸۸۵۶، ح ۳۸۸۸۸۸۵۷، ح ۳۸۸۸۸۸۵۸، ح ۳۸۸۸۸۸۵۹، ح ۳۸۸۸۸۸۶۰، ح ۳۸۸۸۸۸۶۱، ح ۳۸۸۸۸۸۶۲، ح ۳۸۸۸۸۸۶۳، ح ۳۸۸۸۸۸۶۴، ح ۳۸۸۸۸۸۶۵، ح ۳۸۸۸۸۸۶۶، ح ۳۸۸۸۸۸۶۷، ح ۳۸۸۸۸۸۶۸، ح ۳۸۸۸۸۸۶۹، ح ۳۸۸۸۸۸۷۰، ح ۳۸۸۸۸۸۷۱، ح ۳۸۸۸۸۸۷۲، ح ۳۸۸۸۸۸۷۳، ح ۳۸۸۸۸۸۷۴، ح ۳۸۸۸۸۸۷۵، ح ۳۸۸۸۸۸۷۶، ح ۳۸۸۸۸۸۷۷، ح ۳۸۸۸۸۸۷۸، ح ۳۸۸۸۸۸۷۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۱۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۲۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۳۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۴۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۵۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۶۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۷۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۱۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۲۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۳۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۴۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۵۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۶۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۱، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۲، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۳، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۴، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۵، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۶، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۷، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۸، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۷۹، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۸۰، ح ۳۸۸۸۸۸۸۸۸۱، ح ۳۸۸۸۸

۲۷ حضرت علیؑ امت کے سب سے پہلے مسلمان اور نمازی

٣- اخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن ادريس قال
سمعت شعبة، عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم قال: اول من
اسلم على

زید بن ارقم سے روایت ہے: کہ سب سے پہلے مسلمان علی ابن ابی طالب ہیں۔

حديث: ٥ أخبرنا اسماعيل بن مسعود، عن خالد. وهو ابن العارث .
قال: حديثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابا حمزة مولى الانصار
قال: سمعت زيد بن ارقم يقول : "اول منصلى مع رسول الله صلى الله عليه
والله وسلم "عليه "وقال في موضع آخر: اول من اسلم على " "

ابو حزنه نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے: سب سے پہلے رسول خدا ﷺ نے ایک قسم کے ساتھ تمثیل پڑھنے والے حضرت علی ابن ابی طالب ﷺ ہیں۔ وہ سری جگہ فرماتے ہیں کہ ”سب سے سلسلہ اسلام لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب ﷺ ہیں۔“

حدیث: ٤ اخیر نسی محمد بن عبید بن محمد الكوفی قال: حدثنا سعید بن حییم، عن اسد بن عبد الله البجلي، عن يحيى بن عفیف [الکندي] [عن عفیف] قال: [جئت في الجاهلية إلى مكة، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما ارتفعت الشمس وحلقت في السماء وانا انظر إلى الكعبة اقبل شاب فرمى ببصرة إلى السماء ثم استقبل القبلة فقام مستقبلاها، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينة فلم يلبث حتى جئت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشباب فركع الغلام والمرأة، فرفع الشباب ساجدا فسجد معه، فقلت: يا عباس ، امر عظيم !؟ فقال لي: امر عظيم فقال: التدري من هذا الشاب؟ فقلت: لا فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد

^{۱۰} حدیث: ۲۔ دوسری حدیث کے تمام مآخذ اور ترجمۃ الامام علی بن تاریخ دمشق ج را، ج ۵۵، ح را ۱۰۱

حدیث: ۵۔ دوسری حدیث کے تمام م�خذ اور شعن کمپی نسائی ج ر ۵۲۳ و ۳۲۳ ح ر ۷۸۱

حديث: ٢ اخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن .(بن مهدي) . قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة [طلحة بن يزيد] عن زيد بن أرقم قال : اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "علي" زيد بن أرقم كفته هن :

رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔

حدیث: ۳ اخیر نا محمد بن المثنی قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: عن عصروین مرة عن ابی حمزة، عن زید بن ارقم قال: [اول من اسلم مع رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم "علی ابن ابی طالب" زید بن ارقم کہتے ہیں:

رسول اسلام ﷺ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس -

ص ۱۳۰ و ۱۵۱ ح ۲۰۱ و ۲۰۲ ترجمہ الامام علی من تاریخ دمشق، ۵۳۱-۵۳۰ ح ۸۰-۸۷- شرح ابن ابی الحدید ۱۹۰: ۲۲۸ و ۲۲۹ حلی خطبہ ح ۳۱۲- تہذیب الکمال ۳۵۳: ۵ استیعاب ۳: ۱۹۰۵.

حدیث ۲: طبقات کبریٰ ح ۳۱۲- مسند طیلائی ص ۹۳ ح ۲۷۸- مسند احمد، ح ۳۲۸ ص ۳۲۸ حدیث ۳: فتاویٰ امام، ص ۸۵ ح ۱۲۶، و ص ۱۰۰ ح ۱۴۲ و ۱۰۱ ایوب ایوب ایوب عاصم، ص ۳۰ ح ۸۲- انساب الائتراف، ح ۲۷ ص ۸۸ ح ۱۰- مناقب ابن مغازلی ص ۱۳۱ ح ۱۸- تاریخ طبری ح ۲۷۰- تعمیم بخوبی ص ۳۱۸- ترجمہ الامام علی من تاریخ دمشق ح ۱۰۷ و ۱۰۸ ح ۱۱۰ و ۱۱۱- تہذیب الکمال ح ۱۳۱ ص ۳۲۹- سنن کبریٰ ح ۲۰۶- مناقب خوارزمی ص ۵۲ ح ۵۵- نیم کپیر طبرانی ح ۵- ص ۱۷۶- ح ۱۰۰۲.

۲۹ حضرت علی مبلغ امت کے سب سے سلسلہ مسلمان اور نمازی

حدیث: أخبرنا أحمد بن سليمان [الرهاوی] قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا العلاء صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبدالله قال: قال علي: ((أنا عبد الله وأخوه رسوله (ص)، و أنا الصديق الأکبر، لا يقولها بعدى ألا کاذب، صلیت قبل الناس بسیع سنین))
عبدالله بن عبد الله تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: میں خدا کا بندہ، رسول اسلام علیہ السلام کا بھائی اور صدیق اکبر ہوں میرے بعد اس کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

حدیث ۲:- سیرہ ابن اسحاق ص ۱۳۳۔ ملاقات کبری ج ر ۸ ص ۷۰۔ مند احمد ج ۳ ص ۷۰۶

ج، ۱۸۷۴-تاریخ کمیر ج رئیس ۲۷-مناقب کوئنچ رامص رائے ج ۲۷۲۷ و ۱۸۳۷ ج ۱۸۳۷ و

س۲۱۷-تاریخ طبری ج ۲، ص ۳۱۱ و ۳۱۲- مندا ابویطعی ج ۳، ص ۱۵۳- جم

سچاین جریده ۱۳۵۰- کامل این عددی ج راهیں را ۳۹۹ و ۳۱۶- مجمع‌گیر طنزی ج راهیں را ۱۰۰۰ اح را ۱۸۱۷

١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-شوابد المعلم - ج ٢ - استعاب - ج ٣ - محرر - دلائل تبيين

Digitized by srujanika@gmail.com

جدهش: سید فضائل احمدی ۸۸۰۴۲۷۶۱۱- کتاب الشاعر: الیا عاصم ۷۰۰ م ۸۸۵- ۳۲۳۲۲-۱۳۰۰

مصحف ابن المبارك - مكتبة كلية التربية الأساسية - جامعة بغداد - ٢٠١٣

ج رامس ۱۳۸۷ح/۲۰۲۲ج، و ص رس ۲۴۵ج/۱۸۷۶- و

م٢٠٨٣، ح ٢٣٥ - و م٢١٦٣، ح ٢٤٧ - و م٢٢١٣، ح ٢٥٤ - تاریخ طبری

ج ۲۳- اوکل عکری، می ۹۱- متدرک حاکم بن ۲۳، می ۱۱۱- معرفه الصحابه، ج ۱، ورق

^{٢٢} استيعاب نج. ر. ٣، ج. ١٠٩٨ - تحذيب التكمال بج. ٢٢، ص. ٥١٣ - ميزان الاعتدال

المطلب، هذا ابن اخي . وقال : تدرى من هذا الغلام؟ فقلت: لا . قال: على بن ابى طالب بن عبد المطلب ، هذا ابن اخي ، هل تدرى من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لا . قال: هذه خديجة ابنة خوبلد زوجة ابن اخي ، هذا حدثى أن ربه رب السماوات والارض ، امره بهذه الدين الذى هو عليه، ولا والله ما على ظهر الارض كائناً احد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.

عفیف کا بیان ہے کہ میں ایام جاہلیت میں مکہ گیا اور عباس بن عبدالمطلب کے یہاں پھرنا، میں غیر کے وقت خانہ کعبہ کی جانب دیکھ رہا تھا اپنے ایک جوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔

امبھی کچھ دیرنگ گزری تھی کہ ایک اور جوان آیا اور اس کے دامنی جانب کھڑا ہو گیا پھر ایک خاتون آئیں اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں پھر دونوں اس جوان کے ساتھ ساتھ کوئی اور سمجھنے والے نہیں تھے۔

میں نے عباس سے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے؟ عباس نے کہا: ہاں بڑی عجیب بات ہے پھر عباس نے پوچھا: کیا تم اس جوان کو پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں تو انھوں نے کہا: یہ میرے بھائی عبد اللہ کے فرزند محمد ہیں کیا اس دوسرے نوجوان کو جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں، کہا: وہ میرے بھائی ابو طالب کا نور نظر ہے، کیا ان کے پیچھے جو خاتون ہے اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہا وہ خاتون خدیجہ بنت خولید میرے بھائی یزیدی ہے مجھ سے میرے بھتیجے نے بتایا کہ اس خدا نے جوز مین و آسان کا خدا ہے اس مذہب کا حکم دیا ہے خدا کی قسم اس روئے زمین پر ان تین کے علاوہ کوئی اور اس مذہب کا ماننے والا موجود نہیں ہے۔

حضرت علی ابی طالب علیہ السلام کی عبادت

حدیث: ۸ أخبرنا علی بن المندر قال : حدثنا [محمد] بن فضیل قال: حدثنا الأجلع، عن عبد الله بن أبي الهذیل، عن علی قال: ((ما أعرف أحداً من هذه الأمة عبد الله بعد تبیها (ص) غیری ، عبد اللہ قبل ان یعبدہ أحد من هذه الأمة بسیع سنین))

عبداللہ بن ابی ہذیل حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں پوری امت میں کسی کو نہیں جانتا جس نے آخر حضرت مسیح اعلیٰ یا کے بعد میرے برابر عبادت کی ہو اس لئے کہ میں نے لوگوں سے سات سال پہلے اس وقت عبادت پر وردگار کی جب کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا۔

حدیث: ۸۔ مسند طیابی، ج ۲۶، ح ۱۸۸۔ مسند احمد ح ۲، ج ۱۲۹، ح ۷۶۷۔ مسند ابو یعلی ح ۱، ج ۲۳۲، ح ۲۳۲۔ مسند رک حاکم ح ۲، ج ۱۱۲، ح ۲۳۸۔

خدا کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ

حدیث: ۹ أخبرنی هلال بن بشر قال: حدثنا محمد بن خالد . هو ابن عممة . قال: حدثنا موسى بن يعقوب قال: حدثني مهاجر بن مسما ، عن عائشة بنت سعد قالت: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله (ص) يوم الجحفة وأخذ بيده علي فخطب ، فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ((يا أيها الناس ، اتني وليكم)) قالوا: صدق يا رسول الله .

ثم أخذ بيده علي فرفعها وقال: ((هذا ولبي ، والمؤدي عنى ، وإن الله موالٌ لمن لا إله إلا هو ، ومعانٍ من عاداته))

سعد بن أبي وقاص سے اس کی بیٹی عائشہ نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام سے جھوٹ کے دن سنا کہ حضرت علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و شانے الہی کے بعد لوگوں سے پوچھا۔ کیا میں تم لوگوں کا ولی و حاکم ہوں؟ سب نے کہا بیٹک۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حضرت امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا: کہ یہ میرا ولی ہے اور یہی میرے فرائض و حقوق کو ادا کرنے والا ہے۔ اس کو دوست رکھنے والے کو خدادوست رکھتا ہے اور اس کے دشمن کو دشمن رکھتا ہے۔

حدیث: ۹۔ کتاب الص ۵۵۵ ح ۱۸۹۔ مناقب کوفی ح راہیں ۲۵۵ ح ۳۵۳، س ۳۵۳

ح ۳۵۶، مسند بزارج ۲۷، س ۳۱۳ ح ۱۴۰۳

حدیث: ۱۰۔ آخرینی زکریا بن یحییٰ قال: حدثنا الحسن بن حماد قال: حدثنا سهیر بن عبد الملک، عن عیسیٰ بن عمر، عن السدی، عن انس بن مالک: ان النبي (ص) کان عنده طائرہ فقال: ((اللهم انتی باحی خلقک الیک یاکل معي من هذل الطین)) فجاء أبو بکر فرده، و جاء عمر فرده، و جاء علی فاذن له.

انس بن مالک کہتے ہیں: کہ رسول اسلام کے پاس ایک بھنا ہوا طائرہ رکھا ہوا تھا اس وقت آپ نے دعا کی: خداوند! اس وقت تو اے سچیج دے جسے اپنی ملکوں میں سب سے زیادہ چاہتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ ہی بھنا ہوا پرندہ کھائے۔

اس دعا کے بعد ابو بکر آئے آنحضرت مسیح علیہ السلام نے انھیں واپس کر دیا پھر عمر آئے آپ نے انھیں بھی واپس کر دیا پھر علی مسیح علیہ السلام آئے آپ نے اجازت دے دی۔

حدیث: ۱۱۔ اخبرنا قبیة بن سعید و هشام بن عمار قالا: حدثنا حاتم [بن اسماعیل]، عن بکر بن مسمار، عامر بن سعد بن ابی وقار، [عن ابیه] قال: امر معاویۃ سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟

قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله (ص) فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منها أحب إلى من حمر النعم: سمعت رسول الله (ص) يقول له (وقد ((خ)) [حلقه في بعض مغازييه، فقال له علي]: يا رسول الله (ص)!

تخلقني مع النساء والصبيان؟ فقال له: رسول الله (ص) ((اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبوة بعدي))

وسمعته يقول في يوم خير: ((لاعطيك الرایة رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)). فتطاولنا لها فقال: ((ادعوا الى علیاً)). فاتي به أرمد، فقصق في عينيه ودفع الرایة اليه.

حدیث: ۱۰۔ سنن ترمذی ج ۵ ص ۲۳۶ ح ۳۷۲۱۔ مسند ابو یعلی ج ۷ ص ۱۰۵ ح ۲۰۵۲۔ کامل ابن عدی ج ۶ ص ۲۵۷۔ مسند حاکم ج ۴ ص ۱۳۱۔ مساقیب ابن مغازی ۱۔ ص ۲۷۱ ح ۲۰۹، ۲۰۵۔ ترجمۃ الامام علی بن تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۲۲ ح ۲۳۳۔

ولما نزلت زاده شام، ((أنما يزيد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت)) دعا رسول الله (ص) علیاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: ((اللهم هؤلاء أهلي))

ایک روز سعد بن ابی وقار سے معاویہ نے پوچھا تم حضرت علیؑ کو برائیا کیوں نہیں کہتے؟ سعد نے کہا رسول اسلام مسیح علیہ السلام کی تین حدیثیں جب تک مجھے یاد رہیں گی میں ان (حضرت علیؑ) کو برائیا نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ اگر ان میں سے کوئی

ایک بھی میرے لئے ہوتی تو مجھے سرخ رنگ کے اونٹوں سے کہیں بہتر تھی۔

ایک یہ کہ ایک مرتبہ رسول اسلام مسیح علیہ السلام جب جنگ پر گئے تو حضرت علیؑ کو

اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ میں چھوڑ گئے تو حضرت علیؑ نے فرمایا:

یا رسول اللہ مسیح علیہ السلام آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جاتے ہیں یہ سن کر آنحضرت نے فرمایا: اے علیؑ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمھیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو جو مویٰ سے تھی البتہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

نیز یہ کہ آنحضرت مسیح علیہ السلام نے خبر کے دن فرمایا:

کل میں اس کو علم دوں گا جو خدا و رسول کو چاہتا ہو اور خدا و رسول اس کو چاہتے ہوں یہ سنتے ہی علم کے لئے ہماری تمنا میں بڑھ گئیں، مگر آپ نے حضرت علیؑ علیہ السلام کو بلا یا حضرت علیؑ علیہ السلام اس حالت میں آئے کہ ان کی آنکھیں دکھر رہی تھیں آپ نے لعاب دہن لگا کر شفاوی اور علم بھی دیا۔

نیز جب آئی تظہیر نازل ہوئی تو رسول اسلام مسیح علیہ السلام نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہ و حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کو سمجھا کیا اور فرمایا "پروردگار ایسی

حضرت علیؑ کے لئے تین ایسی فضیلیتیں سنی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کا بھی میں ماں کو ہوتا تو وہ میرے لئے سرخ رنگ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: علیؑ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ و رسول کو چاہتا ہو اور اللہ و رسول اسے چاہتے ہوں۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں جس کا مولا (ولی و حاکم) ہوں اس کے علیٰ بھی مولا (ولی و حاکم) ہیں۔

الحديث رقم ١٣ أخرجه زكريا بن يحيى قال: حدثنا نصر بن علي قال:
أخبرنا عبد الله بن داود، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه أن سعداً قال: رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
((لا دفعن الرأبة غداً إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله،
يفتح الله عليه بديه)) فاستشرف لها أصحابه فدفعها إلى علي.

سعد نے رسول اسلام ﷺ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا یہ سن کر تمام اصحابؓ نے علم لینا چاہا مگر آپؐ نے علم علی ﷺ کو دیا۔

حدیث ۱۳- کتاب الزندہ: جم ۵۸، ح ۱۳۲۹، و مس ۵۹، ح ۱۳۵۹- متدلک حاکم: ح ۲۷، مس ۱۱۶.

ميرے اہلیت ہیں“
حدیث: ۱۲: اخیرنا حرموی بن یونس بن محمد قال: حدثنا أبوغسان
قال: حدثنا عبد السلام [بن حرب] عن موسى الصغیر، عن عبد الرحمن بن
سابط، عن سعد بن أبي وقاص قال:
کنت جالساً تقصوا عليّ بن أبي طالب فقال: لقد سمعت رسول الله (ص)
يقول له خصال ثلاثة، لأن تكون لي واحدة منها أحب إلى من حمر اليعم:
سمعته يقول: ((أَنَّمِّي بِعَزْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ لَا أَنَّمِّي بِعَدِيٍّ))
و سمحته يقول: ((لَا عَطَيْنَ الرَّاِيَةَ غَدَارِجَلًا يَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَحْبَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ)).

۳۹ خدا کے نزدیک حضرت علیؑ کا مرتبہ

پھر آپ نے مجھے بلوایا میں درج چشم میں بتانا تھا آنحضرت ﷺ نے اپنا عاب وہن میری آنکھوں میں لگا کر دعا فرمائی "خداوند اسردی اور گرمی کی اذیتوں سے اس کے جنما۔ فرماء، جس کے بعد نے مجھے سردی محسوس ہوتی ہے نگری۔

الحديث ١٥: أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال: أخبرنا معاذ بن عمالد قال: أخبرنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له، وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله (ص): ((أني دافع لوالبي غداً إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له)). وبطبيه أنفسنا أن الفتح غداً، فلما أصبح رسول الله صلى الله العدا ثم قام قاتماً و دعا باللواء، والناس على مصافهم، فلما دعا على بن أبي طالب وهو أرمد، فغل في عينيه و مسح عنه و دفع اليه اللواء، وفتح الله له. قال: وأنا فيمن تطاول لها.

ابو بردیدہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے خبر کا محاصرہ کر لیا تو پہلے روز ابو بکر اور دوسرا دن عمر علم لے کر گئے مگر فتح کی بغیر واپس آگئے اور لوگوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تو رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: کل میں اپنا علم اس کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو چاہتا ہے نیز خدا اور اس کا رسول اس کو چاہتے ہیں اور وہ اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک کامیابی اور فتح نہ پا جائے پس اسی خوشی میں ہم نے رات بسر کی کہ فتح کل ضرور ہوگی جب صحیح ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے نماز ادا کی اور تھوڑی دیر کھڑے رہے لوگ بینٹھے ہوئے تھے ہم میں سے ہر دو شخص کہ جس کا کچھ بھی مرتبہ آنحضرتؐ کے نزدیک تھا علم کا امیدوار تھا اتنے میں حضرتؐ نے امام علی علیہ

حدیث: ۱۳ أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله [بن موسى]
قال: أخبرنا [محمد بن عبد الرحمن] بن أبي لیلی، عن الحكم [بن عییه]
والسنهال، عن عبد الرحمن بن أبي لیلی، عن أبيه أنه قال: لعلی و كان
یسر معه أن الناس قد انکروا منك انك تخرج في البرد في العلاءتين و
تخرج في الحر في العشو والتوب الغليظ!! قال: ((أولم يكن معا يخییر))؟
قال: بلی. قال: فأن رسول الله (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بعث أبا بکر و عقد له
لواء فرجع، وبعث عمر و عقد له لواء فرجع بالناس، فقال: رسول الله (صلی
الله علیہ وآلہ وسلم): ((لاعطيں الرایۃ رجلا یحب اللہ و رسوله، و یحتج اللہ و رسوله،
لیس بفرار)). فارسل آپ و أنا أرمد، قلت: اني أرمد، فتفل فی عینی و قال:
((اللهم اکھه اذی الحر والبرد)) فما وجدت حرًّا بعد ذالک ولا بردًا.
ابو لیلی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ جب
آپ جاؤں میں بلکے لباس اور گرمیوں میں موئی لباس میں نکلتے ہیں تو لوگ تجب
کرتے ہیں؟ فرمایا: کیا تم جنگ خیر میں نہیں تھے؟ عرض کی جی ہاں میں موجود تھا
آپ نے فرمایا: کہ رسول اسلام علیہ السلام نے پہلے ابو بکر علیہ دیا وہ واپس پلٹ آئے پھر
عمر کو بھیجا وہ ناکام پلٹے تو آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: اب میں اسے علم دوں گا جو اللہ و
رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اسے چاہتے ہیں وہ بھاگنے والا نہیں بلکہ بڑھ
راہ کر جائے والا ہے.

محدث ۱۲: مصحف ابن أبي شيبة ۶، ج ۳۷۰، ح ۳۲۰، مسند احمد، ح ۲، ج ۱۲۸، ح ۲۷۷، و ح ۲۷۸، ح ۲۷۸، مسند احمد، ح ۳۷۰، دس ۱۳۳، ح ۲۰۶، تابع کیرجے، مس ۲۹۳، شن
ابن ماجه، ج ۲۲، ح ۲۷۱، مسند بیوار، ح ۲۹۹، تحقیق کیرجے، ح ۲۷۷، مس ۲۷۷، تحقیق اوسط طبرانی
ح ۳، مس ۱۵۱، ح ۲۷۰، و ح ۲۳۰، دس ۳۶۸، ح ۳۶۸، مسند رک حاکم، ح ۳، ح ۲۷۰، دلائل
النبوة، مس ۲۹۲، ح ۳۹۱، مسند ابی مخازنی، ح ۲۷۰، ح ۲۰۰، ترجمة الامام علی مسند اخر و دمشق،
ج ۱، مس ۲۱۹، ح ۲۲۰-۲۲۳.

السلام کو بلوایا ان کی آنکھیں رد آؤ دھیں آپ نے ان کی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفادی اور علم بھی دیا اور اللہ نے ان کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، راوی کا بیان ہے کہ میں بھی علم کی تمنا لئے بیٹھا ہی رہا۔

حدیث: ۱۶ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُوْفٌ، عَنْ مِيمُونَ أَبْيَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَرِيدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ بَرِيدَةِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ حِينَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ أَهْلِ خَيْرٍ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَّوَاءَ عَمَرًا، فَهُنَّ مَعَهُ مِنْ نَهْضَةِ النَّاسِ، فَلَقُوا أَهْلَ خَيْرٍ فَإِنَّ كَشْفَ عَمَرٍ وَأَصْحَابِهِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْأَعْطَى عَلَيْهِ الْلَّوَاءَ رَجُلًا يَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحْبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) «فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْفَدَ تَصَدَّرَ أَبُو سَكْرُ وَعَمَرٌ، فَدَعَا عَلَيْهِ وَهُوَ أَرْمَدَ فَنَفَلَ فِي عَيْهِ، وَنَهَضَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ مِنْ نَهْضَةِ، فَلَقِيَ أَهْلَ خَيْرٍ فَإِذَا مَرْحُبٌ يَرْتَجِزُ وَهُوَ يَقُولُ:

فَلَدَعْلَمْتُ خَيْرَ أَنِّي مَرْحُبٌ شَاكِ السَّلَاحَ بِطْلِ مَجْرَبٍ
أَطْعَنْ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرَبَ إِذَا الْلَّبَوتُ أَقْبَلَ تَلْهِبَ
فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلَى ضَرِبَتِينِ، فَضَرِبَهُ عَلَيَّ عَلَى هَامِتَهُ حَتَّى عَصَنَ السَّيفِ
مِنْهَا أَبْيَضَ رَأْسَهُ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرِبَتِهِ، فَعَاتَمَ اخْرَ النَّاسِ مَعَ
عَلَيَّ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ لَهُ وَلَهُمْ .

بریدہ اسلیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اسلام مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اہل خیر کے پاس پہنچا اور علم عمر کو دیا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ ساتھ گئے مگر اہل خیر سے مقابلہ ہوا تو سب نے تکلست کھائی اور ائمہ پاؤں واپس ہو گئے۔

حدیث: ۱۵ - محدث ابن ابی شیبہ، بیان، ص ۳۹۳، منہاج حج، ۵، ص ۳۵۸، فضائل احمد بن، ۱۰۲، ح ۱۵۶، کتاب السن، ص ۵۹۲، ح ۱۳۷۹، منہ کبری نسائی، ح ۵، ص ۱۷۸۰، منہ کبری نسائی، ح ۱، ص ۸۲۰، منہ طبری، ح ۳، ص ۱۱، منہ شامیین طبرانی، ح ۳، ص ۳۷، منہ درک حاکم، ح ۲، ص ۳۷، ص ۳۳۸، منہ قب اہن مقالی ص ۱۸۷، ح ۲۲۲، کشف الاستار، ح ۲، ص ۳۳۸، ح ۱۸۱۳، اسد الغاب، ح ۲، ص ۲۱۔

اس وقت رسول خدا مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اب میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے اور اللہ و رسول اے چاہتے ہیں صحیح نمودار ہوتے ہیں ابو بکر و عمر علم کی تمنا لئے ہوئے دوڑے مگر رسول اسلام مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت علی مصطفیٰ کو بلوایا حضرت علی مصطفیٰ کی آنکھیں دکھری تھیں۔ آنحضرت نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور علم انھیں دے دیا۔ فوج میں سے جن لوگوں نے چاہا وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ قلعہ خیر کی جانب روآن ہوئے جب علی سے اہل خیر کا سامنا ہوا تو مرحباً یہ رجز پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔

خیر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحباً ہوں، اسلوں سے آراستہ ہو پہلوان ہوں کہ جو جگ آزمودہ ہے، جب شیر غضنا ک میرے سامنے آتا ہے تو کبھی نیزہ سے حمل کرتا ہوں اور کبھی توار سے اسے ضرب لگاتا ہوں پھر حضرت علی مصطفیٰ اور مرحباً میں دو ہی ہاتھ چلے تھے کہ حضرت علی مصطفیٰ نے اسی توار لگائی جو خود کو کاشتی ہوئی اس کے سر میں درآئی اور تمام شکر نے توار کی ضربت کی آواز نی ابھی پورا شکر علی مصطفیٰ کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ خدا نے علی مصطفیٰ اور ان کے شکر کو فتح و کامیابی عنایت فرمائی۔

حدیث: ۱۶ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَهْرَيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ [سَلْمَةَ بْنَ دِينَارٍ] قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ: ((الْأَعْطَيْنَ هَذِهِ الرَايَةَ غَدَارِ جَلَّ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ يَحْبُّ

حدیث: ۱۷ - محدث ابن ابی شیبہ، بیان، ص ۳۹۳، منہاج حج، ۵، ص ۳۵۸، فضائل احمد بن، ۱۰۲، ح ۱۵۶، کتاب السن، ص ۵۹۲، ح ۱۳۷۹، منہ کبری نسائی، ح ۵، ص ۱۷۸۰، منہ کبری نسائی، ح ۱، ص ۸۲۰، منہ طبری، ح ۳، ص ۱۱، منہ شامیین طبرانی، ح ۳، ص ۳۷، منہ درک حاکم، ح ۲، ص ۳۷، ص ۳۳۸، منہ قب اہن مقالی ص ۱۸۷، ح ۲۲۲، کشف الاستار، ح ۲، ص ۳۳۸، ح ۱۸۱۳، اسد الغاب، ح ۲، ص ۲۱۔

حدثنا اخبرنا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمَ [سَلْمَةً بْنَ دِينَارٍ]، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ (ص) : ((لَا تَدْفَعُنَ الْيَوْمَ الرَّاِيَةَ إِلَى رَجُلٍ يَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَحْبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ)). فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلَيْهِ))؟ فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنِيهِ، قَالَ: فَبِصَقِّ نَبِيِّ اللَّهِ (ص) فِي كَفَّهِ وَمَسَحَ بِهَا عَيْنَيْهِ عَلَيَّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّاِيَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَدِيهِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے: کہ رسول اسلام نے فرمایا: آج میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہو اور خدا اور رسول اُسے دوست رکھتے ہوں اس وقت ہر ایک کی تمنا یتحی کہ علم ہمیں مل جائے لیکن آپ نے فرمایا "علیٰ کہاں ہیں" لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں درود کر رہی ہیں تو آنحضرت نے ہاتھی پر اپنا العاب دہن لے کر علیٰ کی آنکھوں پر مسح کر دیا اور ان کو علم دے دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔

حدیث: ۱۷- مسند احمد ح ۵، مس ۲۳۳۲، فضائل الحجۃ ۱۰، ح ۱۵۹، صحیح بخاری ح ۳، مس ۵، ح ۷، و
ن ۵، مس ۲۲ و ۱۷۱، ح ۲۰۷، صحیح مسلم ح ۳، مس ۱۸۷۲، سنن سعید بن منصور: ح ۳، مس ۱۷۸، و
ح ۲۲۷۲ و ۲۳۷۲، سنن ابن ابی داود: ح ۲، مس ۳۲۲، ح ۳۶۶۱، سنن کبریٰ نسائی: ح ۵، مس ۳۶،
ح ۱۳، مسند ابو علی: ح ۱، مس ۲۹۱، ح ۹۲، و ح ۱۳، مس ۵۲۲، ح ۱۸، مس ۵۳۱، ح ۲۸، مذاقب کوفی
ح ۳۲، مس ۵۰، ح ۷۰، و ح ۱۰۰، صحیح ابن حبان: ح ۱، مس ۲۷، ح ۲۹۳۲، و مسند رویانی: مس ۱۲۲، ح ۱۰۲۳،
حدیث: ۱۸- مصنف ابن ابی شیبہ: ح ۷، مس ۳۹۲، ح ۳۶۸۸۲، سنن کبریٰ نسائی: ح ۵، مس ۳۶،
ح ۱۵، صحیح ابن حبان: ح ۱۵، مس ۳۲۹، ح ۲۹۲۳.

الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله). فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (ص) كلهم يرجو أن يعطي فقال: ((أين علي بن أبي طالب)). فقالوا: يا رسول الله (ص)، يشتكي عيته.

قال: ((فارسلوا اليه)). فأتى به فبصق رسول الله في عينيه و دعا له، فبرأ
كان لم يكن به وجع، فأعطاه الرأبة، فقال علي: يبورسول الله (ص)، أقاتلهم حتى
يذكرنكم بأمثالنا؟ قال:

((النَّفَدُ عَلَى رَسُولِكَ، حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحِتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ
خَبَرُهُمْ بِمَا يُحِبُّ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ لَا يَأْنِي بِهِدِي اللَّهِ بِكَ رَجُلًاً وَاحِدًا
خَبَرُكَ مَنْ أَنْ تَكُونُ لَكَ حُمْرَ النَّعْمَ)).

ہل بن سعد تقلیل کرتے ہیں: رسول خدا ملئیلہم نے خبر کے دن فرمایا: "کل میں علم اس شخص کو دوں گا جسے خدا فتح و کامیابی عنایت فرمائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کو جاہتی سے اور اللہ و رسول اس کو جاتے ہیں۔

صحیح ہوتے ہی سب کے سب علم کی تمنا لئے ہوئے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے پس آنحضرت نے پوچھا ”علیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کیمیں، لوگوں نے جواب دیا ان کی آنکھیں دکھری ہیں، آپ نے فرمایا بلا کر لے آؤ جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو آپ نے اپنا العاب وہ بن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی حضرت کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا کوئی مرض نہ تھا آنحضرت نے ان کو علم دیا حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا: یا رسول اللہ گیا جب تک وہ ہمارے چیزے (یعنی سلماں) نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہوں؟

آنحضرت ملکہ نے فرمایا: نبی سے کام لو یہاں تک کہ ان کی فضائیں اتر جاؤ

خدا کے نزدیک حضرت علی ﷺ کا مرتبہ

الحديث: ٢٠ أخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: أخبرنا جرييد [بن عبد الحميد]، عن سهيل [بن أبي صالح]، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): ((لا يعطيك الرأي غدار رجل لا يحب الله ورسوله، [و] يحبه الله ورسوله [يتحنّع عليه]) قال عمر: فما أحبت الإمارة فقط إلا يومئذ. قال: فاشرأت لها، فدعها على بعده ثم قال: ((اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت)). قال: فمشى ما شاء الله ثم فلم يلتفت فقال: علام أقتل الناس؟ قال: ((قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص)، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماء هم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله)).

ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ: روز خیبر رسول اسلام ﷺ نے فرمایا یہ علم میں اس مرد کو دوں گانجے خدا اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں اور جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے خداوند عالم اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا عمر نے کہا کہ مجھے اس دن کے علاوہ کسی اور دن مسلمانوں کا امیر بننے کا شوق نہ ہوا پھر رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؓ کو بلالیا اور علم دے کر فرمایا آگے بڑھا اور کسی طرف متوجہ مت ہونا جب تک کہ خداوند عالم تمھیں فتح نہ دے دے۔

یہ کرامہ کچھ قدم آگے گئے پھر رک کر دریافت فرمایا: خدا کے رسول ان سے کب تک جنگ کروں آنحضرت نے فرمایا جب تک یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہیں اور جب یہ کلمہ پڑھنے لگیں تو ان کا خون بہانا اور ان کے اموال کو لوٹنا حرام ہے سوائے اس حق کے جو ان پر واجب ہوتا ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

صحيحة: ٣- أنساب الأشراف: ج ٢، ص ٨، ج ١١، ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٧٢،
٢٢٣، ٢٢٤

حدیث: ۱۹ أخبرنا قتيبة بن سعید قال: حدثنا يعقوب [بن عبد الرحمن] عن سهل [بن أبي صالح]، عن أبيه، عن أبي هریرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ: ((لَا تُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايةَ رَجُلًا يَحْبَتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَيَحْبَتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ)) . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ: مَا حَبَّتِ الْأَمَارَةُ إِلَّا يَوْمَهُ، فَقَدْ عَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَنَّ طَالِبَ فَاعْطَاهَا وَقَالَ: ((إِمْشُ وَلَا تَلْفَتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ)) . فَسَارَ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ . وَذَكَرَ فَتْيَةً كَلِمَةً مَعَانِيهَا [وَلَمْ يَلْفَتْ] فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَامُ أَقْاتَلَ النَّاسَ؟ قَالَ: ((قَاتَلُوكُمْ حَتَّى يَشَهِّدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ)) . ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعَوكُمْ دَمَانُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) . ابُو هُرَيْرَةَ سے منقول ہے کہ: روز خبر رسول اسلام نے فرمایا یہ علم میں اس مردوں کو دوس گائے خدا اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں اور جو خدا رسول سے محبت کرتا ہے خداوند عالم اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا عمر نے کہا کہ مجھے اس دن کے علاوہ کسی اور دن مسلمانوں کی قیادت کا شوق نہ ہوا پھر رسول اسلام رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؑ کو بلا یا اور علم دے کر فرمایا آگے بڑھو اور کسی طرف متوجہ نہ ہو ناجب تک کہ خداوند عالم تمہیں فتح نہ دے دے۔

یہ سن کر امام کچھ قدم آگے بڑھئے پھر رک کر دریافت فرمایا: خدا کے رسول ان سے کب تک جنگ کروں آنحضرت نے فرمایا جب تک یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہیں اور جب یہ کلمہ پڑھنے لگیں تو ان کا خون بہانا اور ان کے اموال کو لوٹا حرام ہے سوائے اس حق کے جو ان پر واجب ہوتا ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

حدیث: ۲۲ أخبرنا العباس بن عبد العظيم الغبری قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال: حدثنا معتمر بن سليمان [بن طرخان]، عن أبيه، عن منصور [بن المعتمر]، عن ربعي [بن حراش]، عن عمران بن حصین: أن النبي (ص) قال: ((لأعطيكما الرایة رجلاً يحب الله و رسوله)) أو قال: ((ويحبه الله و رسوله)). فدعاهما على يديه.

عمران بن حصین سے منقول ہے: کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: جس کو میں علم اس مرد کو عطا کروں گا جو اللہ اور رسول گودوست رکھتا ہے یا یہ فرمایا: جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں پھر حضرت علی ﷺ کو بیلایا اگرچہ آپ کی آنکھوں میں درود خداوند عالم نے ان کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائی۔

حدیث: ۲۱ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام [المخزوومي] قال: حدثنا و هب [بن خالد] قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يوم حیر: ((لادفعن الراية إلى رجل [يحب الله و رسوله]، ويحبه الله و رسوله، ويفتح الله عليه)). قال عمر: فما أحبت الإمارة قط قبل يومك. فدفعها إلى عليٍّ فقال: ((قاتل ولا تلتفت)). فسار قريباً، قال: يا رسول الله (ص) علام أقاتل الناس؟ قال: ((على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص)، فإذا فعلوا فقد عصموه دماءهم وأموالهم مني إلا بحقها، وحسابهم على الله))

ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ روز خیر رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: جس میں اس مرد کو دوں گا جسے خدا اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں اور جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے خداوند عالم اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا عمر نے کہا کہ مجھے اس دن کے علاوہ کسی اور دون امارت مسلمین کا شوق نہ ہو اپنے رسول اسلام ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو بیلایا اور علم دے کر فرمایا آگے بڑھا اور کسی طرف متوجہ نہ ہونا جب تک کہ خداوند عالم تمیس فتح نہ دے دے۔

یہ سن کر امام کچھ قدم گئے اور رُک کر دریافت فرمایا خدا کے رسول ان سے کب تک بُنگ کروں آنحضرت نے فرمایا جب تک یہ لا الا اللہ اور رسول اللہ نہ کہیں اور جب یہ کلمہ پڑھنے لگیں تو ان کا خون بہانا اور ان کے اموال کو لوٹا حرام ہے سوائے اس حق کے جو ان پر واجب ہوتا ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

حدیث: ۲۱- سنن کبریٰ نسائی: ج ۵، ص ۲۶، مناقب کوفی: ج ۲، ص ۵۰۱، ح ۱۰۳، تمام کبیر طبرانی: ج ۱۸، ص ۱۸۰، ح ۲۲۷، ح ۵۹۵-۵۹۳ و ح ۲۲۸، ح ۵۹۶، مناقب ابن مغازی: ص ۱۸۱، ح ۲۱۶، و ح ۱۸۰، ح ۲۱۵، تجدید رب الکمال: ج ۲۱، ص ۷۵۲۔

حدیث: ۲۱- منند طیابی: ص ۳۲۰، ح ۲۲۲، طبقات کبیری: ج ۲، ص ۱۱، منند احمد: ج ۱۳، ص ۳۹۹، ح ۱۶۳، و ح ۱۳، ص ۵۲۰، ح ۸۹۹۰، فضائل احمد: ص ۱۰۱، ح ۱۵۲، مناقب ابن مغازی: ص ۱۸۱، ح ۲۱۷۔

جبریل و میکائیل حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ

حدیث: ۲۳ اخیرنا اسحاق بن ابراہیم [بن راہویہ] قال: أخبرنا
النضر بن شمیل قال: حدثنا يونس [بن أبي اسحاق]، عن أبي اسحاق، عن هبيرة
بن بوریم قال:

خرج اليه الحسن بن عليٍّ وعليه عمامة سوداء فقال: لقد كان فيكم
بالأمس رجل ماسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون وإن رسول الله(ص) قال:
((لأعطيكما الرأيَةَ غداً رجلاً يحبَّ اللهَ ورسولَهُ ويحبَّ اللهَ ورسولَهُ، يقاتل
جبريلَ عن يمينِهِ و ميكائيلَ عن يسارِهِ، ثم لا تردهِ (يعني رايته) حتى يفتحَ اللهُ
عليَّهِ)، ما تركَ ديناراً ولا درهماً إلا سبعَ مئةَ درهماً أخذَها من عطائهِ كان
أرادَ أن ينبعَ بها خادعاً لآهله.

مجیدہ بن یریم کہتے ہیں کہ امام حسن بن علی علیہ السلام کا لا عمامہ باندھے
ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: پیش کل تک تمہارے درمیان ایک ایسا مرد تھا
کہ جس سے نہ پہلے کے لوگ آگے بڑھ کے اور نہ بعد کے آنے والے اس کی خاک
قدم تک پہنچ سکیں گے۔

پلاشبز جس کے لئے رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: کل میں علم اس مرد کو دوں گا

جس کے محبوب خدا اور اس کے رسول ہوں گے اور وہ بھی محبوب خدا اور رسول ہوگا جب تک اس کی داہمی جانب اور میکائیل بالائیں جانب کفار سے لڑے گیں اور وہ علم لے کر واپس نہ آئے گا جب تک خداوند عالم اسے فتح نہ دے دے۔ اس نے سوائے سات سورہم کے پچھنچ چھوڑا، جس سے ان کا ارادہ اپنے عیال کے لئے ایک خادم خریدنے کا تھا۔

اللہ حضرت علیہ السلام کو ہرگز رسول نہیں کرے گا

٢٤: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَاحُ (وَهُوَ أَبُو عَوَانَةَ) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى [أَبُو بَلْجَ] قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مِيمُونَ قَالَ:

أَتَيْ لِجَالِسِ إِلَى ابْنِ عَيَّاسٍ أَذْأَتْهُ تَسْعَةُ رَهْطٍ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَنْ تَقُومُ مَعْنَا وَإِنَّمَا أَنْ تَخْلُونَا يَا هَزْلَاءَ (وَهُوَ يُوْمَذٌ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلِي) قَالَ: أَنَا أَفَوْمُ مَعْكُمْ.
[فَانْتَدَءَ وَلَ]

فَسَخَّدَ ثُوَافِلَا أَدْرِي مَا قَالُوا، فَجَاءَ وَهُوَ يَنْفَضُ ثَوِيهٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَفْ وَ
تَفْ، يَقْعُونَ فِي رَجْلِ لَهُ عَشْرَ:

وَقَعْدَافِي رَجُلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ يَعْصِمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَرَبِّهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَعْزِيزُهُ اللَّهُ أَبْدًا فَاسْتَشْرِفَ [لَهَا] مِنْ أَسْتَشْرِفَ، فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلَيْيَ))؟ قَيْلَ: هُوَ فِي الرَّحِيمِ طَهُونَ [قَالَ]: ((وَمَا كَانَ أَحَدٌ كُمْ لِي طَهُونَ))؟ فَدَعَا هُوَ أَرْمَدًا مَا يَكَادُ أَنْ يُبَصِّرَ، فَنَفَثَ فِي عَيْنِيهِ ثُمَّ هَزَ الرَّايةَ ثَلَاثَةً فَدَعَهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ بِصَفَيْهِ بَنْتُ حَبْيَانَ

وبعث أبا يكر بسورة التوبه، وبعث علياً خلفه فأخذه منه فقال: ((لا يذهب بها إلا رجل هو مني وانا منه))

"کل میں اس مرد کو بھیجوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبت ہے اور وہ خدا و رسول کا محبوب ہے خدا اس کے مرتبہ کو بھی نہ گھٹائے گا یہ سن کر بہت سے لوگ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر رسول اسلام نے پوچھا علیٰ کہاں ہیں کہا گیا وہ چکلے جلاں سے ہیں۔"

فرمایا تم میں سے کوئی نتھا جوچکی پیتا یہ کہ آپ نے انھیں بلوایا حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں اتنی دکھری تھیں کہ دیکھنا دشوار تھا آپ نے ان کی آنکھوں پر دم کیا پھر تین بار علم کوہلا کر علی کے حوالے کیا اور آپ صفیہ بنت خبی کو لے کر واپس آئے۔

نیز آنحضرت ﷺ نے ابو بکر کو سورہ توبہ دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا پھر ان کے پیچے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا کر وہ ابو بکر سے وہ سورہ لے لیں اور فرمایا: یہ سورہ وہی خیش لے جاسکتا ہے جو مجھ سے مے اور میں اس سے ہوں۔

نبی کریم ﷺ نے اپنے چچا کی اولاد سے فرمایا: تم لوگوں میں سے کون دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہو گا اس وقت حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف فرماتھے بولے میں یا رسول اللہ ﷺ تو نبیؐ نے فرمایا: تم دنیا و آخرت میں میرا ولی ہو
resented by www.zilaat.com

[وقال لبني عمه: ((أيكم يوالني في الدنيا والأخرة))؟ قال: وعلى معه جالس فقال: أنا أو أريك في الدنيا والأخرة]. [فقال: ((أنت ولبي في الدنيا والآخرة))]

فقال: ودع رسول الله (ص) الحسن و الحسين و علياً و فاطمة فمدّ عليهم ثواباً

((اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرًا)).
و كان أول من اسلم من الناس بعد خديجة.
وليس توب رسول الله (ص) و نام [مكانه] فجعل المشركون يرمون كما
يرمون رسول الله (ص) و هم يحسون أنه نبي الله (ص) ف جاء أبو بكر فقال:
يا نبی الله (ص))

فقال علي: إنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ ذَهَبَ لِحُوَشِ مِيمُونَ، فَاتَّبَعَهُ فَدَخَلَ مَعَهُ الْفَارَاءُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمَوْنَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ أَصْبَحَ وَخْرَجَ بِالنَّاسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ عَلَىٰ: اخْرُجْ مَعَكُ؟ فَقَالَ: ((لَا)) فِي كِيٍّ، فَقَالَ: ((أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنْكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ))؟ ثُمَّ قَالَ: ((أَنْتَ خَلِيفَتِي)) يَعْنِي فِي كَأَمَّةٍ مِنْ ((مَنْ يَعْدِي)).

قال: وَسَدَ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلَىٰ، فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جَنْبٌ وَهُوَ فِي طَرِيقِهِ لَا يُسَمِّنُ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ. وَقَالَ: ((مَنْ كَتَ وَلَيْهِ فَعَلَىٰ وَلَيْهِ)).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِ
الشَّجَرَةِ، فَهِلْ حَدَّثْنَا بَعْدَ أَنَّهُ سُخْطَتْ عَلَيْهِمْ؟

قال: وقال رسول الله (ص) لعمر حين قال: انذن لي فلأضرب عنقه (يعني حاطباً)، قال: ((ما يدرك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم)).

عمر بن ميمون سے نقل ہے کہ: میں عبد اللہ بن عباس کے پاس بیٹھا تھا (اس وقت

عجاں کہتے ہیں: قرآن مجید اصحاب شجرہ سے خدا کے راضی ہونے کی خبر دیتا ہے لیکن کیا اس نے بعد میں ان پر ناراض ہونے کی بھی کوئی بات بیان کی ہے؟ (نبی ہرگز نہیں اور امام علی علیہ السلام اصحاب شجرہ میں سے ہیں)

جب عمر نے غصہ میں آکر حاطب کو قتل کرنا چاہا تو آنحضرت نے فرمایا: اے خطاب کے بیٹے "کیا تھیں نہیں معلوم کہ خدا اہل بدرا سے واقف اور باخبر ہے اور فرمایا ہے کہ جو چاہو کرو میں نے تھیں بخشش دیا" (اور حضرت علی علیہ السلام اصحاب بدرا میں سے ہیں)

نیز آنحضرت علی علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین کو جمع کیا اور ان پر ایک چادر اڑھائی اور فرمایا: پروردگار ایسی میرے اہلیت ہیں خدا یا ان سے نجاست کو دور رکھ اور ان کو اس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور پہلے شخص ہیں جو حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ ہیں جو کہ آنحضرت کا خاص لباس پہن کر ان کی جگہ اس طرح سوئے کہ لوگوں کو دھوکا ہونے لگا اور لوگوں نے خیال کیا کہ خود بھی ہیں اور ابو بکر نے یا نبی اللہ کہہ کر آواز دی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: وہ چاہ میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور آنحضرت کے ساتھ غار میں داخل ہو گئے اور کفار و مشرکین پوری رات حضرت علی علیہ السلام پر پھر پھینکتے رہے۔

جب آنحضرت مسلمانوں کے ساتھ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تو آنحضرت نے فرمایا: نہیں، اس پر حضرت علی گریہ کرنے لگے اس وقت آنحضرت نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تھیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موئی سے تھی مگر یہ کتم نبی نہیں ہو پھر فرمایا تم تمام مؤمنین کے درمیان میرے بعد میرے خلیفہ و جانشین ہو۔

آنحضرت علی علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے در کے علاوہ سب کے دروازے مسجد میں بند کر واڈے اور آپ ہمیشہ اسی راستے سے آتے جاتے تھے اور اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا۔

اور فرمایا "میں جس کا ولی و حاکم ہوں اس کے علی علیہ السلام بھی ولی و حاکم ہیں" اسی

حدیث: ۲۳: سیرہ ابن ہشام: حج ۲، ص ۳۳۲: طبقات ابن سعد: حج ۴، ص ۱۱۰: مصنف ابن ابی شہبۃ: ح ۲، ص ۲۷۲، ح ۳۲۰۹ و ح ۲۷، ص ۳۹۲، ح ۳۲۸۶۳: محدث احمد: ح ۵، ص ۸۷، ح ۳۰۲۴ و ۳۰۶۲ (ح ۳، ص ۵، ط قدم) و ح ۲۷، ص ۱۹، ح ۱۱۱۲۲ (ح ۲۶، ص ۲۶، ط قدم)؛ فضائل احمد: ص ۲۷، ح ۱۱۰ و ص ۱۱۹، ح ۲۷، اوس ۱۳۹، ح ۲۷، اوس ۱۳۹، ح ۲۷، اوس ۲۱۱، ح ۲۹؛ کتاب ابن ح ۵۵، ح ۱۱۸۸، ح ۵۵، ح ۱۱۳۵؛ صحیح مسلم: ح ۳، ص ۱۳۳۳ و ح ۳، ص ۸۷۲؛ مناقب کوفی: ح ۲، ص ۳۵۷، ح ۹۵۱ و ص ۳۹۶، ح ۹۷۷ و ۹۹۶ و ص ۵۰۰، ح ۱۰۰۲؛ مسند رویانی: ح ۲، ص ۲۷، ح ۲۷، ح ۱۱۶ و ص ۱۲۹، ح ۱۱۲۹؛ مجمجم کیر طبرانی: ح ۱۲، ص ۷۷، ح ۱۲۵۹۳ و ص ۱۱۲، ح ۲۲۷۲؛ سنن تیمی: ح ۹، ص ۱۳۱، البدریۃ و النحریۃ: ح ۷، ص ۳۲۲ و ۳۲۳۔

حضرت علی ﷺ خدا کے بندہ مغفور

حدیث: ۲۵ اخیرتی ہارون بن عبد اللہ [الحمال البغدادی] قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبیر الأسدی قال: حدثنا علی بن صالح، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن مره، عن عبد الله بن سلمة، عن علی قال: قال رسول الله (ص) : ((الا أعلمك كلامات اذا قلتها غفر لك مع آنہ مغفور لك؟ لا اله الا هو الحليم الکریم، لا اله الا هو العلي العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العرش الکریم، الحمد لله رب العالمین)).

عبد اللہ بن سلمہ حضرت علی ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا میں تمھیں ایسے کلمات کی تعلیم نہ کروں کہ اگر تم ان کو ادا کرو تو تمھاری مغفرت ہو جائے جب کہ خدا تمھیں بخش چکا ہے وہ کلمات یہ ہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو حليم و کریم ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جو بلند مرتبہ اور عظیمتوں والا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔

حدیث: ۲۵- مصنف ابن الجیش: ج ۲، ص ۳۶، ح ۲۹۳۲۶؛ مند عبد بن حمید: ج ۳، ۵۳، ح ۷۲؛ مند الحسن: ج ۲، ص ۱۱۹، ح ۱۲۷؛ مند براز: ح ۴۰۵؛ سنن کبریٰ: ج ۳، ص ۳۹۸، ح ۲۷۸۷؛ محل الیوم والملیک: ج ۲، ص ۱۲۳، ح ۱۰۷؛ تاریخ بغداد: ج ۹، ص ۳۵۶.

حدیث: ۲۶ اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم قال: حدثنا خالد (وهو ابن مخلد) قال:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ بْنِ حَيْ أَخْرُ حَسْنٍ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اسْحَاقِ الْهَمَدَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْءَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: ((يَا عَلِيَّ، لَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قَلَّتْهُنَّ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَعَهُ مَغْفِرَةً لَكَ؟

تقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا هو العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع [ورب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين].

عبدالله بن سلم حضرت على عليه السلام سلفه نقل كرتة هن كرسول الاسلام عليه السلام نے ان سے فرمایا: کیا میں تمھیں ایسے کلمات کی تعلیم نہ کروں کہ اگر تم ان کو ادا کرو تو تمھاری مغفرت ہو جائے جب کہ خدا تمھیں بخش چکا ہے، وہ کلمات یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو حليم و کریم ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جو بلند مرتبہ اور عظمتوں والا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے.

حدیث: ۲۷ اخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا احمد بن خالد قال:

حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي اسْحَاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْءَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

حدیث: ۲۶۔ کتاب السن: ص: ۵۸۳، ح: ۱۳۱۵ و ۱۳۱۷؛ علل دارقطنی: ح: ۲، ص: ۰؛ صحیح ابن حبان: ح: ۱۵، ص: ۳۲۷، ح: ۴۹۲۸؛ بیہقی مختصر طبرانی: ح: ۱، ص: ۱۲۷؛ ابی خمیسیة: ح: ۱، ص: ۲۳۵، ح: ۱۱.

حدیث: ۲۷۔ سنن کبری نسائی: ح: ۱۲۳، ص: ۱۰۲؛ محدث حاکم: ح: ۳، ص: ۱۳۸؛ مناقب خوارزمی: ص: ۲۵۸؛ تذكرة الحفاظ: ح: ۲، ص: ۶۶۶.

کلمات الفرج: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ،
سَبَّحَنَ اللَّهُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)).

حضرت علی عليه السلام سلفه نقل کلمات فرج (کلمات کشاش بخی رزق و مصیبت وغیرہ) یہ ہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو حليم و کریم ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جو بلند مرتبہ اور عظمتوں والا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرش عالمین کا رب ہے.

حدیث: ۲۸ اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم قال: حدثنا أبو غسان قال:

حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي اسْحَاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ يَعْنِي حَدِيثَ خَالِدَ (بْنِ مَخْلُدٍ).

عبد الرحمن بن أبي ملیل حضرت علی عليه السلام سلفه نقل کرتے ہیں کہ رسول الاسلام عليه السلام نے ان سے فرمایا: کیا میں تمھیں ایسے کلمات کی تعلیم نہ کروں کہ اگر تم ان کو ادا کرو تو تمھاری مغفرت ہو جائے جب کہ خدا تمھیں بخش چکا ہے، وہ کلمات یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو حليم و کریم ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جو بلند مرتبہ اور عظمتوں والا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے.

حدیث: ۲۹ اخبرنی علی بن محمد بن علی قال: حدثنا خلف بن تمیم قال: حدثنا اسرائیل قال: حدثنا أبو اسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علی قال: قال النبي (ص):

حدیث: ۲۸۔ سنن کبری نسائی: ح: ۲، ص: ۱۶۳، ح: ۱۰۲، ح: ۲۷۲؛ محدث حاکم: ح: ۳، ص: ۱۳۸؛ مناقب خوارزمی: ص: ۲۵۸؛ تذكرة الحفاظ: ح: ۲، ص: ۶۶۶.

مارٹ حضرت امام علی علیہ السلام کے نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے آپ سے فرمایا: دیکیا میں تم کو ایک دعا تعلیم نہ کروں کہ جب بھی وہ دعا پڑھو تو تمہاری مسخرت ہو جائے اگرچہ خدا تمہیں بخش چکا ہے۔ میں نے عرض کی: جی ہاں، فرمایا: اللہ کے سوا کوئی اور معیوب نہیں جو حليم و کریم ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معیوب نہیں جو بلند مرتبہ اور عظمتوں والا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔

((ألا أعلمك كلمات اذا قلتهن غفر لك على أنه مغور لك؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين)).

عبد الرحمن بن أبي ليلى حضرت علی ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا میں تمھیں ایسے کلمات کی تعلیم نہ کروں کہ اگر تم ان کو ادا کرو تو تمہاری مغفرت ہو جائے جب کہ خدا تمھیں بخشن چکا ہے، وہ کلمات یہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معیود نہیں جو حلیم و کریم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معیود نہیں جو بلند مرتبہ اور عظمتیوں والا ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرشِ کریم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔

٣٠ أخبرنا الحسين بن حرث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال النبي (ص) :

(((لا علمك دعاء اذا دعوت به غفر لك و ان كنت مغفورة لك))؟
قلت: بلى

قال: ((لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم)).

محمدیت، ۳۰۰ فضائل احمد: ج ۱۱۹، ح ۱۷۵؛ سشن ترمذی: ج ۵، ح ۵۲۹؛ ح ۲۳۵۰۲؛ علی وار قطنه: ح ۳۳۴، ح ۶۹؛ سشن کبری نسائی: ج ۶، ح ۱۳۶؛ ح ۲۷۵، ح ۱۰۳۷، ح ۱۰۳۶؛ تجمیع طریقی: ج ۱، ح ۲۷۰، ح ۲۷۳؛ تاریخ بغداد: ج ۱۲، ح ۲۹۳.

الحديث رقم ٢٩: مسند أحمد: ج ٢، ص ٣٦١، ح ١٣٤٣؛ فضائل أحمد: ج ١١، ح ٣٣٨؛ كتاب السنة: ص ٥٨٢، ح ١٣١٢؛ شنون كبرى نسائي: ج ٢، ص ١٦٣، ح ٣٢٧؛ إمامي ثقيفية: ج ١، ح ٣٢٨؛ بحاجة سفر طلاقى: ج ٢، ح ٣٢٦.

اللہ نے قلب علی علی اللہ کو آزمالیا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ
بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّخْعِيِّ]، عَنْ مُنْصُورٍ [بْنِ
الْمَعْمُرِ]، عَنْ رَبِيعِي [بْنِ حَرَاشِ]، عَنْ عَلَىٰ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّاسًا مِنْ قَرِيبِشِ
فَقَالُوا يَا مُحَمَّدَ إِنَّا جِيرَانَكَ وَحَلْفَاؤَكَ وَإِنَّ أَنَّاسًا مِنْ عَبْدِنَا قَدْ
أَتَوْكُمْ وَلَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِّينِ وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرَوْا مِنْ ضَيَاعِنَا وَ
أَمْوَالِنَا فَارِدِدِهِمُ الْيَنْأِيَةُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ((مَا تَقُولُونَ))؟

فَقَالَ: صَدَقُوا إِنَّهُمْ لِجِيرَانِكَ وَحَلْفَاؤِكَ، فَغَيْرُ وَجْهِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
((مَا تَقُولُونَ))، قَالَ: صَدَقُوا إِنَّهُمْ لِجِيرَانِكَ وَحَلْفَاؤِكَ، فَغَيْرُ وَجْهِ
النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، ثُمَّ قَالَ:

((يَا مَعْشِرَ قَرِيبِشِ، وَاللَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رِجْلًا مِنْكُمْ قَدْ امْتَحَنَ اللَّهَ قَلْبَهُ
لِلْإِيمَانِ، فَلَيَضْرِبَنَّكُمْ عَلَى الدِّينِ أَوْ يَضْرِبَ بَعْضَكُمْ)). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا هُوَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؟ قَالَ: ((لَا)). قَالَ: عَمْرٌ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؟ قَالَ: ((لَا))
وَلَكِنْ ذَالِكَ الَّذِي يَخْصِّفُ النَّعْلَ)). وَقَدْ كَانَ أَعْطَى عَلَيْهِ نَعْلَهُ يَخْصِّفُهَا.

حضرت علی علی اللہ کے موقوں سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں: قریش کے کچھ لوگ
رسول خدا علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے محمد! ہم آپ کے یہ وسی اور

ہم عہد ہیں، ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس بھاگ آئے ہیں جنہیں نہ دین سے رغبت ہے نہ علم و فقہ کا شوق ہے بلکہ وہ ہماری کھیتی باڑی کی محنت سے بھاگے گے ہیں اس لئے آپ انھیں ہمارے حوالے کر دیں۔

آنحضرت ﷺ نے ابو بکر سے پوچھا تم حماری کیا رائے ہے؟ وہ بولے قریش سچے ہیں بیٹک وہ آپ کے پڑوی اور ہم عہد ہیں یہ سن کر آپ کے چہرے کارنگ بدل گیا پھر عمر سے پوچھا تم کیا کہتے ہو عمر نے بھی کہا کہ وہ سچے ہیں وہ آپ کے پڑوی اور ہم قسم ہیں تو پھر غصہ سے آپ کے چہرے کارنگ بدل گیا پھر آپ نے فرمایا: اے قریش اللہ (تم حماری ان حرکتوں کی بنا پر) تم حماری طرف ایک ایسے شخص کو سمجھیے گا جو تم میں سے ہو گا اور جس کے قلب کو اللہ نے ایمان کے سلسلہ میں آزمایا ہے وہ یا تو تمھیں سید ہے راستے پر لگادے گا یا تم میں سے بعض کی گرد نہیں اڑا دے گا۔

یہ سن کر ابو بکر بولے: اے رسول خدا ﷺ کیا وہ شخص میں ہوں؟

آپ نے فرمایا: نہیں تم نہیں ہو۔

پھر عمر بولے یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ شخص میں ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں تم نہیں ہو بلکہ وہ شخص ہے جو جو تے ناک رہا ہے (اس وقت آپ ﷺ نے اپنے جو تے حضرت ﷺ کو نکلنے کے لئے دیے تھے)

حدیث: ۳۲۔ طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۳۲۷، ح ۱؛ مسند احمد: ج ۲، ص ۲۸، ح ۲۳۶؛ فضائل احمد: ص ۲۴۷، ح ۱۰۸؛ مسند بیزار: ج ۱، ح ۹۱۲؛ سنن ابن ماجہ: ج ۲، ص ۲۷۴؛ انساب الاعراف: ج ۱، ص ۲۷۴، ح ۳۳؛ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۱۴، ح ۵۰؛ مسند ابو یعلی: ج ۱، ص ۳۲۳، ح ۲۰۱؛

مسند رک حاکم: ج ۲، ص ۱۳۵؛ حلیۃ الاولیاء: ج ۳، ص ۳۸۱؛ سنن تیمی: ج ۱۰، ص ۸۵؛ مناقب خوارزی: ص ۸۲، ح ۱۷۔

حدیث: ۳۳۔ حدیث نمبر ۳۲ کے منابع

حدیث: ۳۱۔ مصنف ابن ابی شیر: ج ۲، ص ۲۷۰، ح ۲۳۰ (۱۷)؛ مسند احمد: ج ۲، ص ۳۲۸، ح ۱۳۳۶؛ فضائل احمد: ص ۱۵۸، ح ۲۲۲؛ سنن ابی داؤد: ج ۳، ص ۶۵؛ مسند بیزار: ج ۱، ص ۱۷۹؛

سنن ترمذی: ج ۵، ص ۲۳۳، ح ۲۱۵ و ص ۳۵، ح ۲۲۶۰؛ شرح طحاوی: ج ۳، ص ۳۵۹؛

مسند رک حاکم: ج ۲، ص ۱۳۷ و ح ۲۳۷؛ سنن بکری تیمی: ج ۹، ص ۲۲۹؛ مناقب ابن مغازی: ص ۵۳،

ح ۲۸۷؛ کنز العمال: ج ۱۳، ص ۱۲۷، ح ۱۲۰۲،

حدیث: ۳۲۔ اخبرنا عمرو بن علی قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مره، عن أبي البختري، عن علی قال: بعثني رسول الله (ص) الى اليمن و أنا شاب حديث السن، فقلت: يا رسول الله (ص) انك بعثتي الى قوم يكون بينهم أحداث، و أنا شاب حديث السن، قال: ((ان الله سيهدى قلبك ويبيت لسانك))، فما شकكت في قضاء بين اثنين، ابو البختري سے روایت ہے کہ حضرت ﷺ نے فرمایا: کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: کہ حضرت ﷺ نے مجھے یعنی جانے کا حکم دیا جب کہ میں جوان اور کسی تھامیں نے عرض کی اے نبی کریم ﷺ میں کسی ہوں اور آپ مجھے ایسی قوم کے پاس بیج رہے ہیں جن میں اکثر سن ریسہ (بوڑھے) ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا خدا تمھارے دل کی ہدایت کرے گا اور تمھاری زبان کو صداقت پر باقی رکھے گا حضرت ﷺ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی شک نہ ہوا۔

حدیث: ۳۳۔ اخبرنا علی بن خشم قال: اخبرنا عیسی (بن یونس ابی اسحاق)، عن الأعمش، عن عمرو بن مره، عن أبي البختري، عن علی قال: بعثني رسول الله (ص) الى اليمن فقلت: انك بعثتي الى قوم أمن متى وكيف القضاء فيها؟ فقال: ((ان الله سيهدى قلبك ويبيت لسانك)). قال: فلما تعایست في حکومة بعد.

حدیث: ۳۲۔ طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۳۲۷، ح ۱؛ مسند احمد: ج ۲، ص ۲۸، ح ۲۳۶؛ فضائل احمد: ص ۲۴۷، ح ۱۰۸؛ مسند بیزار: ج ۱، ح ۹۱۲؛ سنن ابن ماجہ: ج ۲، ص ۲۷۴؛ انساب الاعراف: ج ۱، ص ۲۷۴، ح ۳۳؛ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۱۴، ح ۵۰؛ مسند ابو یعلی: ج ۱، ح ۲۰۱؛

مسند رک حاکم: ج ۲، ص ۱۳۵؛ حلیۃ الاولیاء: ج ۳، ص ۳۸۱؛ سنن تیمی: ج ۱۰، ص ۸۵؛ مناقب خوارزی: ص ۸۲، ح ۱۷۔

بیدہ علی صدری ثم قال: ((إِنَّ اللَّهَ سَهْدِي قَلْبُكَ وَبَيْتُ لَسَانِكَ، يَا عَلِيَّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخُصْمَانُ فَلَا تَقْضِ بِهِمَا حَتَّى تَسْمَعْ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاء))
قال علی: فَمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءُ بَعْدِهِ.

حش بن المعمت سے نقل ہے کہ حضرت علی ملک نے فرمایا: رسول اکرم ملک علیہ السلام نے مجھے یہن جانے کا حکم دیا، میں نے عرض کی کہ میں کسی ہوں اور آپ مجھے بزرگوں (بوزوں) کے درمیان قضاوت اور فیصلہ کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں میں ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاں گا اور مجھے قضاوت کا کوئی علم نہیں ہے تو آنحضرت ملک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی "بیشک اللہ تم حمارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تم حماری زبان کو سچائی پر باقی رکھے گا" اے علی اگر مقدمہ کے دونوں فریق آنحضرت کے پاس بیٹھیں تو جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لیتا اس وقت تک کوئی فیصلہ مت کرنا اور جب دونوں کی باتیں سن لو گے تو فیصلہ حمارے لئے روشن اور واضح ہو جائے گا۔ امام ملک نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قضاوت کے سلسلہ میں مجھے کوئی مشکل درپیش نہ ہوئی۔

حدیث: ۳۲۔ محدث طیاری: حج ا، ج ۱۶، ح ۹۸؛ مصنف ابن ابی شیب: ح ۶، ج ۳۶۸، ح ۳۶۰۵۹؛ مند الحج: ح ۲، ج ۳۵۶، ح ۱۱۳۵؛ شن اہن باج: ح ۲، ج ۲۷؛ اخبار القضاۃ: ح ۱، ج ۸۵؛ حلیۃ الاولیاء: ح ۳، ج ۳۸۲؛ شن تکمیل: ح ۱۰، ج ۸۶۔

حدیث: ۳۵۔ محدث طیاری: ج ۱۵۹، ح ۲۱۵؛ ملقطات الکبری: ح ۲، ج ۳۲۷، ح ۲؛ مند الحج: ح ۲، ج ۳۲۵، ح ۲۷؛ فضائل الحج: ج ۱۵۲، ح ۲۱۸؛ شن اہن ابی داود: ح ۳، ج ۳۰۱، ح ۳۵۸۲؛ شن ترمذی: ح ۲، ج ۲۱۸، ح ۱۳۳۱؛ اخبار القضاۃ: ح ۱، ج ۸۵؛ شن تکمیل: ح ۱۰، ج ۸۶۔

ابوالختیری سے روایت ہے کہ حضرت علی ملک نے فرمایا: رسول اسلام ملک علیہ السلام نے مجھے یہن جانے کا حکم دیا، میں نے عرض کی آپ مجھے، سر سیدہ (بوزہ) لوگوں کے درمیان بھیج رہے ہیں میں کس طرح فیصلہ کروں گا تو آپ ملک علیہ السلام نے فرمایا: عنتریب اللہ تم حمارے دل کی ہدایت کرے گا اور تم حماری زبان کو حق پر ٹابت رکھے گا، امام ملک فرماتے ہیں: اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کرنے میں کبھی نہیں بھیجا۔ حدیث: ۳۳۔ اخبرنا محمد بن المثنی قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن عمر بن مرأة، عن أبي البختري، عن علي قال: بعضى رسول الله(ص) الى اليمن لا قضى بيهم فقال: يارسول الله (ص) لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدره و قال: ((اللهم اهدقلبه و سدد لسانه)). فما شكت في قضايا بين اثنين حتى جلس مجلسها هدا.

ابوالختیری سے نقل ہے کہ حضرت علی ملک نے فرمایا: رسول خدام ملک علیہ السلام نے مجھے یہن جانے کا حکم دیا تاکہ میں ان کے درمیان قضاوت کروں، میں نے عرض کیا اے نبی کریم ملک علیہ السلام مجھے قضاوت کا علم نہیں ہے تو آپ ملک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو میرے سینے پر رکھ کر فرمایا: "خدایا اس کے دل کی ہدایت فرماؤ را اس کی زبان کو سچائی پر ٹابت رکھا" اس کے بعد سے آج تک میں نے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک نہ کیا۔

حدیث: ۳۵۔ اخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك [بن عبد الله]، عن سماك بن حرب، عن حش بن المعتمر، عن علي قال: بعضى رسول الله (ص) الى اليمن و أنا شاب فقلت: يو رسول الله (ص) تبعنى و أنا شاب الى قوم ذوى أستان لا قضى بيهم و لا علم بالقضاء؟ فوضع

علی ﷺ کے در کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیئے جائیں

حدیث: ۳۸۔ اخیرنا محمد بن بشار قال: حدثنا [محمد بن] جعفر قال:

حدثنا عوف، عن ميمون أبي عبد الله، عن زيد بن أرقم قال: كان لعنف من أصحاب رسول الله (ص) أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله (ص): ((سدوا هذه الأبواب إلا باب علي)).

فتكلم في ذلك أناس، فقام رسول الله (ص) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أتا بعد، فلأني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب عليٍّ فقال فيه قائلُوكُمْ: والله ما سددته و لا فتحته، ولكنني أمرت بشيءٍ فاتبعه)).

زيد بن أرقم كہتے ہیں: کچھ لوگوں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے جس سے وہ آتے جاتے تھے آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ علی ﷺ کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیئے جائیں اس حکم کے بعد کچھ لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے: یہ دیکھ کر آنحضرت گھرے ہوئے اور خطبہ دیا اور حمد و شانے الہی کے بعد فرمایا: میں نے تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا ہے اور علی ﷺ کے دروازہ کو کھلا رہنے کا حکم دیا ہے اور تم لوگ بحث کر رہے ہو خدا کی قسم میں نے اتنی

حدیث: ۳۶۔ اخیرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا اسرائيل [بن بونس]، عن [جده] أبي اسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عليٰ قال: بعثني رسول الله (ص) الى اليمن فقلت: انك تعيني الى قوم هم أسن مني لا قضي بينهم؟

قال: ((إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك)).

حارثة بن مضرب سے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا: رسول اسلام ﷺ نے مجھے یمن جانے کا حکم دیا، میں نے عرض کی آپ ﷺ مجھے سن رسیدہ (بوزہ) لوگوں کے درمیان بھیج رہے ہیں میں کس طرح فیصلہ کروں گا تو آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب اللہ تمہارے دل کی بہادیت کرے گا اور تمہاری زبان کو حق پر ثابت رکھے گا۔

حدیث: ۳۷۔ اخیرنا زکریا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن شیان [بن عبد الرحمن]، عن أبي اسحاق، عن عمرو بن جبشي، عن عليٰ قال:

بعثني رسول الله (ص) الى اليمن فقلت: يا رسول الله (ص) انك تعيني الى شیوخ ذوي انسان اتی اخاف ان لا اصیب.

قال: ((إن الله سيثبت لسانك و يهدى قلبك)).

عمرو بن جبshi سے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ نے مجھے یمن جانے کا حکم دیا، میں نے عرض کی کہ آپ ﷺ مجھے سن رسیدہ (بوزہ) لوگوں میں بھیج رہے ہیں مجھے ذرہ بے کہ کوئی غلطی نہ کر جیمھوں آنحضرت نے فرمایا: پیشک اللہ تمہاری زبان کو سچائی پر گامزن رکھے گا اور تمہارے دل کی بہادیت فرمائے گا۔

حدیث: ۳۶۔ طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۳۳۷، ح ۱۳، مسند احمد: ج ۲، ص ۹۲، ح ۲۲۴ و ح ۲، ص ۱۵۵
ج ۱۳۲۲، اخبار القضاۃ: ج ۱، ص ۸۵.
حدیث: ۳۷۔ طبقات کبری: ج ۲، ص ۳۳۷، ح ۱۳؛ اخبار القضاۃ: ج ۱، ص ۸۵ و ۸۷؛ مناقب کوفی: ج ۱،
ص ۱۲، ح ۵۰۲؛ مسند ابو عطی: ج ۱، ص ۲۵۲، ح ۲۵۲، صحیح ابن حبان: ج ۱، ص ۲۵۱، ح ۵۰۶۵.

مرضی سے نہ دروازے بند کئے ہیں اور نہ علیؐ کا دروازہ کھلا رکھا ہے بلکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے اور میں نے اس کے حکم کی پیروی کی ہے۔

خدا نے علیؐ کو اندر بلا�ا اور تمہیں باہر نکالا

حدیث: ۳۹ قرأت علیؐ محمد بن سلیمان لوین عن ابن عینه، عن عمرو بن دیبار، عن أبي جعفر محمد بن علیؐ، عن ابراهیم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه (ولم يقل مرأة: عن أبيه) قال: كَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) وَعِنْهُ قَوْمٌ جَلُوسٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلَاقُوا فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخْرَجْنَا وَادْخَلْنَا، فَرَجَعُوا فَلَمْ يَدْخُلُوا فَقَالَ:

((وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْنَاهُ وَأَخْرَجْنَاهُ، بَلَّ اللَّهُ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَهُ)).

سعد بن أبي وقاص سے منقول ہے کہ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ رسول خدا علیؐ کی خدمت میں تھا کہ علیؐ داخل ہوئے جب آپ اندر آگئے تو دوسروں کو باہر نکال دیا گیا لوگ باہر آنے کے بعد ایک دوسرے کو برآ بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم کیوں نبیؐ نے ہم لوگوں کو باہر نکالا اور علیؐ کو اندر بلا لیا، لوگ

حدیث: ۳۹ المعرفة والترمذ: ج ۲، ص ۲۱؛ مسند بیاز: ج ۲، ص ۳۲، ح ۹۵؛ مطل وارقطنی: ج ۲، ص ۲۲۶، ح ۴۲۹؛ طبقات محمد بن شیع: ج ۲، ص ۱۲۵، ح ۱۶۵؛ تاریخ اصحاب البیت: ج ۲، ص ۱۳۲، ح ۱۳۲۸؛ تاریخ بغداد: ج ۵، ص ۲۹۳ و ۲۹۴؛ سنن کبریٰ نسائی: ج ۵، ص ۳۶؛ ترجمۃ الامام علیؐ من تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۳۱۲، ح ۸۲۳ و ۸۲۴.

حدیث: ۳۸ - مسند احمد: ج ۲، ص ۳۶۹؛ مسند بیک حاکم: ج ۳، ص ۱۲۵؛ مناقب خوارزمی: ص ۳۲۷، ح ۳۳۸؛ القول المدو: ص ۲۸.

مسجد میں پھرایا اور اپنے اصحاب اور اپنے پچاکو باہر کرو یا یہ سن کر آنحضرت نے فرمایا: تم لوگوں کو نکلنے اور اس جوان کو پھر نے کا حکم میں نے تو دینا نہیں بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ امام نبی کتبتے ہیں کہ فطر نے عبد اللہ بن شریک سے اس نے عبد اللہ بن رقیب سے اس نے سعد کے ذریعہ نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے رسول اسلام ﷺ سے دعایت کی کہ آپ نے ہم لوگوں کا دروازے بند کروادیے مگر علیؑ کا دروازہ کھلا رہنے دیا تو آنحضرت نے فرمایا نہ میں نے کوئی دروازہ بند کیا ہے نہ ہی کھولا ہے (بلکہ سخدا کا حکم تھا)۔

حدیث ۲۱: أخبرنی زکریا بن یحیی [السجزی] قال: حدثنا عبد الله بن عمر[بن محمد بن ابیان مشکدانة الکوفی] قال: حدثنا أسباط[بن محمد]، عن قطر [بن حلیفة]، عن عبد الله بن شریک، عن عبدالله بن الرقیم، عن سعد نحوه۔ عبد اللہ بن الرقیم سے منقول حدیث بھی باعینہ حدیث نمبر ۲۰ کے ماندے ہے۔

حدیث: ٣٢ أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا مسکین [بن بکیر] قال:
حدثنا شعبة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس (و أبو بلج هو
يعسی بن أبي سليمان) قال:

رسول الله (ص)، يأبه اب المسجد فسدت الا باب على

حدیث: ۲۳! مسند احمد: ح ۲، ص ۹۸، ح ۱۵۵! کتاب الله: ص ۵۹۵، ح ۱۳۸۲! مناقب کوفی: ح ۱، ص ۳۷۱، ح ۳۷۳ و ح ۲، ص ۳۶! مسند زیارت: ح ۲، ص ۳۶، ح ۱۹۷! مناقب کوفی: ح ۱، ص ۳۷۱، ح ۳۷۳ و ح ۲، ص ۳۶! مسند ابوالیلی: ح ۲، ص ۶۱، ح ۷۳! نجم اوسط طبرانی: ح ۲، ص ۵۵۲، ح ۲۸۱! مسند حاکم: ح ۲، ص ۳۴، ح ۱۹۱! مناقب اهله فنا: ح ۲۵۱، ح ۳۰۴ و ح ۳۰۶!

حدیث: ۳۲- شن‌ترندی: ح ۵، م ۲۳۱، ح ۲۷۲۲، مناقب کوفی: ح ۲، م ۳۹۲، ح ۹۵۹ و م ۳۶۶
ح ۹۶۲؛ نجم کمیر طبرانی: ح ۱۲، م ۸۷، ح ۱۲۵۹۲؛ حلیمه الاولیاء: ح ۲، م ۱۵۳؛ مناقب ابن
مخازنی: م ۲۶۰، ح ۲۴۰، مناقب امام رضا: ح ۲۱۰، م ۲۶۵، ح ۲۱۰، م ۲۶۶

دوبارہ اندر آگئے، آنحضرتؐ نے فرمایا: خدا کی قسم میں نے تھسیں باہر نکالا ہے نہ علیؑ کو اندر ملا ہاۓ ملکے خدا نے علیؑ کو اندر ملا ہا اور تھسیں باہر نکالا ہے۔

٣٠ أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا علي بن قادم قال: أخبرنا اسرائيل [بن يونس]، عن عبدالله بن شريك، عن الحارث بن مالك قال: أتت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: هل سمعت لعلى متقبة؟ قال: كنامع رسول الله (ص) في المسجد فنودي فيها ليلاً: ((ليخرج من المسجد الا آل رسول الله (ص) وآل علي)).

قال: فخر جنا، فلما أصبح أباًه عمّه فقال: يا رسول الله (ص) أخرجت
 أصحابك وأعمامك وأسكنت هذا الغلام؟
 قال رسول الله (ص): ((ما أنا أمرت بآخر اجحكم ولا باسكان هذا
 الغلام، إن الله هو أمر بي)).

[قال أبو عبد الرحمن]: قال فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيق عن سعد: أن العباس أتى النبيَّ (ص) فقال: سددت أبو ابا الباب على؟! فقال: ((ما أنا فتحتها ولا سددتها)).

حارت بن مالک کہتے ہیں: میں کہ معظمه گیا تو سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی میں نے کہا: کیا تم نے علیؑ کی کوئی منزالت و فضیلت سنی ہے؟ وہ بولے ہم نبیؑ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شب منادی ہوئی کہ آل نبیؑ اور آل علیؑ کے علاوہ جو بھی مسجد میں ہیں وہ باہر نکل جائیں، ہم لوگ باہر نکل گئے۔ صحیح ہوتے ہی حضرت کے چچا حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے اس جوان کو

حدیث: ۳۰- کتاب الشه: ص ۵۹۲، ح ۱۳۲۶؛ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۳۵۸، ح ۹۵۳ و ص ۱۱۷؛
ج ۹۵۲؛ مسن شاشی: ح ۱، ص ۱۲۶، ح ۲۳؛ کامل ابن عدی: ح ۳، ص ۲۲۳؛ ترجمة الامام علي بن ابراهیم
مشق: ح ۱، ص ۲۳۲، ح ۲۷۸ و ص ۲۳۸؛ تہذیب الکمال: ح ۵، ص ۲۷۸؛ آنالی مفید: ص ۵۵، ح ۲.

ابن عباس اور سعید بن ابو سلیمان سے منقول ہے کہ: رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؑ کے در کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا
حدیث: ۳۳: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن حماد قال:
حدثنا الوضاح قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمرو بن ميمون قال: قال ابن عباس: وَسَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلَىٰ، فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جَنْبُ
وهو طریقہ لیس له طریق غیرہ.

ابن عباس کہتے ہیں: پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ کے دروازہ کے علاوہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دادیے اور وہ (علیؑ) مسجد میں جنابت کی حالت میں بھی آتے تھے۔ وہی ان کا راستہ تھا اور اس کے علاوہ ان کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

نگاہ رسالت میں علی علیہ السلام کی منزلت

الحديث رقم ٣٣ : أخبرنا بشر بن هلال قال: حدثنا جعفر (وهو ابن سليمان) قال: حدثنا حرب بن شداد، عن قنادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما غزا رسول الله (ص) غزوة تبوك خلف علياً بالمدينة، فقالوا فيه: ملء وكره صحبته، فبع [علي] النبي (ص) حتى لحقه في الطريق فقال: يا رسول الله (ص)، خلقتني في المدينة مع الذراري والنساء حتى قالوا: ملء وكره صحبته. فقال له النبي (ص):

((يا علي، إنما خلفتك على أهلي، أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير الله لانبي بعدي))؟

سعد بن ابی وقادس سے نقل ہے کہ: جب رسول اکرم ﷺ غزوہ تبوک کے لئے گئے تو حضرت علیؓ کو مدینہ میں چھوڑ دیا، لوگوں نے یا اڑادیا کہ "حضرت" کو

حدثت ٤٣٣: كتاب النزه: ج ٢، ص ٥٨٧، ح ١٣٢٢ و ١٣٢٣؛ مسند يرزا ز: ح ٦٧٠؛ مناقب كوفي: ج ١، ص ٥٣٠، ح ٣٢٢ و ٣٢٣؛ دوسي: ج ٥٢٢، ح ٣٢٢ و ٣٢٣؛ مسند أبي يحيى: ج ٢، ح ٣٥٨ و ٣٥٩؛ مسند يرزا ز: ح ٦٧٠؛ مسند كيري: ج ٥، ح ٢٠؛ مسند أبي يحيى: ج ٢، ح ٣٨٧؛ كامل ابن عدرى: ج ٢، ح ٣٦٩؛ مسند أبو سليمان طبراني: ج ٥، ح ١٣٦؛ تاریخ بغداد: ج ١، ح ٣٢٣، ح ٣٢٤؛ مناقب ابن معاذی: ج ٣٥، ح ٣٥٢.

حدیث ۲۳: مصنف ابن ابی شیبہ: ح، ۲، ص ۲۷۴؛ مسنداً حمّ: ح، ۲، ص ۲۷۹؛ فضائل احمد: ع، ۵۰، ح ۷۸ و عص ۱۷۳، ح ۲۳۵؛ کتاب الصنیع: ع، ۵۸۵، ح ۳۲۷؛ سنن ترمذی: ح ۵، ۳۵۹، ح ۶۲۹، ح ۲۷۲؛ اخبار الصنیع: ح ۱۳۹، ح ۳۵۸، ح ۹۵۰ و عص ۳۵۹؛ ح ۹۵۵ و عص ۳۶۲، ح ۹۵۰ و عص ۹۶۰؛ مسنداً بیلطفی: ح، ۹، ص ۳۵۲، ح ۵۶۰؛ مسندر ولایی: ع، ۱۱۶؛ ح ۱۳۱؛ الکنی والاساء دولاپی: ح، ۱، عص ۱۵۰؛ تجمیع بیر طبرانی: ح، ۲۳، ص ۲۷۲، ح ۸۸۳؛ مادرک حاکم: ح، ۳، ص ۱۲۵؛ سنن کبریٰ بیهقی: ح، ۷، ص ۲۵-۲۶؛ مناقب ابن مقازانی: ع، ۲۷۴، ح ۳۰۵ و عص ۲۵۲، ح ۳۰۳ و عص ۲۶۱؛ تاریخ بغداد: ح، ۷، عص ۲۰۵؛ مناقب خوارزی: ع، ۱۰۹؛ ح ۱۲؛ مقتل الحسین خوارزی: ح، ۱، عص ۲۶۲؛ کشف الاشمار: ح، ۳، عص ۱۹۵، ح ۲۵۵ و عص ۲۵۶.

سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ قبیر اسلام علیہ السلام نے فرمایا: اے علی علی اللہ تعالیٰ کی منزلت کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس نبوت درمیان میں نہیں ہے۔

حدیث: ۳۷ اخیرنی ذکریا بن بحیٰ قال: اخیرنا ابو مصعب، عن سعد قال: الدراوردی، عن هاشم بن هاشم، عن سعید بن المسیب، عن سعد قال: لئا خرج رسول الله (ص) الی تبوك خرج علیٰ یشیعه فیکی و قال: يا رسول الله (ص)، اتسر کی مع الخوالف؟ فقال النبي (ص) ((يا علیٰ، أما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا النبوة)).

سعد بن ابی وقاص سے منقول ہے: جس وقت رسول اسلام علیہ السلام تبوك کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت علی علی اللہ تعالیٰ رخصت کرنے کے لئے نکلے اس وقت آپ رونے لگے اور عرض کی یا رسول خدا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے چارہ ہے یہی آخرت نے فرمایا: اے علی علی اللہ تعالیٰ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس نبوت درمیان میں نہیں ہے۔

حدیث: ۳۸ اخیرنی اسحاق بن موسیٰ بن عبد الله بن موسیٰ بن عبد الله بن یزید الانصاری قال: حدثنا داؤد بن کثیر الرقی، عن المنکدر، عن سعید بن المسیب، عن سعد: ان رسول الله (ص) قال لعلیٰ: ((انت منی بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبی بعدی)).

سعد سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت علی علی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حدیث: ۳۷- حدیث ثہر ۲۵، ۲۶ کے مآخذ۔

حدیث: ۳۸- تاریخ الرقی: ج ۱، ص ۱۳۳، و ترجمۃ الامال من تاریخ دمشق: ج ۱، ص ۳۲۰، ح ۲۵۲، ح ۲۵۳۔

علی علی اللہ تعالیٰ سے ملال ہے اور وہ انھیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، یہ سنت ہی حضرت علی علی اللہ تعالیٰ جا کر نبی کریم علیہ السلام سے راست میں ملے اور عرض کی۔ اے نبی کریم علیہ السلام آپ نے مجھے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا جس کے سبب لوگ کہر ہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے اور آخرت کے نے رنجیدہ ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: اے علی علی اللہ تعالیٰ میں تم کو اپنے اہل خانہ پر جانشین بنا کر آیا تھا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔

حدیث: ۳۵ اخیرنا القاسم بن زکریا بن دینار قال: حدثنا أبو نعیم قال: حدثنا عبد السلام [بن حرب]، عن یحییٰ بن سعید [الأنصاری]، عن سعید بن المسیب، عن سعد بن ابی وقاص:

ان النبي (ص) قال لعلیٰ: ((انت منی بمنزلة هارون من موسی)).
سعد بن ابی وقاص سے منقول ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے حضرت علی علی اللہ تعالیٰ کے لئے فرمایا: اے علی علی اللہ تعالیٰ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔

حدیث: ۳۶ اخیرنی ذکریا بن یحییٰ قال: حدثنا أبو مصعب [احمد بن ابی سکر] ان الدراوردی حدثنا، عن محمد بن صفوان الجمحی، عن سعید بن المسیب [انه] سمع سعد بن ابی وقاص يقول: قال رسول الله (ص) لعلیٰ: ((اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا النبوة)).

حدیث: ۳۵- مند برداز: ح، ص، ح؛ سنن ترمذی: ح ۵، ص ۲۷۳، ح ۲۷۴؛ مناب کوفی: ج ۱، ص ۵۱۸، ح ۲۷۰؛ سنن کبریٰ نسائی: ح ۵، ص ۲۲، ح ۸۱۳۹؛ مجمع صغیر طبرانی: ح ۲، ص ۲۲؛ ح ۸۲۲؛ طبقات الحدیثین: ح ۳، ص ۲۶۲، ح ۱۰۲۰؛ حلیۃ الاولیاء: ح ۲، ص ۱۹۶۔

حدیث: ۳۶- تاریخ کبیر: ح ۱، ص ۱۱۵، رقم ۲۲۳.

نگاہ رسالت میں علیؑ کی منزلت

سعید بن میتب کا بیان ہے کہ مجھے اطمینان نہ ہوا تو میں خود سعد کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ تمہارے بیٹے نے مجھ سے کچھ بات (یہ حدیث) تمہاری زبانی نقش کی ہے کیا تم نے نبیؐ سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا پیچک میں نے اس حدیث کو نبی کریمؐ سے انھیں کانوں کے ذریعہ سنائے اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے کان بھرے ہو جائیں۔

الحديث رقم ٥٠ أخرنا ذكرها بن يحيى قال: حدثنا [محمد بن عبد الملك بن محمد] ابن أبي الشوارب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد، عن سعد: أن النبيّ (ص) قال لعليّ: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير الا أنه لا نبيّ بعدك)). قال سعيد: فاحببتك أن أشافه بذلك سعداً فائته فقلت: ما حدثت حدثني به عنك عامر؟ فادخل اصبعيه في أذنيه وقال: سمعت من رسول الله (ص)، والباقي كذا.

عامر بن سعد نے سعد سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: اے علیؑ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیؑ سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں سے۔

سعید بن میتب کہتے ہیں کہ میں نے خود جا کر سعد سے پوچھا کہ عامریہ کہہ رہا ہے تو سعد نے اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر رکھا، میں نے یہ حدیث رسول اسلام علیہ السلام سے سنی ہے اور اگر نہ کسی ہو تو میرے کان بھرے ہو جائیں۔

ص ٥٥: مصطفى عبد الرزاق: ج ١١، ص ٢٢٢، ح ٢٠٣٩٠؛ سعد احمد: ح ٣، ص ١١٢، ح ١٥٢٢؛
فطائل الحس، ح ٧٤، كتاب السنّة: ص ٥٨٦، ح ١٣٣٢؛ مناقب كوفي: ح ١، ص ٥٢٢،
ح ٣٩٥، ص ٥٢٣، ح ٣٦٨؛ موضع اصحاب: ح ٢، ص ٣٦٣؛ ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: ج ١،
ص ٣٠٩، ح ٣٣١، ح ٣٣٢.

٣٩: أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا أحمد بن خالد قال:
حدثنا عبد العزيز بن [يعقوب بن] أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن
المنكدر: قال سعيد بن المسيب: أخبرني إبراهيم بن سعد أنه سمع آباء سعداً
وهو يقول:
قال النبي (ص) لعلي: ((أما ترضى أن تكون متى بمنزلة هارون من موسى
الآلة لا بُهْة)).

قال سعيد: قلم أرض حتى أتيت سعداً فقلت: شيئاً حدثني به ابنك عنك؟
قال: وما هو؟ وانتهري، فقلت: أما على هذا فلا.

فقال: ما هو يا ابن أخي؟
فقلت: هل سمعت النبي (ص) يقول لعليّ كذا و كذا؟

قال: نعم (وأشار الى اذنيه) و الا فاستكنا ، لقد سمعته يقول ذلك .
سعید بن میتب کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن سعد نے خبر دیا اور اس نے اپنے
باپ سعد سے سنا ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: کیا تم اس
بات پر راضی نہیں ہو کہ تھیس مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق یہ
بے کہیرے بعد نبوت نہیں ہے .

حدیث: ۳۹- فضائل احمد: ج ۱، ص ۱۳۶؛ ح ۲۰۱، ج ۲۰۱؛ ح ۲۰۲، ج ۲۰۲؛ مسیح مسلم: ج ۲، ص ۱۸۷؛ ح ۲۰۳، ج ۲۰۳؛ کتاب ابن حیثام: ۵۲۲؛ منندیه از: ح، مس ح ۱۰۲۵؛ مناقب کوفی: ح ۱، مس ۵۱۲، ح ۳۳۵ و مس ۵۲۲؛ ص ۵۸۷، ح ۱۳۳۵؛ منندیه از: ح، مس ح ۱۰۲۵؛ مناقب کوفی: ح ۱، مس ۵۱۲، ح ۳۳۵ و مس ۵۲۲؛ سنن کبریٰ نسائی: ح ۵، مس ۳۷۷، ح ۳۶۶ و مس ۳۶۷؛ ح ۵۲۵-۵۲۳-۳۸۳-۳۸۲؛ سنن شیوخ ابویعلی: مس ۳۷۳؛ ح ۸۱۳۰؛ منند ابی بیکلی: ح ۲، مس ۸۶؛ ح ۲۳۹ و مس ۹۹، ح ۵۵۵؛ مجمم شیوخ ابویعلی: مس ۳۷۴؛ ح ۱۸۸۸؛ اکفیٰ والاسلام دولاپی: ح ۱، مس ۹۶؛ مسیح ابن حبان: ح ۱۵، مس ۳۶۹، ح ۲۹۲۴؛ مناقب ابن مخارزی: مس ۲۷۲، ح ۳۰۰-۳۰۱ و مس ۳۲۲؛ ح ۵۱؛ ائمای طوی: مس ۲۲۷، ح ۳۹۹۹؛ مناقب خوارزی: مس ۱۲۲، ح ۲۸۲؛ ترعدد الامام علی مبنی تاریخ دمشق: ح ۱، مس ۲۲۷، ح ۲۵۰ و مس ۳۱۸، ح ۳۱۵.

ابراهیم بن سعد نے اپنے باپ سے نقل کیا کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ارادہ کر رہا تھا؟

حدیث: ۵۳ أخبرنا عبید الله بن سعد بن ابراهیم بن سعد البغدادی قال: حدثی عصی [یعقوب] قال: حدثنا أبي، عن [محمد] بن اسحاق قال: حدثی محمد بن طلحة بن یزید بن رکانة، عن ابراهیم بن سعد بن أبي وفاص، عن أبيه سعد: انه سمع النبي (ص) يقول لعلی حين خلله في غزوۃ تبوك على اهله: ((لا يرضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی)).

سعد سے منقول ہے: کہ جب رسول اسلام ملکہ طعم غزہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے اور امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر والوں پر سر پرست بنا کر چھوڑا تو میں نے رسول اسلام ملکہ طعم کو فرماتے ہوئے سن کہ اے علی! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمھیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو باروں گھومتی سے تھی! مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حدیث ۵۲: أخبرنا محمد بن المثنی قال: حدثنا أبو بکر الحنفی
عبدالکبیر بن عبدالمجید قال: حدثنا بکیر بن مسمار قال: سمعت عامر بن
عبدیقول:

قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب عليّ بن أبي طالب؟
قال: لا أسبه ما ذكرت ثلاثة قالهن رسول الله(ص) لأن تكون لي(قال)
إحدة [منهن] أحب إلى من حمر النعم:

حدیث: ۵ أخبرتی محمد بن وهب قال: حدثنا مسکین [بن بکیر] قال:
حدثنا شعبة، عن علی بن زید [بن جدعان] قال:
سمعت سعد بن المیتب يحذّث عن سعد: أن رسول الله (ص) قال
علی: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)). فقال أول مزءة رضي
بتها، فسألته بعد ذلك فقال: بل، بل.

سعید بن میتب نے سعد سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تھیس مجھ سے وہی نسبت ہے جو باروں گز دعویٰ سے تھی تو حضرت علیؓ نے پہلی ہی بار کہا "میں راضی ہوں میں راضی ہوں" پھر جب میں نے دوبارہ پوچھا تو عرض کی: جی ہاں، جی ہاں [میں راضی ہوں]

حدیث ۵۲: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر خندر قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن ابراهیم قال: سمعت ابراهیم بن سعد يحذث عن أبيه، عن النبي (ص) أنه قال لعلی: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى))؟.

حدیث: ۵۱- منند طیلی: ح، اص، ۲۹، ح ۲۱۳؛ مند حیدی: ح، اص، ۳۸، ح ۱؛ طبقات ابن سعد: ح، اص، ۲۲؛ مند احمد: ح، اص، ۹، ح ۱۵۰۹؛ مند اوس، ۸۷، ح ۱۳۹۰؛ مند اوس، ۱۲۸، ح ۱۵۲۷؛ فضائل الحمد: ح، اص، ۵۲، ح ۳۴۵؛ کتاب السنّة: ح، ۵۸۸؛ مجموع کتب طبرانی: ح، اص، ۳۸، ح ۱۳۲۳؛ مناقب کوفی: ح، اص، ۵۰، ح ۳۲۱، وص، ۵۱۳، ح ۲۷۳۲ وص، ۵۳۲، ح ۲۷۲؛ مند ابویعلی: ح، ۴۷، ح ۲۹۸؛ مند شاشی: ح، اص، ۱۹۵، ح ۱۳۸؛ کامل ابن عذری: ح، ۱۹۹؛ حلیل الاولیاء: ح، اص، ۹۵؛ موضع اوہام: ح، ۲، ح ۲۳۶؛ تاریخ بغداد: ح، اص، ۱۹۲، ح ۲۳۶؛ ح ۹، ح ۳۲۲، ح ۳۹۳۲.

حدیث: ۵۲- منظمه ای: ح ۱، م ۲۸، ح ۲۰۵؛ مصطفی‌ابن ابی شیب: ح ۲، م ۱، ح ۱۲؛ منظمه، ح ۱۳
ص ۹۵، ح ۱۵۰؛ سعی بخاری: ح ۶، م ۳، ح ۲۶؛ سعی مسلم: ح ۴، م ۱۸؛ منظمه این ماجد: ح ۱۳
ص ۳۲، ح ۱۵۵؛ مناقب کوفی: م ۵۳۵، ح ۲۷۵؛ منظمه کبری‌نسانی: ح ۵، م ۲۳، ح ۸۱۳۲؛ منظمه
ابوی علی: ح ۲، م ۳، ح ۱۸۷؛ مناقب خوارزمی: م ۱۳۹، ح ۱۵۷.

اے رسول خدا ﷺ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمھیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موتی سے تھی۔

میں انھیں برائیں کہہ سکتا جب تک مجھے یہ یاد رہے گا کہ رسول اسلام ﷺ نے خبر کے دن ارشاد فرمایا: میں یہ علم اس مرد کو دوں گا جسے خدا اور اس کا رسول ﷺ پیارا ہوا رہے خدا اور اس کے رسول ﷺ کا پیارا ہوا اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، ہم سب نے علم لینے کی تمنا کی لیکن حضرت نے پوچھا علیؑ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے آپ ﷺ نے فرمایا: بلا و، لوگ علیؑ کو لے آئے تو آنحضرت نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور علم عطا کیا پس اللہ نے انھیں فتح دی؛ خدا کی قسم اس کے بعد معاویہ نے اس سے کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ مدینہ سے چلا گیا۔

حدیث ۵۵ اخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد [بن جعفر غفار] قال: حدثنا شعبة [بن الحجاج]، عن الحكم [بن عتبة]، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: حلف النبي (ص) علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله (ص) تحلفي في النساء والصبيان؟! فقال: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير الله لا نبي بعدي))؟

حدیث: ۵۵۔ محدث علی ای: حدیث: ۲۹، ح ۲۰۹؛ مصنف ابن ابی شیبہ: ح ۲، حدیث: ۳۶۹، ح ۳۲۰۴۵؛ مسنده احمد: حدیث: ۳، حدیث: ۱۰۳۶، ح ۱۵۸۳؛ صحیح بخاری: حدیث: ۲، حدیث: ۳، ح ۲۳۸؛ صحیح مسلم: حدیث: ۳، حدیث: ۳۱، ح ۲۰۳؛ مذاقب کوفی: حدیث: ۱، حدیث: ۵۱۳، ح ۵۱۳؛ مذکور: حدیث: ۲، حدیث: ۵۶۹، ح ۲۳۸؛ و ح ۲، حدیث: ۱۱۰۳، مسنده ابو یعلی: حدیث: ۱، حدیث: ۲۸۵، ح ۳۲۲؛ صحیح ابن حبان: حدیث: ۱۵، حدیث: ۳۷۰، ح ۲۳۰؛ و ح ۲، حدیث: ۲۹۲، ح ۲۹۲؛ مشکل آثار طحاوی: حدیث: ۲، حدیث: ۲۱۳، ح ۱۹۰۳؛ شنیقی: حدیث: ۲۹، حدیث: ۳۰؛ تاریخ بغداد: حدیث: ۱، حدیث: ۲۲۲؛ مذاقب ابن مقازی: حدیث: ۳۱، حدیث: ۱۸۳؛ ح ۲۱۹؛ شرح الشیخ بخوی: حدیث: ۱۳، حدیث: ۱۱۳، ح ۷، حدیث: ۳۹۰؛ مذاقب خوارزمی: حدیث: ۳۱، حدیث: ۱۸۷، ح ۱۵۵؛

لا أَسْبَهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَأَخْدَدْتُ عَلَيْهَا وَإِنَّهُ وَفَاطِمَةٌ
فَادْخُلُوهُمْ تَحْتَ ثُوبَهُ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ هَذِلَاءُ أَهْلِي وَأَهْلِ بَيْتِي))
وَلَا أَسْبَهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ خَلَقْتَهُ فِي غَرْوَةٍ غَرَّاهَا قَالَ [عَلَيْهِ]: خَلَقْتَهُ مِنْ
الْعَبَيْانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: ((أَوْ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
الْأَنَّهُ لَا يَبُوَّةُ (بَعْدِي)))

وَلَا أَسْبَهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْرِ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): ((لَا تُعْطِينَ هَذِهِ
الرَّاِيَةَ رَجُلًا يَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَحْبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيَفْعَلُ
يَدِيهِ)). فَنَطَّا لِلَّا فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلَيْيَ))؟ فَقَالُوا: هُوَ أَرْمَدٌ. فَقَالَ: ((
ادْعُوهُ)). فَدَعَوْهُ فَصَقَ فِي عَيْنِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّاِيَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ
[قَالَ]: وَاللَّهُ مَا ذَكَرْتُهُ مَعَاوِيَةً بِحَرْفِ حَتَّىٰ مِنَ الْمَدِينَةِ.

عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ مَّا مَنَّقُولٌ هُوَ كَهْدَنْ مَعَاوِيَةَ نَسْعَدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ مَّا كَهْدَنْ عَلَىٰ
ابْنِ ابِي طَالِبٍ عَلَيْهَا السَّلَامُ كَوْرَا بَحْلَاءَ كَيْوُنْ ثُمَّ كَتَبَتِ اسْنَافُهُ اسْنَافُهُ اسْنَافُهُ
رسُولُ اسلام ﷺ کی تین حدیثیں مجھے یاد رہیں گی میں انھیں برائیں کہہ سکتا
اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی میرے حق میں ہوتی تو وہ میرے لئے سرخ
اوٹوں سے بہتر ہوتی۔

میں انھیں برائیں کہہ سکتا جب تک مجھے یہ یاد رہے گا کہ جب رسول اسلام ﷺ نے حجہ
وَحْيَ نَازَلَ ہوئی تو آپ ﷺ نے امام علی، جناب فاطمہ، امام حسن، اور امام حسین (علیہم
السلام) کو ایک چادر کے تیچے جمع کیا اور فرمایا: پرو دگار ایسی میرے بہمیت ہیں۔

میں انھیں برائیں کہہ سکتا جب تک مجھے یاد رہے گا کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی
غزوہ تبوك پر جا رہے تھے اور حضرت علیؑ کو مدینہ میں چھوڑا تو آپ نے عرض کی

حدیث: ۵۳۔ حدیث ثہر ۱۵ کے مأخذ۔

عائشہ پنے باپ سعد سے نقل کرتی ہے: کہ رسول اسلام ملئی تبلیغ امام علی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے لئے لکھا چاہتے تھے تو امام علی علیہ السلام آنحضرت ملئی تبلیغ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نظر، رخصت کرتے وقت حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے شکوہ کرتے ہوئے عرض کیا: کہ کیا آپ مجھے بوزخوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اس وقت آنحضرت نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم حکم کو مجھے دے دیں نسبت ہے جو ہارونؑ کو مومن سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

حدیث: ۵۸۔ اخبرنا الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن حمزة بن عبد الله [بن عمر بن الخطاب]، عن أبيه، عن سعد قال:

خرج رسول الله (ص) في غزوة تبوك وخلف علياً فقال له: أتخلقي؟ فقال له: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ينبي بعدي)).

حدیث منقول ہے کہ: رسول اسلام ملئی تبلیغ امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر غزوہ تبوک کے لئے لکھا تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا: کہ کیا آپ ملئی تبلیغ امام علی علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس پر آنحضرت نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھے دے دی نسبت ہے جو ہارونؑ کو مومن سے تھی فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حدیث: ۵۹۔ اخبرنا القاسم بن زكرياء بن دينار قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا قططر، عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله بن الرقيم الكتاني، عن سعد بن أبي وفاص: أن النبي (ص) قال لعلي: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)).

حدیث: ۵۸۔ مسند الحسن: ج ۲، ص ۱۵۵، ح ۱۶۰۰؛ تاریخ کبیر بغدادی: ح ۲، ص ۱۷۴، ح ۱۳۳۹؛ مسند برداز: ح ۳، ص ۳۸، ح ۱۲۰۰؛ مل المحدث رازی: ح ۲، ص ۳۸۹، ح ۲۶۸۰؛ تاریخ بغداد: ح ۸، ص ۵۲.

حدیث: ۵۹۔ مسند احمد: ح ۳، ص ۵۲۶، ح ۲۷۵؛ ترجمۃ الإمام علی من تاریخ دمشق: ح ۱، ص ۳۰۳، ح ۳۰۸-۳۲۸، ح ۳۲۷، ص ۳۲۸؛ مسند احمد: ح ۲، ص ۳۲۲، ح ۳۲۲؛ مسند احمد: ح ۲، ص ۳۲۷، ح ۳۲۷.

حدیث: ۵۹۔ ملکات ابن سعد: ح ۲، ص ۲۲؛ کتاب النبی: مس ۵۹۵، ح ۱۳۸۲؛ مس ۵۹۶، ح ۱۳۸۵؛ مس ۵۹۷، ح ۱۳۸۵؛ مس ۵۹۸، ح ۱۳۸۵؛ مس ۵۹۹، ح ۱۳۸۵.

حدیث منقول ہے کہ رسول اسلام ملئی تبلیغ امام علی علیہ السلام کو غزوہ تبوک میں نہیں لے گئے تو امام علی علیہ السلام نے آنحضرت ملئی تبلیغ کی خدمت میں عرض کی کہے رسول خدا ملئی تبلیغ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اس وقت آنحضرت ملئی تبلیغ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھے دے دی نسبت ہے جو ہارونؑ کو مومن سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

حدیث: ۵۶۔ اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان [المصيصي المجالدي] قال: أخبرنا المطلب [بن زياد]، عن ليث [بن أبي سليم]، عن الحكم [بن عبيدة]، عن عائشة بنت سعد، عن سعد: أن رسول الله (ص) قال لعلي في غزوة تبوك: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ينبي بعدي)).

عائشہ بنت سعد، حدیث نقل کرتی ہے کہ رسول اسلام ملئی تبلیغ نے غزوہ تبوک کے موقع پر امام علی علیہ السلام سے فرمایا: (أے علی علیہ السلام) تم کو مجھے دے دی نسبت ہے جو ہارونؑ کو مومن سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حدیث: ۵۷۔ اخبرنا زكريا بن يحيى قال: أخبرنا أبو مصعب [احمد بن أبي سكر]، عن عبد العزيز بن محمد [الدرارودي]، عن الجعید [بن عبد الرحمن]، عن عائشة، عن أبيها: أن علياً خرج مع النبي (ص) حتى جاءته الوداع يربد غزوة تبوك وعلي يشتكي وهو يقول: أتخلقي مع الغوال؟ فقال النبي (ص): ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة))؟

حدیث: ۵۶۔ کتاب النبی: مس ۵۸، ح ۱۳۳۹؛ مسند برداز: ح ۳، ص ۳۸، ح ۱۲۰۰؛ مل المحدث رازی: ح ۲، ص ۳۸۹، ح ۲۶۸۰؛ تاریخ بغداد: ح ۸، ص ۵۲.

حدیث: ۵۷۔ مسند احمد: ح ۳، ص ۵۲۶، ح ۲۶۸۰؛ فضائل احمد: ح ۲۸؛ کتاب النبی ابن أبي عامر: ح ۱۳۳۰، ح ۱۳۳۱؛ مذاقب کوئی: ح ۱، ص ۵۲۵، ح ۲۷۲؛ مذاقب ابن مقازی: ح ۳۲، ح ۵۸۷، ح ۱۳۳۰؛ مذاقب کوئی: ح ۱، ص ۵۲۵، ح ۲۷۲؛ مذاقب ابن مقازی: ح ۳۵۵، ح ۱۳۸۲؛ مسند احمد: ح ۲، ص ۳۸۲، ح ۳۸۲؛ مسند احمد: ح ۲، ص ۳۸۲، ح ۳۸۲؛ مسند احمد: ح ۲، ص ۳۸۲، ح ۳۸۲؛ فرانک اسٹین: ح ۱، ص ۱۲۶.

سعد بن ابی و قاص سے نقل ہے کہ: رسول اسلام ﷺ نے امام علیؑ سے فرمایا: تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیؑ سے تھی۔

حدیث: ۴۰ اخیر نام محمد بن یحییٰ قال: حدثنا علی بن قادم قال: حدثنا عبد الله بن شریک، عن الحارث بن مالک قال: قال سعد بن مالک: ان رسول الله(ص) غر اعلیٰ نافعه الجدعاء و خلف علیٰ فجاء علیٰ حتیٰ اخذ بغرز الناقة فقال: يا رسول الله(ص) زعمت قربش انك اتنا خلقتني انك استقللتني و كرهت صحبتي او يكى علىٰ، فنادى رسول الله(ص) في الناس: ((ما منكم أحد إلا ولها حامة ، يابن ابى طالب اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا إله لا إله إلا نبىٰ بعدى)). قال علیٰ: رضيت عن الله و عن رسوله (ص).

سعد بن مالک نے کہا: رسول اسلام ﷺ اپنے ناق پر جس کا نام (جدعاء) تھا سوار ہو کر (غزوہ تبوك کے لئے) روانہ ہوئے اور امام علیؑ کو اپنے ساتھ نہیں لیا پس حضرت علیؑ آئے اور آپ نے مہارناق تھام کر (بغمبر ﷺ سے) عرض کیا قربش کا یہ خیال ہے کہ آپ نے مجھے اس لئے چھوڑا ہے کہ میں آپ کے لئے بوجھ ہو گیا ہوں اور میری ہمراہی آپ کو گوارانہیں ہے یہ کہہ کر آپ رونے لگے اس پر آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی خاص دوست نہ ہو" اے ابو طالب کے فرزند کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تھیں، مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیؑ سے تھی، اس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (اس پر) امام علیؑ نے فرمایا: میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں.

حدیث: ۶۰۔ مصنف ابن ابی شہری: ج ۲، ص ۳۶۹، ح ۱۵ (۳۲۰۶۹)؛ مناقب: ج ۲، ص ۳۶۹ و ۳۷۳، ح ۱۳۲؛ فضائل احمد: ج ۱، ص ۹۵، ح ۱۳۲؛ کتاب المذاہب: ج ۱، ص ۵۸۸، ح ۱۳۳؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۵۸۰، ح ۱۳۳؛ شنک کبریٰ نسائی: ج ۵، ص ۳۲۳، ح ۱۳۳؛ بجم کبریٰ طبرانی: ج ۱، ص ۳۶۹، ح ۱۳۶؛ تاریخ بغداد: ج ۱۲، ص ۳۲۳ و ح ۱۳۶؛ استیعاب: ج ۳، ص ۱۰۹، ح ۱۳۶۔

حدیث: ۶۱۔ مصنف ابن ابی شہری: ج ۲، ص ۳۶۹، ح ۱۵ (۳۲۰۶۹)؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۵۳۸، ح ۱۳۸؛ تاریخ بغداد: ج ۱۰، ص ۲۳۳؛ ترجمۃ الامام علیٰ من تاریخ دمشق: ج ۱، ص ۳۸۶، ح ۱۳۳؛ و مسیحیوں کی تاریخ بغداد: ج ۱۰، ص ۲۳۹، ح ۱۳۳؛ تہذیب الکمال: ج ۳۵، ص ۳۹۳، ح ۱۳۹؛ و مسیحیوں کی تاریخ بغداد: ج ۱۲، ص ۳۹۲، ح ۱۳۹؛ و مسیحیوں کی تاریخ بغداد: ج ۱۳، ص ۳۹۲، ح ۱۳۹۔

حدیث: ۲۱۔ أخبرنا عمرو بن عليٰ [الصیرفي الفلاس] قال: حدثنا يحيىٰ (يعنى ابن سعيد [القطان]) قال: حدثنا موسى بن عبد الله [الجهنمي] قال: دخلت علىٰ فاطمة ابنة عليٰ فقال لها رفيقى [أبو مهل]: هل عندك شيء عن والدك ثبت؟ قالت: حدثني اسماء بنت عميس: أن رسول الله(ص) قال لعليٰ: ((انت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبىٰ بعدى))).

موسى بن عبد الله [جهنمي] سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے دوست ابو مہل کے ہمراہ فاطمة بنت علیؑ کی خدمت میں گیا میرے دوست ابو مہل نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو اپنے باپ کی کوئی فضیلت یاد ہے تو آپ نے فرمایا: مجھ سے اسماء بنت عمیس نے بیان کیا ہے کہ رسول اسلام نے امام سے فرمایا: اے علیؑ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیؑ سے تھی سو اے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

حدیث: ۲۲۔ أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن عون، عن موسى العجمي قال:

أدركت فاطمة ابنة عليٰ وهي ابنته ثمانين سنة فقلت لها: تحفظين عن ايک شيئاً؟

قالت: لا، ولكنني أخبرتني اسماء بنت عميس أنها سمعت رسول الله(ص) يقول: ((يا عليٰ، أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه ليس بعدى نبىٰ))).

حدیث: ۲۲۔ مصنف ابن ابی شہری: ج ۲، ص ۳۶۹، ح ۱۳۶ (۳۲۰۶۷)؛ مناقب: ج ۲، ص ۳۶۹ و ۳۷۳، ح ۱۳۲؛ فضائل احمد: ج ۱، ص ۹۵، ح ۱۳۲؛ کتاب المذاہب: ج ۱، ص ۵۸۸، ح ۱۳۳؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۵۸۰، ح ۱۳۳؛ شنک کبریٰ نسائی: ج ۵، ص ۳۲۳، ح ۱۳۳؛ بجم کبریٰ طبرانی: ج ۱، ص ۳۶۹، ح ۱۳۶؛ تاریخ بغداد: ج ۱۲، ص ۳۲۳ و ح ۱۳۶؛ استیعاب: ج ۳، ص ۱۰۹، ح ۱۳۶۔

حدیث: ۲۳۔ تاریخ الشفقات علیٰ: ج ۱، ص ۵۲۲، ح ۲۱۰۶؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۵۰۲، ح ۲۲۲؛ بجم شیوخ: ج ۱، ص ۲۵۲، ح ۱۰۰۸؛ تاریخ بغداد: ج ۱۰، ص ۲۳۳؛ ترجمۃ الامام علیٰ من تاریخ دمشق: ج ۱، ص ۳۸۶، ح ۱۳۳؛ و مسیحیوں کی تاریخ بغداد: ج ۱۰، ص ۲۳۹، ح ۱۳۳؛ تہذیب الکمال: ج ۳۵، ص ۳۹۳، ح ۱۳۹۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت علیؑ کے رسول ﷺ کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ”ہمارا رسول وفات پائے یا قتل کر دیا جائے تو یہ تم لوگ اٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے...“ خدا کی قسم ہم ہرگز نہ پلٹیں گے جب کہ خدا ہماری ہدایت کر چکا ہے خدا کی قسم اگر رسول خدا فوت ہو گئے یا قتل کئے گئے تو یقیناً میں بھی اس بات پر جنگ کروں گا جس پر آخرت پوری زندگی کفار سے بیٹھا ہوں اور مجھ سے زیادہ ان کا احقدار کوں ہے؟

حدیث: ۲۵ اخیرنا الفضل بن سهل قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو عوالة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد: أن رجلاً قال لعلي: يا أمير المؤمنين لم ورثت ابن عمك دون عنك؟ قال: جمع رسول الله (ص) (أو قال: دعا رسول الله (ص)) بني عبد المطلب، فصنع لهم مذًا من طعام، قال: فاكروا حتى شعوا وبقي الطعام كما هو كانه لم يمس، ثم دعا بعمر فشربوا حتى رروا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، فقال: ((يا بني عبد المطلب، أني بعثت اليكم بخاصية و إلى الناس بعامة، وقد رأيتم في من هذه الآية ما قدر رأيتم، فلما يباينوني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي [وزيري])؟.

فلم يقم إليه أحد، فقدمت إليه و كنت أصغر القوم [ستة] فقال: ((جلس)). ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول:

حص ۳۴۹، ح ۲۲۸ و حص ۲۸۹، ح ۲۸۹؛ امامی محاذی: ح ۱، حص ۸۶ (ب)؛ تفسیر ابن ابی حاتم: حص ۲، حص ۵، حص ۷؛ تفسیر کبیر طبرانی: ح ۱، حص ۷، حص ۱۰، حص ۲۷؛ مستدرک حاکم: ح ۳، حص ۱۲۶؛ معرفۃ الصحابة: حص ۲۲، امامی طوی: حص ۵۰۲، ح ۱۰۹۹؛ ترجمۃ الامام علی من تاریخ دمشق: ح ۱، حص ۷، حص ۱۲۳، ح ۱۲۳؛ فرانکا سلطین: ح ۱، حص ۲۲۲، باب: ریاض اضطراء: ح ۲، حص ۳۰۰.

موسیٰ جہنمی کا بیان ہے کہ میں نے فاطمہ بنت علیؑ سے ملاقات کی اس وقت ان کی عمر (۸۰) برس کی تھی میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو اپنے بیان کی کوئی فضیلت یاد ہے فرمایا: نہیں لیکن اسماء بنت عمیس نے مجھے خبر دی ہے کہ میں نے رسول اسلام ﷺ کو یہ کہتے ہوئے ساہے اے علیؑ تھمیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حدیث: ۲۳ اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم الاولدي قال: حدثنا ابو نعیم قال: حدثنا حسن (وهو ابن صالح) عن موسی الجهمی، عن فاطمة بنت علي، عن اسماء بنت عمیس: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لِعَلِيٍّ: ((أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدِّي نَبِيًّا)).

اسماء بنت عمیس سے نقل ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے امام علیؑ سے فرمایا: تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

حدیث: ۲۳ اخبرنا محمد بن یحییٰ بن عبد الله النیسابوری و احمد بن عثمان بن حکیم (واللطف لمحمد) قالا: حدثنا عمرو بن طلحة قال: حدثنا اسپاط [بن نصر]، عن سماعک [بن حرب]، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ علِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص): أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «أَفَنَّ ماتَ أَوْ قُلَّ انْقَلَبَتِمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبْ» [آل عمران / ۱۳۳] [وَاللَّهُ لَا نَنْقُلُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ أَذْهَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَنَّ ماتَ أَوْ قُلَّ لَا قَاتَلَنَّ عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ حَنْيَ ماتَ، وَاللَّهُ أَنَّى لَأَخْوَهُ وَوَلَيْهِ وَابْنِ عَمِّهِ، وَمَنْ أَحْقَ بِهِ مَنِّي؟

حدیث: ۲۳ - فضائل احمد: حص ۱۳۶، ح ۲۱۳؛ مناقب کوفی: ح ۱، حص ۵۲۹، ح ۲۲۳ و حص ۵۳۰؛ ح ۳۹۲؛ تفسیر کبیر طبرانی: حص ۲۲۳، حص ۱۳۹، ح ۳۸۲؛ ترجمۃ الامام علی من تاریخ دمشق: ح ۱، حص ۳۸۲، حص ۳۷۲؛ حدیث: ۲۲ - فضائل احمد: حص ۱۲۶، ح ۲۳۲؛ تفسیر فرات کوفی: حص ۹۶، ح ۸۰؛ مناقب کوفی: ح ۱،

حلیت: ۶۲ اخیراً زکریاً بن یحییٰ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
قال: حدثنا عبد الله بن تمسير قال: حدثنا مالک بن مغول، عن الحارث بن
حصیرة، عن أبي سليمان الجهمي قال:
سمعت علياً على المنبر يقول:
((أنا عبد الله و آخر رسوله) لا يقولها [غيري] الا كذاب مفترى)).
فقال رجل: أنا عبد الله و آخر رسوله (ص) [مستهزءاً]، ففتح فحمل.
ابو سليمان مجھنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو منبر پر فرماتے ہوئے تھا
کہ میں ہی بندہ خدا اور اس کے رسول کا بھائی ہوں اور یہ دعویٰ میرے علاوہ کوئی
اور نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہو گا۔ اس وقت ایک شخص نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا
میں (بھی) عبد اللہ اور رسول خدا علیہ السلام کا بھائی ہوں یہ کہتے ہی اس کا گلا گھٹ
گیا اور اسے انعاماً کر لے جایا گیا۔

(جلس)) حتى كان في الثالثة عشر بيه على يدي ثم قال: ((أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري))).
فبدلاك ورثت ابن عمي دون عمي.

ربیع بن ناجد سے منقول ہے کہ ایک شخص نے امام علیؑ سے پوچھا کہ آپ اپنے چچا کے ہوتے ہوئے اپنے پیچا زاد بھائی کے وارث کیوں کر ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اسلام ﷺ نے اولاً عبدالمطلبؑ کو جمع کیا اور ان کے لئے ایک مد کھانا تیار کیا لوگوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سب کے سب سیر ہو گئے اور کھانا دیا ہی بچار ہاجتے کسی نے کھایا ہی نہ ہو پھر شریعت مغلوب ایسا سب نے پیا اور سیراب ہو گئے

اس کے بعد آپ ملکیتِ اسلام نے فرمایا: اے اولاد عبدالمطلب! میں خدا کی طرف سے دنیا کے تمام لوگوں پر عومنا اور تم پر خصوصاً رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جو کچھ تم نے مجھ سے ظاہر ہونے والے مجرزہ کو دیکھا جو تم نے پہلے نہیں دیکھا تھا پس تم میں سے کون ہے جو اس وعدہ پر میری بیعت کرے کہ وہی میرا بھائی، ساتھی، وارث اور وزیر ہو گا، یہ سن کر مجمع خاموش رہا اور کوئی بھی نہ اٹھا پس میں انہ کھڑا ہوا جب کہ میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا آپ ملکیتِ اسلام نے مجھے بیخادریا اور تین بار اسی طرح فرمایا اور ہر بار میں ہی اٹھتا تھا اور آپ ملکیتِ اسلام مجھے بیخادریتے تھے تیرسی مرتبہ آپ ملکیتِ اسلام نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا: تم ہی میرے بھائی، ساتھی، وارث اور وزیر ہو یہی وجہ ہے کہ میں اپنے پیچا کے ہوتے ہوئے اپنے پیچا زاد بھائی کا وارث ہوں۔

ج ۲۷، س ۳۴۷؛ ج ۲۷، س ۲۵۶؛ کامل ابن عذری: ج ۲، س ۷

١٥- حدیث: مسند احمد: ح، ج ٢٧٤، فضائل احمد: ج ١، ح ٣٣٢؛ الکشف والیمان: ح ٧، ج ١٨٢.

علی علی اللہ مجدد سے ہیں اور میں علی علی اللہ سے

حدیث: ۲۷ أخبرنا بشر بن هلال، عن جعفر بن سلیمان، عن یزید الرشک، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حسین قال: قال رسول الله (ص): ((انَّ عَلِيًّا مُنْتَهٰى وَأَنَا مِنْهُ وَ[هُوَ] أَوْلَى كُلَّ مُؤْمِنٍ [بِعَدِي]). عمران بن حسین کا بیان ہے کہ رسول اسلام علی علی اللہ نے فرمایا: علی علی اللہ مجدد سے ہیں اور میں علی علی اللہ سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ [۱]

حدیث: ۲۸ أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا شريك [بن عبد الله] قال: حدثنا أبو اسحاق السبيعي [قال: حدثني

حدیث: ۲۹ مناقب ابن مخازنی: میں ۲۲۹، ح ۲۷۶؛ ترجمۃ الامام علی من تاریخ دمشق: ج ۱، ص ۳۱، ح ۲۸۵۔ [۱] ان حدیثوں میں لفظ "ولی" کے معنی، حاکم، سرپرست، رہبر، اور پیشوائے ہیں۔ دوست اور دگار کے معنی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ علی علی اللہ نے پیشوائے آنحضرت علی علی اللہ کے زمانے میں پا ہے آنحضرت کے بعد مومنین کے دوگار تور ہے تھی ہیں۔

اور ان حدیثوں میں رسول خدا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولی مومنین کا ذکر آیا ہے لہذا یہاں پر ولی کے معنی عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہیں یعنی سرپرست، رہبر اور حاکم درست وفات رسول اکرم علی علی اللہ کے بعد پر کوئی خصوصیت نہ ہوگی۔

۹۵ علیٰ مُصطفیٰ مجھ سے ہیں اور میں علیٰ مُصطفیٰ سے

وقال: ((الحالۃ سریلۃ الام)). وقال لعلی: ((أنت منی و أنا منك)). وقال لجعفر: ((أشیئت خلقی و خلقی)). وقال لزید: ((يا زید أنت أخونا و مولاانا)).
بانی ابن بانی نے امام علیؑ کے نقل کیا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں: جب ہم
کسے مدینہ جانے کے لئے آگے بڑھتے تو جناب حمزہ کی بیٹی پچاپچا پکارتی ہوئی آئی
امام نے انھیں انھالیا اور جناب فاطمہؓ سے فرمایا یہ تمھاری پچھوٹی پچازاد بہن ہیں تو
جناب فاطمہؓ نے انھیں گود میں لے لیا اب ان کی پروردش کے سلسلہ میں امام علیؑ
جعفر اور زید کے درمیان اختلاف ہوا۔
امام علیؑ نے فرمایا: میں ان کی پروردش کا زیادہ حق دار ہوں یہ میرے چپا کی
بھی ہیں۔

جعفر نے کہا: میرے پچاکی بیٹی ہیں اور ان کی خالد میری بیوی ہیں اور زید نے کہا: میرے بھائی کی بیٹی ہیں۔

الغرض رسول اسلام نے فیصلہ کیا کہ ان کی پروردش کا حق ان کی خالہ کو ہے اس لئے کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔

پیغمبر ﷺ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: تم مجھ سے اور میں تم سے بولوں اور جھپٹ سے فرمایا: تم صورتِ بیروت میں میرے مشاہدہ کو اور زید سے فرمایا: کہ تم ممکب کے بھائی اور مددگار ہو۔

حدیث ۲۷- طبقات کبری: ح ۳، ص ۳۶؛ مسند ابن راہویه: ح ۳، ص ۲۶۷؛ مصنف ابن ابی هبیه: ح ۲، ص ۳۲۸، ح ۵ و ۸ و مس ۱۷۴، ح ۳۲۷؛ مشن ابن ابی داود: ح ۲، ص ۲۸۳، ح ۲۲۸۰؛ مسند ابویطلیل: ح ۱، ص ۳۰۳، ح ۵۲۶ و مس ۳۲۱، ح ۵۵۳؛ مشکل الامارات: باب ۳۸۲، ح ۳۳۵۲-۳۳۵۵؛ مشن ابن حبان: ح ۱۵، ص ۵۲۰، ح ۳۶۰؛ مشن کبری تیقی: ح ۸، ص ۵-۶؛ تاریخ بغداد: ح ۳، ص ۳۰۰؛ ترجمة الامام علی من تاریخ مشن: ح ۱، ص ۳۹، ح ۲۳۷.

حبيسي بن جنادة السلوولي قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: ((عليك بمن أذانه)).

جیشی بن جنادہ ملوی کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے
شا علی مجھ سے ہیں اور میں علی السلام سے ہوں۔

حديث: ٤٩ أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله [بن موسى] قال:
حدثنا إسرايل [بن يونس]، عن أبي اسحاق، عن البراء قال: قال رسول الله (ص)
لعلَّي: ((أنت متى و أنا منك)). رواه القاسم بن يزيد الجرمي، عن
إسرايل، عن أبي اسحاق، عن هبيرة وهاني، عن علي.

براء سے منقول ہے کہ رسول خدا ﷺ نے امام علی سے ﷺ فرمایا: (اے علی ﷺ) تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔

اس حدیث کو قسم این یہ یہ جرمی نے اسرائیل سے اس نے ابو حمّاق سے، اس نے ہبیر ہومنی اور انھوں نے امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

الحديث رقم ٢٠ أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ [بن يزيد] قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ [بن يُونُسَ]، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ هِيْرَةَ بْنِ بَرِيمٍ وَهَانِي بْنِ هَانِي، عَنْ عَلَيِّ قَالَ: لَمَّا صَدَرْنَا مِنْ مَكَّةَ إِذَا أَبْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادَى: يَا عَمَّ بَا عم، فَتَوَلَّهَا عَلَيَّ فَأَخْدَلَهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُوكِ أَبْنَةَ عَمْكَ. فَحَمَلْتُهَا، فَأَخْتَمْتُهُ فِيهَا عَلَيَّ وَجْهَ رَوْزِيدٍ، فَقَالَ عَلَيَّ: أَنَا أَحْقَى بِهَا وَهِيَ أَبْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرُ: أَبْنَةُ عَمِّي وَخَالِهَا تَحْتَيْ. وَقَالَ: زَيْدٌ: بَنْتُ أَسْحَى. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِخَالِهَا

حدیث: ۲۸- مصنف ابن ابی هبیہ: ح ۲، ص ۳۶۸، ح ۳۶۰۴۲؛ مسن احمد: ح ۳، ص ۱۲۲-۱۲۵
فضائل الحجۃ: ۸۹، ح ۳۶۲، اولیاء ۱۷، ح ۱۸۵؛ شریف ایشان: ح ۱، ج ۱، ص ۵؛ کتاب السنن: ص ۱۸۸

ج. ٢، هـ ١٤٣٥: المعرفة والتراث، ج. ٢، هـ ١٤٣٥: مناقب
كفرن، ٢٠٢٢ء

حدیث ۶۹: شفیع ترمذی: ح ۵، ج ۲۳۵، ح ۱۶۷

علی علی اللہ افس رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حدیث: ۱۷ أخبرنا العباس بن محمد قال: حدثنا الأحوص بن جواب قال: حدثنا يونس بن أبي اسحاق، عن أبي اسحاق، عن زيد بن يثیع، عن أبي ذر قال:

قال رسول الله(ص): لينتهي بنو ولیعة او لا بشن اليهم رجل کنفی، بینما
فیہم امری، فیقتل المقاتلة، و یسمی الذریة))

فما راعني الا و كف عمر في حجزتی من خلفی (قال): من يعني؟ فقلت:
ما ایاک يعني ولا صاحبک. قال: فمن يعني؟ قلت: خاصف النعل. قال: وعلى
خاصف نعل.

جذاب ابوذر بیان کرتے ہیں: کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: بنو ولیعہ ہوش
میں آجائیں ورنہ ان کی طرف ایے شخص کو سمجھوں گا جو میری جان کی طرح ہے اس کی
صفت یہ ہے کہ وہ میرا حکم ان پر نافذ کرے گا اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے جنگجو
جناؤں کو قتل کر دے گا اور ان کی ذریت کو قیدی بنالے گا جذاب ابوذر کہتے ہیں

حدیث: ۱۷۔ مصنف ابن ابی شہبۃ: ج ۲، بیں ۷۷، ح ۳۲۱۲۸؛ فضائل احمد: ص ۵۹، ح ۹۰؛ مناقب
کوفی: ج ۱، بیں ۳۹۱، ح ۳۶۳

میں جبرت میں تھا، اتنے میں عمر نے میری کمر تھپتھا کر پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟
میں نے کہا اس سے مراد نہ تو تم ہوا ورنہ تھہارا ساتھی (ابو بکر) تو عمر نے کہا پھر وہ
کون ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو جوتے سی رہا ہے، اس وقت امام علی علیہ السلام جوتے سی
رسے تھے.

علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتی اور امین

حدیث: ۲۷ اخیرنا ز کریما بن یحییٰ قال: حدثنا [محمد بن یحییٰ ابن ابی
عمر و ابو مروان] [محمد بن عثمان بن خالد] قالا: حدثنا عبد العزیز [بن محمد
الدردار و دی]، عن يزيد بن عبد الله بن [أسامه بن] الہاد، عن محمد بن نافع بن
عجير، عن علیٰ قال: قال رسول الله (ص): ((أمانة يا علیٰ فصفتها وأميني)).

محمد بن نافع بن عجير نے اپنے باپ سے لفظ کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام بیان فرماتے
ہیں کہ رسول خدام اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اے علی علیہ السلام تم میرے منتخب (صفتی) اور اماندار ہو.

حدیث: ۲۸ اخیرنا احمد بن سلیمان قال: حدثنا یحییٰ بن آدم قال:
حدثنا اسرائیل [بن یونس]، عن ابی اسحاق، عن خبیشی بن جنادة
السلولی قال:

حدهث: ۲۸۔ تاریخ کیم بخاری: ج ۱، ص ۲۳۹؛ سنن ابن ابی داؤد: ج ۲، ص ۲۸۲، ح ۲۲۸۷؛ کتاب
الک: ص ۵۸۵، ح ۱۳۳۰؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۲۹۷، ح ۲۹۳؛ مشکل الامارات: ج ۲، ص ۱۲۰،
ح ۳۳۵۳؛ سنن کبریٰ تیہی: ج ۸، ص ۶، ح ۲۲۵۵؛ مطالب العلییة: ج ۲، ص ۵۵، ح ۱۲۳۷.
حدیث: ۲۹۔ سنن کبریٰ سائی: ج ۵، ص ۳۵، ح ۲۲۷۴.
قال رسول الله (ص): علیٰ متنی و أنا منه، ولا يؤذی عني إلا أنا أو علیٰ).

جشی بن جنادہ ناقل ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:
 علی ﷺ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں میرے حقوق خود میرے یا علی ﷺ کے
 سوا کوئی ادنیس کر سکتا۔

مبلغ سورہ برائت

حدیث: ۳۷۶۔ آخر نامحمد بن بشار قال: حدثنا عفان [بن مسلم] و عبد الصمد [بن عبد الوارث] قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن أنس قال: بعث النبي ﷺ به رأة مع أبي بكر ثم دعا له فقال: ((لا يسعني أن يبلغ هذا عنّي إلا رجل من أهلي)). ثم دعا عليه فاعطاه إياه أنس سے منقول ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے ابو بکر کو سورہ برائت دے کر کہ کی طرف روانہ کیا پھر واپس بلا لیا اور فرمایا: مناسب یہی ہے کہ اس سورہ کو میری طرف سے وہ شخص لے جائے جو میرے اہلیت میں سے ہو، اس کے بعد آپ نے حضرت علیؓ کو بلا لیا اور انھیں سورہ دیکھ روانہ کیا۔

حدیث: ۳۷۶۔ مقتطف ابن ابی شہبۃ: ج ۲، ص ۳۷۷، ح ۳۲۹۶؛ مند احمد: ج ۲۰، ص ۳۲۲، ح ۳۲۱۳ اور ح ۳۲۰، ح ۱۹۰۱؛ فضائل احمد: ج ۲۲، ح ۲۶۹ وص ۱۳۶، ص ۲۲۵، ح ۲۰۹۰؛ مناقب کوئی: ج ۱، ص ۲۸۳، ح ۲۹۳ وص ۳۹۹، ح ۲۷۴؛ مند ابو یعلی: ج ۵، ص ۳۲۲، ح ۳۰۹۵؛ شولید اختریل: ج ۱، ص ۳۰۶، ح ۳۰۹ وص ۳۲۲، ح ۲۰۸؛ مناقب خوارزمی: ص ۱۹۵، ح ۱۹۷؛ ترجمۃ الامام علی من تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۳۷۷، ح ۲۹۷؛ ترجمۃ الامام علی من تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۳۷۷، ح ۲۹۷؛

حدیث: ۶۷۔ آخرنا ز کریما بن سعی قال: حدثنا عبد الله بن عمر [بن محمد مشکدانه] قال: حدثنا أسباط [بن محمد]، عن فطر، عن عبد الله بن شریک، عن عبدالله بن رقیم، عن سعد قال: بعث رسول الله (ص) أبا بکر براءة حتى اذا كان بعض الطريق ارسل على فاحدها منه، ثم ماربها، فوجد أبو بکر في نفسه، فقال: قال رسول الله (ص): ((الله لا يؤذی عنی الا أنا او رجل مني)).
 سعد کا بیان ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے ابو بکر کو سورہ برائت لے کر بھیجا بھی دھجوڑی دو رنگے ہوں گے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو بھیجا اور وہ ان سے سورہ برائت لے کر (کہ) روانہ ہوئے اس وقت ابو بکر نے کتری کا احساس کیا تو آپ نے فرمایا کہ: آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے فرائض کو یا خود میں ادا کر سکتا ہوں یا وہ شخص جو مجھ سے ہو.

حدیث: ۶۸۔ أخبرنا اسحاق بن ابراهیم قال: قرات على أبي قرة موسى بن طارق، عن عبد الملك [بن جریج] قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خشم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي (ص) حين ربع من عمرة الجعرانة بعث أبو بكر على الحجّ فلقينا معاذ حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكتر فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله (ص) [الجدعاء]، لقد بدأ رسول الله (ص) في الحجّ، فلعله أن يكون رسول الله (ص) فصلّى عليه! فإذا على عليها، فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ فقال: لا بل رسول ارسلني رسول الله (ص) براءة أقوّها على الناس في

حدیث: ۶۹۔ کتاب النبی: ج ۵۹۵-۵۹۶، ح ۱۳۸۵ و ۱۳۸۳؛ مناقب کوفی: ج ۱، ج ۲، ح ۲۷، ج ۳، ح ۳۶۶، ج ۴، ح ۹۶۱؛ ترجمة الامام علی مسیح تاریخ دمشق: ج ۱، ج ۲، ح ۲۳۲، ح ۲۷؛ الدر المختار: ج ۲، ج ۳، ح ۱۲۲؛

حدیث: ۷۰۔ أخبرنا العباس بن محمد [الدوري] قال: حدثنا ابو سوج (واسمه عبد الرحمن بن غزوان) فراد، عن يونس بن أبي اسحاق، عن أبي اسحاق، عن زید بن بشیع، عن علی: أن رسول الله (ص) بعث براءة الى أهل مکة مع أبي بکر ثم اتبعه بعلی فقال له:

((خذ الكتاب فامض به الى أهل مکة))

قال: فلحقته فأخذت الكتاب منه، فانصرف أبو بکر وهو كنیب فقال: يا رسول الله (ص) أنزل في شيء؟ قال: ((لا إلا أني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي)).

زید بن بشیع نے حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے پہلے سورہ برائت ابو بکر کو دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا پھر ان کے پیچھے علیؑ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ ابو بکر سے وہ نوشیت (سورہ برائت) لے اواڑا سے اہل مکہ کا پہنچادو.

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر سے جا کر ملا اور ان سے نوشیت (سورہ برائت) لے لیا ابو بکر نہیات غمکین ملے اور آنحضرت ﷺ سے کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ کیا میرے لئے کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ یا میں خود اس سورہ کو پہنچاؤ یا میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص.

حدیث: ۷۱۔ منجدی: ج ۱، ج ۲۲، ح ۲۸؛ اموال ابو عبید: ج ۱، ح ۳۵۸؛ منجدی: ج ۱، ح ۵۹۲ و ح ۳، ج ۳۶۷، ح ۱۲۹؛ فضائل احمد: ج ۱، ح ۲۰۳؛ انساب الاعراف: ج ۱، ح ۱۸۳، ح ۱۲۸؛ منتن ترمذی: ج ۵، ج ۲۷، ح ۲۷، ح ۳۰۹؛ منند ابو بیطی: ج ۱، ج ۱۰۰، ح ۱۲۵؛ تفسیر طبری: ج ۱۰، ج ۳۶، ح ۲۷؛ ملک وارقطی: ج ۳، ج ۱۱۹؛ مندرک حاکم: ج ۳، ج ۸؛ منتن ترمذی: ج ۹، ج ۲۰۹ و ۲۱۰.

(ساقوں ذی الحجہ) کو ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا اور اعمال و مذاہک حج بیان کئے اس کے بعد حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر سورہ برائت کی تلاوت فرمائی۔

ہم لوگ ان کے ساتھ ہی ساتھ تھے یہاں تک کہ روزِ عرف ابوبکرؓ نے خطبہ دیا اور اعمال حج بیان کئے اس کے بعد حضرت علیؓ نے لوگوں کو سورہ برائت پڑھ کر سنایا۔ پھر ہم لوگ یومِ الحج (قربانی کے دن) قربانی سے فارغ ہوئے اور ابو بکرؓ والپیش تو لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور قربانی کی اور اس کے احکام اور اعمال لوگوں سے بیان کئے پھر حضرت علیؓ نے سورہ برائت پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح یومِ النفر کو ابو بکرؓ نے خطبہ کے بعد رمی (شیطان کو نکریاں مارنے) کا طریقہ بتایا اس کے بعد حضرت علیؓ کھڑے ہوئے اور مجھ کو سورہ برائت پڑھ کر سنایا۔

موافق الحج، فقد من امكّة فلتقا كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى اذا فرغ قام علىٰ فقرأ علىٰ الناس براءة البراءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى اذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى اذا فرغ علىٰ فقرأ علىٰ الناس سورة البراءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فاضنا، فلما راجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن افاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علىٰ فقرأ علىٰ الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الاول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف يسترون و كيف يردون فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علىٰ فقرأ علىٰ الناس براءة حتى ختمها.

جناب جابرؓ سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ عمرہ ہراہنے سے پہلے تو آنحضرتؐ نے ابو بکرؓ کو امیر حاج بنا کر بھیجا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم مقام عرج پر پہنچے تھے صبح نمودار ہوئی تھی ابو بکرؓ نماز کی تکمیل کرنے تھی اور انہوں نے اپنی پشت سے آنحضرتؐ کے ناقہ کے بولنے کی آواز سنی وہ تھیرگئے اور تکمیل کی بولے یہ آنحضرتؐ کے ناقہ (جدعہ) کی آواز ہے شاید حضور خود حج کے لئے تشریف لارہے ہیں اب ہم لوگ انھیں کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے ناگاہ دیکھا کر ناقہ پر حضرت علیؓ تشریف لارہے ہیں یہ دیکھ کر ابو بکرؓ نے دریافت کیا کہ آپ امیر بنا کر بھیج گئے ہیں یا قاصد ہیں آپؓ نے فرمایا: نہیں بلکہ مجھے آنحضرتؐ نے سورہ برائت دیکھ بھیجا ہے تاکہ میں اسے حاجیوں کے اجتماع کے مقامات پر لوگوں کے سامنے پڑھوں۔ ہم لوگ مکہ پہنچے اور یومِ ترددیہ کے ایک روز پہنچے

حدیث: ۷۷۔ سنن داری: ج ۲، ص ۲۶؛ سنن کبریٰ نسائی: ج ۲، ص ۳۱۶، ح ۳۹۸۷؛ سنن نسائی: ج ۱، ص ۲۲۷، شوابہ المتر میل: ج ۱، ص ۳۱۶؛ سنن تیہی: ج ۵، ص ۱۱۱۔

جس کا میں ولی اس کے علی علی اللہ ولی

حدیث: ۷۸ أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثني يحيى بن حماد قال:
حدثنا أبو عواة، عن سليمان [بن مهران الأعمش] قال: حدثنا حبيب بن أبي
ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال:
لما راجع رسول الله (ص) عن حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات
فقدمن لهم قال: ((كانى قد دعيت فأجبت، أتى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما
أكر من الآخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فالاظروا كيف تحلفونى
فيهما، فائتماماً لمن يتفرق حتى يردا على الحوض)). ثم قال: ((إن الله مولاي و أنا
ولي كل مؤمن)) .

لَمْ أَحْدِيْدْ عَلَيَّ فَقَالَ: ((مَنْ كُنْتُ وَلِيْهِ فَهَذَا وَلِيْهِ، اللَّهُمَّ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ
وَدَعَاهُمْ عَادَاهُ)).

لَقُلْتُ لِزَيْدٍ: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الدُّوَّهَاتِ أَحَدٌ
إِلَّا رَأَهُ بَعْنِيهِ وَسَمِعَهُ بِأَذْنِيهِ.

حدیث: ۱۱۶: مسن احمد: ج ۲، ص ۳۲۶ و ۳۲۸ و ۳۷۰ - ۳۷۱، فضائل احمد: ص ۵۳، ح ۸۲ و ص ۷۷،
ج ۱۱۵ و ص ۱۱۵، ح ۲۰۱؛ صحیح مسلم: ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۲۳۰۸؛ المعرفة والتاريخ فسوی: ج ۱،
ص ۵۳۶؛ كتاب السن: ص ۵۹۳ - ۵۹۴، ح ۱۳۶۲۵ - ۱۳۶۲۶ و ح ۱۳۶۲۹ و ح ۱۳۶۵ و ح ۱۳۶۲۰؛ انساب
الاطراف: ص ۲۲۲، ح ۲۸۲؛ سشن ترمذی: ج ۵، ص ۲۲۳، ح ۱۲۳، کشف الاستار: ص ۳۷۸ و ص ۳۷۹.

راوی کہتا ہے کہ میں نے زید سے دریافت کیا کہ کیا تم نے خود رسول اسلام ﷺ کیلئے
یہ سنائے؟ زید نے جواب دیا کہ جو جو منبر کے سامنے تھا اس نے اپنی آنکھوں سے
کھا اور اسے کانوں سے سنائے۔

حديث: ٢٩ أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية [محمد بن حازم] قال: حدثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن [عبد الله] بن بريدة، عن أبيه قال: سمعنا رسول الله (ص) في سرية واستعمل علينا علياً، فلما رجعنا سألنا: ((كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟))؟ فاما شعوره أنا وأما شعوره غيري، فرأفه شعور رأسه (و كنت رجلاً مكتاباً) فإذا بوجهه رسول الله (ص) قد احمر، فقال: ((من كنت ولية فعلتي ولية)).

بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں حضرت علیؑ کی سرداری میں ایک جگ پر بھی جب ہم واپس آئے تو حضرت علیؑ نے ہم سے سوال کیا کہ ”تاوتم نے ائے ساتھی (حضرت علیؑ) کو کیسا سامان؟“

تو میں نے ان کی شکایت کی اور دوسروں نے بھی شکایت کی اور سر جھکائے بیٹھا تھا جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کا چجزہ اقدس سرخ ہے اور فرماتے ہیں: ”جس جس کامیں مولا ہوں اس کے علیٰ بھی ولی ہیں“

زید بن ارقم ناقل ہیں کہ: رسول اکرم ﷺ جب جمعۃ الوداع سے والیں ہوئے اور نذرِ خم کے مقام پر پہنچنے تو منیر ہنانے کا حکم دیا منیر تیار کیا گیا اس کے بعد فرمایا: اللہ کی طرف سے میرا بلا و آگیا ہے اور میں نے قبول بھی کر لیا ہے، میں نخخارے و رمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑا اور بلند مرتبہ ہے۔ ایک اللہ کی کتاب (قرآن) دوسرے میری عترت اور میرے اہلیت ہیں پس سوچ لو کہ میرے بعد ان دونوں سے کس طرح پیش آؤ گے پیشک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ میرے یاں حوض کو شرپرنہ پہنچ جائیں۔

پھر فرمایا: بیشک اللہ میر اولیٰ اور حاکم ہے اور میں ہر مومن کا ولی و حاکم ہوں اس کے بعد آپ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پڑا کر فرمایا: جس جس کا میں ولی ہوں اس کے علیؓ بھی ولی ہیں پر وردگار ان تو اسے دوست رکھ جوان کو دوست رکھے اور تو اسے شکن رکھ جوان کو دشمن رکھے۔

ج ۲۳۹، ح ۷؛ مناقب خوارزمی: ص ۱۸۲.
ج ۱۰۶، ح ۱۱۰؛ مناقب مخازلی: ص ۱۹-۲۰، ح ۲۵، و ح ۲۷؛ مناقب کوفی: ص ۱۱۲، ح ۲۱۶ و ص ۱۱۶، ح ۲۷۸.
ج ۱۳۵، ح ۲۳۳ و ص ۲۰؛ ح ۲۲۳ و ص ۳۱۳، ح ۹۹۷ و ص ۳۷۵، ح ۸۵۹ و ص ۳۸۶.
ج ۲۷۰ و ص ۲۳۵، ح ۲۳۶-۲۳۷، ح ۹۲۸ و ص ۹۲۹، ح ۹۵۰-۳۲۹ و ص ۹۲۹، ح ۹۳۸ و ص ۳۹۸۰ و ص ۳۹۸۳ و ص ۳۹۸۷.
ج ۱۲۶، ح ۳۹۶۹ و ص ۳۹۷۰-۳۹۷۱ و ص ۱۲۹، ح ۳۹۸۰ و ص ۳۹۸۳ و ص ۳۹۸۷.
ج ۳۹۹۶ و ص ۱۸۴، ح ۵۰۲۷-۵۰۲۸ و ص ۵۰۲۸، ح ۱۸۲ و ص ۱۸۲، ح ۵۰۲۰ و ص ۵۰۲۰، ح ۵۰۵۹-۳۵۵۹.
و ص ۱۹۵، ح ۵۰۲۵ و ص ۲۰۳، ح ۵۰۹۶؛ بحث اوسط: ح ۳؛ ص ۵۷۶، ح ۱۹۸۷؛ مادرک
حاکم: ح ۲؛ ص ۱۰۶-۱۱۰؛ مناقب مخازلی: ص ۱۹-۲۰، ح ۲۵ و ص ۲۷؛ مناقب خوارزمی: ص ۱۸۲.

جس کا میں ولی اس کے علمی علائقہ ولی

تو حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی ناقص آنحضرت علی علیہ السلام سے بیان کیے یہ سنے
ہی حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ کارنگ متغیر ہو گیا اور آپ علی علیہ السلام نے فرمایا "اے بریہ
کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حاکم نہیں ہوں، میں نے کہا کیوں نہیں یا
رسول خدا علی علیہ السلام پیش کر آپ علی علیہ السلام اولی ہیں تو آپ علی علیہ السلام نے فرمایا: جس کا
میں مولی ہوں اس کے علمی علیہ السلام بھی مولی ہیں۔

حدیث: ۸۲ اخیر نبی زکریا بن یحییٰ قال: حدثنا نصر بن علی قال: حدثنا
عبدالله بن داؤد، عن عبدالواحد بن ایمن، عن ابیه: ان سعداً قال رسول
الله (ص): ((من کنت مولاہ فعلی مولاہ))۔

سعد سے منقول ہے کہ رسول اکرم علی علیہ السلام نے فرمایا: جس کا میں مولا ہو علیہ السلام اس
کے علی علیہ السلام مولا ہیں۔

حدیث: ۸۳ اخیر نبی قبیة بن سعید قال: اخبرنا [محمد بن ابراهیم بن ابی
عده]، عن عوف [الأعرابی]، عن میمون ابی عبد اللہ قال: ((قال ازید بن ارقم: قام
رسول الله (ص) فحمد الله

و اثنى عليه ثم قال: ((الستم تعلمون أنتي أولى بكل مؤمن من نفسه))؟
قالوا: بلى نشهد لانت أولى بكل مؤمن من نفسه.
قال: ((فأنتي من كنت مولاہ فهذا مولاہ)). [و] أخذ بيده على.

حدیث: ۸۴۔ کتاب البیت: ج ۵۸، ص ۷۷، ح ۱۳۳۱ و ح ۵۹۱، ح ۱۳۵۹۔

حدیث: ۸۵۔ مسند احمد: ح ۳، ص ۳۷۲، ح ۲۶۵؛ فضائل احمد: ص ۹۲، ح ۱۳۹، ح ۱۳۹؛ کتاب البیت: ص ۵۹،
ح ۱۳۹؛ سنن ترمذی: ح ۶۰، ص ۲۳۳، ح ۲۷۱۳؛ کشف الاستار: ح ۳، ص ۱۸۹، رقم ۲۵۳۔
مناقب کوفی: ح ۲، ص ۳۹۸، ح ۸۸۳، و ح ۳۰۳، ص ۲۲۳، ح ۸۹۳؛ اکنہ والاساء: ح ۲،
ص ۶۱؛ کامل اکنہ عدی: ح ۲، ص ۲۱۲، رقم ۱۸۹۵؛ تجمیع کیر طبری: ح ۵، ص ۲۰۲، ح ۵۰۹۲؛ کنز
الحال: ح ۱۳، ص ۱۰۲، ح ۳۶۳۲۲۔

حدیث: ۸۰۔ اخیرنا محمد بن المشی قال: حدثنا أبو احمد [محمد بن عبد الله بن الزیر] قال: حدثنا عبد الملک بن [احمید بن ابی غنیة] عن الحكم [بن عتبة]، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: حدثني بريدة قال: يعني النبي (ص) مع علي الى اليمن، فرأيت منه جفوة، فلما راجعت شكونه الى رسول الله (ص) فرفع رأسه الى و قال: ((يا بريدة من كنت مولاہ فعلی مولاہ)).

بریہ سے منقول ہے کہ رسول اسلام علی علیہ السلام نے مجھے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ میں
کی طرف روانہ کیا تو میں نے ان سے بعض باتیں دیکھیں جب میں واپس ہوا تو
آنحضرت علی علیہ السلام سے ان کی شکایت کی یہ سن کر آنحضرت علی علیہ السلام نے اپنا سر بیری طرف
بلند کر کے فرمایا اے بریہ جس جس کا میں مولا و حاکم ہوں اس کے علی علیہ السلام بھی مولی ہیں
حدیث: ۸۱۔ اخیرنا أبو داؤد [سلیمان بن یوسف] قال: حدثنا أبو نعیم

قال: حدثنا عبد الملک طب ابی غنیة قال: حدثنا الحكم [بن عتبة]، عن سعید
بن جبیر، عن ابن عباس، عن بريدة قال: خرجت مع علي الى اليمن، فرأيت منه
جفوة، فقدمت على النبي (ص) فلما كرت علیاً فتنقصه، فجعل رسول الله (ص)
يتغیر وجهه وقال: ((يا بريدة! ألسْتَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ))؟ قلت: بلى
يا رسول الله (ص). قال: ((من كنت مولاہ فعلی مولاہ)).

بریہ کہتے ہیں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ میں کی طرف روانہ ہوا تو راستے
میں ان سے کچھ عجیب باتیں دیکھیں جب میں رسول خدا علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا

حدیث: ۸۰۔ کشف الاستار: ح ۲، ص ۱۸۸؛ مناقب کوفی: ح ۲، ص ۳۲۹، ح ۸۵۲۔

حدیث: ۸۱۔ مصنف ابن ابی شہید: ح ۲، ص ۳۲۶، ح ۳۲۶؛ مسند احمد: ح ۵، ص ۳۷۷؛ فضائل احمد:
ص ۶، ح ۱۳۳؛ سنن بکری نسائی: ح ۵، ص ۳۵، ح ۸۱۳۵؛ مناقب کوفی: ح ۲، ص ۲۲۵، ح ۱۹۱؛
مسند احمد: ح ۲، ص ۳۹۸، ح ۸۸۳، و ح ۳۰۳، ح ۲۲۳، ح ۸۹۳؛ اکنہ والاساء: ح ۲،
ص ۳۲۶، ح ۹۳۷؛ محدث ک حاکم: ح ۲، ص ۱۱۰؛ اخبار اصحابیان: ح ۲، ص ۲۱۹؛ مناقب ابا
مغازی: ص ۲۲، ح ۳۲؛ مناقب خوارزی: ص ۱۳۳، ح ۱۵۰۔

عمریہ بن سعد سے منقول ہے کہ اس نے حضرت علیؓ سے ناہے جب کہ وہ صحن مسجد میں لوگوں سے قسم دے کر پوچھ رہے تھے۔ کہ کس نے آنحضرتؐ کو فرماتے ہوئے ناہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علیؓ بھی مولا ہیں تو تقریباً وہ لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے یہ قول آنحضرتؐ ملکیتہم سے ناہے۔

الحديث رقم ٨٥ أخبرنا محمد بن المثنى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ [بْنُ جعفر
فَلَدْرَ] قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: لِمَا
رَأَيْدُهُمْ عَلَى قَامِ خَمْسَةَ (أَوْ سَهْةً) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَشَهَدُوا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: ((مَنْ كَتَبَ مُولَاهُ فَعَلَيْهِ مُولَاهٌ)).

سعید بن وہب نقل کرتے ہیں کہ جب امام علیؑ نے حدیث من کنت مولاہ کے بارے میں لوگوں سے قسم دے کر دریافت کیا تو پانچ یا چھ اصحاب پیغمبرؐ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے سنی ہے کہ جس کا مولائیں ہوں اس کے علیؑ مولا ہیں۔

۴۷) مص ۳۶۲: مناقب ابن معاذی: مص ۲۹، ح ۳۸؛ اخبار اصفهان: ح ۱، مص ۱۳۲، رقم ۹۲؛ امامی طوی: مص ۳۲۲، ح ۵۰۹ و مص ۳۳۲، ح ۲۷۲؛ ترجمة الامام علی من تاریخ و مشق: ح ۲، مص ۱۳۲، ح ۵۱۱-۵۱۳؛ تجنب عب الکمال: ح ۲۲، مص ۳۷-۳۹۸. ۴۸) الیدیة و الخایة: ح ۵، مص ۲۱.

۴۹) محدث: ح ۵، مص ۳۶۲، ح ۲۳۱ و مص ۳۷۰، ح ۲۷۰؛ فضائل احمد: مص ۹۶، ح ۱۳۳؛ اساب الاضراف: ح ۱، مص ۲۲، ح ۳۷؛ کشف الالستار: ح ۳، مص ۱۹۱، ح ۲۵۲؛ مندابویلی: ح ۱، مص ۳۲۸، ح ۵۶۷؛ مشکل الالستار: ح ۲، مص ۲۱۲، ح ۱۹۰؛ الکنی و الاسماء: ح ۲، مص ۸۸؛ مجتبی طبرانی: ح ۵، مص ۱۷۵، ح ۱۷، ح ۳۹۹۶-۳۹۹۷ و مص ۱۹۱، ح ۵۰؛ مجتبی اوسط طبرانی: ح ۱، مص ۵۷۶، ح ۱۹۸؛ زین الفتنی: ح ۱، مص ۱۲-۱۳، ح ۱۲؛ اخبار اصفهان: ح ۲، مص ۲۲۷؛ تاریخ بغداد: ح ۱۲، مص ۱۳۲؛ امامی طوی: مص ۲۵۵، ح ۳۵۹، مناقب خوارزمی: مص ۱۵۶، ح ۱۸۵؛ اسد الخایة: ح ۱، مص ۳۹۸ و ح ۳۰۷؛ ترجمة الامام علی من تاریخ و مشق: ح ۲، مص ۱۳-۱۸ و مص ۵۰۲-۵۰۱ و مص ۱۸؛ اسید: ح ۱۵ و مص ۲۰؛ لطفی: ح ۲۷-۲۸ و مص ۲۹-۳۰؛ لطفی: ح ۲۷-۲۸ و مص ۳۱-۳۲.

زید بن ارم کہتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و شکر فرمائی پھر سوال فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے نفس پر ان سے زیادہ حقدار وادی ہوں سب نے کہا بیشک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ مومنین کے نفوس پر حاکم اور اولیٰ بالصرف ہیں، تو آخر نبھارت ﷺ نے علی ﷺ کا کاتھا ہاپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ جس کا میں مولا و حاکم ہوں اس کے سر (علیٰ ﷺ) مولا و حاکم ہیں۔ (۱)

الحديث رقم ٨٣: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسا بوري وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قالا: حدثنا عبد الله بن موسى قال: أخبرني هاني بن أبياب، عن طلحة الياامي قال: حدثنا عمير بن سعد: أنه سمع علياً وهو يشد في الرحمة من سمع رسول الله (ص) يقول: ((من كت مولاه فعلى مولاه)). فقام بضعة عشر شهدا.

(۱) غدری کے روز تغیرت اسلام [صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم] کا قول تین حالات سے خارج نہیں ہے یا تو آپ نے فرمایا: "جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں" یا یہ فرمایا کہ "جس جس کا دل میں ہوں علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ولی ہیں" یادوں ہائی ارشاد فرمائی ہیں اگر آپ نے یہ فرمایا ہے "کہ جس جس کا ولی میں ہوں اس کے علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں" تو اس صورت میں حالات قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے (کہ جہاں پر آنحضرتؐ نے خود غدری کے دن لوگوں سے اپنے اولیٰ بالصرف ہونے خواہان کی جان و مال پر ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھنے کا اقرار لیا اس کے بعد فرمایا: "جس کا ولی میں ہوں اس کے علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہیں" خاص کر بہت سی حدیثوں میں بعداز وفات کی تقدیمی موجود ہے) تو اس امر میں کسی وحشی و شہری کی بھی اُس نہیں رہتی کہ ولی سے مراد پڑھوائی اور ولایت درپرستی ہے لیکن اگر کوئوں لفظ لفظی "ولی و مولی" فرمایا تو مسئلہ کچھ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور اگر صرف "الله مولی" یعنی (جس جس کا میں مولی ہوں اس کے علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولی ہیں) فرمایا تو اس صورت میں کسی بھی لوگ میدان غدری میں حاضر تھے انہوں نے بھی لفظ مولی سے ولی ہی سمجھا لہذا اُنل معمی کیا ہے یعنی مولی کے معنی ولی ہیں جس سے مراد حاکم، ہر پرست، امام اور رہبر ہیں "غور فرمائیں" حدیث: ۸۲۷- صحیح ابو سعید: حجج، ۲۲۵، حج، ۱۳۲، حج، ۲۲۷- صحیح غیر طبرانی: حج، اس، ۲۲- حلیۃ الاولیاء: حج، ۲۵

زید بن پیغمبر نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام علیؑ کو مسجد کوفہ کے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ اے اصحاب رسول ﷺ تم تھم خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا تو تم میں سے کسی کس نے غدریخم کے میدان میں آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علیؑ بھی مولا ہیں خداوند! جو علیؑ کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھو اور جو علیؑ کو دشمن رکھے اسے تو بھی دشمن رکھیں کہ چھ آدمی منبر کے ایک جانب سے اور چھ آدمی دوسری جانب سے کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ ہم نے یہ قول آنحضرت ﷺ سے سنائے اس پر شریک نے کہا کہ میں نے ابو اسحاق سے دریافت کیا کہ کیا تم نے آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث براء بن عازب سے بھی سنی ہے تو ابو اسحاق نے کہا: ہاں۔

حدیث: ۸۶۔ اخبرنا علیؑ بن محمد بن علیؑ [فاضل المصيحة] قال: حدثنا خلف [بن تميم] قال: حدثنا اسرائيل، عن أبي اسحاق قال: حدثني سعيد بن وهب أنه قال قام مما يليه ستة، وقال زيد بن يحيى: وقام مما يليني ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله (ص) يقول: ((من كنت مولا له فأن علياً مولا له)). ابو اسحاق ناقل ہیں کہ سعد بن وهب اور زید بن پیغمبر نے مجھ سے بتایا کہ جو لوگ میرے پاس سے گواہی دینے کے لئے کھڑے ہوئے ان کی تعداد چھ تھی ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے رسول اسلامؐ کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جس کا مولا دعا کم میں ہوں اس کے علیؑ بھی مولا و حاکم ہیں۔

حدیث: ۸۷۔ أخبرنا أبو داؤد [سلیمان بن سيف العراني] قال: حدثنا عمران بن ابیان قال: حدثنا شریک [بن عبد الله] قال: حدثنا أبو اسحاق، عن زید بن يحيى قال: سمعت عليؑ بن أبي طالب يقول على مير الكوفة: أتى منشد الله غلاماً (ولا أنسد الأصحاب محمد) (ص) (من) [سمع رسول الله (ص)] يقول يوم غدير خم: ((من كنت مولا له، اللهم وال من والاه وعاد من عاد)) فقام ستة من جانب المفتر و ستة من الجانب الآخر فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله (ص) يقول ذالك. قال شریک: فقلت لأبی اسحاق: هل سمعت البراء بن عازب يحدث بهذا عن رسول الله (ص)? قال: نعم.

حدیث: ۸۸۔ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۳۲۹، ح ۹۲۳ و ص ۳۵۲، ح ۹۲۵؛ مناقب خوارزمی: م ۱۵۶، ح ۱۸۵؛ البدایہ والنہایہ: ج ۷، م ۱۱۵؛ مناقب کوفی: م ۱۵۶، ح ۱۸۵؛ مصنف ابن ابی هبیۃ: ج ۲، ص ۱، و م ۱۲۷، ح ۳۲۰ و ۲۲؛ مسن احمد: ح ۲، ص ۱۷۸؛ فتحکل احمد: ص ۱۱۱، ح ۱۶۲؛ فراند اسٹمین: ح ۱، ص ۶۵، ح ۲۱؛ سشن ابین ماجد: ص ۹۵۰، ح ۱۱۶؛ کتاب الرذن: ص ۵۹۲، ح ۵۹۲ و ۵۹۳، ح ۱۳۲۳ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۷؛ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۳۲، ح ۱۱۶؛ کتاب الرذن: ص ۳۵۸، ح ۳۲۰ و ۳۲۱، ح ۸۲۲ و ۸۲۵؛ مناقب خوارزمی: م ۱۵۵، ح ۱۸۳؛ ترجمۃ الامام علیؑ من تاریخ دمشق: ج ۱، ص ۱۲۵، ح ۵۰؛ مناقب خوارزمی: ص ۱۵۵، ح ۱۸۳؛ ترجمۃ الامام علیؑ من تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۱۲۳، ح ۵۰ و ۵۱، ح ۵۲، ح ۵۵۲ و ۵۵۳، ح ۵۵۳۔

علی علی اللہ میرے بعد ہر مومن کے ولی

حدیث: ۸۸: اخْبَرَنَا قَيْثَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ (يُعْنِي أَبْنَى سَلِيمَانَ)، عَنْ يَزِيدَ [الرَّشْكَ]، عَنْ مَطْرُوفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حَصَّبِينَ قَالَ: بَعْثَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جِيشًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلَيَّ بْنَ أَبْيٍ طَالِبٍ، فَمُضِيَ فِي السَّرِيَّةِ فَأَصَابَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِذَا لَقَيْتَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَخْبَرَنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنَ السَّفَرِ بَدْءًا وَابْرَسُوا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَصَرُوا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا قَدِمُتِ السَّرِيَّةِ سَلَّمُوا عَلَيْهِ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَامَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَيْكَ عَلَيَّ بْنَ أَبْيٍ طَالِبٍ صَنَعَ كَذَابًا كَذَابًا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثُمَّ قَامَ (يُعْنِي الشَّانِي) فَقَالَ مِثْلَ ذَالِكَ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثْلَ مَوْالِتِهِ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا، فَأَقْبَلَ مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَالْفَضْبُ [يَصِرُّ] فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «مَا تَرِيدُونَ مِنْ عَلَيَّ؟ إِنَّ عَلَيَّ مِنْيَ وَآتَيْتَهُ، وَهُوَ وَلِيٌّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي».

حدیث: ۸۸: أَبْنَى عَبْدُ الرَّزَاقَ: ص: ۸۷، ح: ۱۰۹؛ مَسْدِدُ طَيَّاً: ص: ۱۱۱، ح: ۸۲۹؛ مَصْنُفُ أَبْنَى هَبِيبَ: ح: ۶۲۵، ح: ۳۲۱۲؛ مَسْدِدُ أَحْمَدَ: ح: ۳، ص: ۳۲۷، ح: فَضَالُ أَحْمَدُ: ص: ۱۰۲، ح: ۷۷۴ وَص: ۱۲۳؛ ح: ۱۸۲؛ شِنْ تَرْمِدِيَّ: ح: ۵، ص: ۲۳۲، ح: ۳۷۱۲؛ كَاتِبُ النَّبِيِّ: ص: ۵۵۰، ح: ۱۸۷؛ شِنْ كَبِيرِيَّ نَسَائِيَّ: ح: ۵، ص: ۲۵، ح: ۸۱۳۴؛ مَسْدِدُ رُوَيْانِيَّ: ح: ۱، ص: ۲۲، ح: ۱۱۹؛ مَنَاقِبُ كُوفَّيَّ: ح: ۱، ص: ۲۲۹-۲۵۰، ح: ۳۵۱؛ مَسْدِدُكَ حَامِكَ حَامِكَ: ح: ۳، ص: ۳۹۰، ح: ۳۹۷؛ كَافِلُ أَبْنَى عَدَى: ح: ۲، ص: ۱۳۵؛ مَجْمُونُ كَبِيرِ طَرَانِيَّ: ح: ۱۸، ص: ۱۲۸، ح: ۲۶۵؛ مَسْدِدُكَ حَامِكَ حَامِكَ: ح: ۳، ص: ۱۱۰؛ أَبْلَقِيَّةُ الْأَوْلَاءِ: ح: ۶، ص: ۲۹۳؛ مَنَاقِبُ خَوارِزَمِيَّ: ص: ۱۵۳، ح: ۱۸۰.

علیٰ ملکہ میرے بعد ہر موسم کے ولی

وبلغت من عليٍّ فتغير وجهه رسول الله (ص) فقلت: هذا مكان العائد، بعثني مع
رجل وأمرتني بطاعته، فلما أرسلت به، فقال رسول الله (ص): ((لا تقعن يا
رجل على إقامة متنى و أنا منه وهذا ولتكم يعدي)).

بریدہ نے اپنے باب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خالد بن ولید کے ہمراہ یمن بھیجا اور امام علیؑ کو ایک اور لشکر کا سردار بنایا کہ جب دفعوں بھیجا ہو جائیں تو علیؑ کا تمام لوگوں کے سردار ہوں گے اور اگر الگ الگ ہوں تو دفعوں اپنے اپنے لشکر کے سردار ہیں۔ چنانچہ یمن میں قبیلہ بنی زید سے مدد بھیڑ ہوئی اور مسلمان مشرکین پر غالب آئے، ان کے مکملوں کو قتل کر کے عورتوں و بچوں کو گرفتار کر لیا تو ایروں میں سے ایک کنیر علیؑ نے اپنے نئے منتخب فرمائی خالد بن ولید نے ایک شکایت نامہ لکھ کر مجھے دیا کہ میں آنحضرت ﷺ کی شکایت کی پہنچا دوں میں نے وہ نامہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دیا اور ان سے علیؑ کی شکایت کی یہ سنتے ہی آنحضرت گاپچہ غصہ سے متغیر ہو گیا میں نے کہا یہ پناہ کا مقام ہے یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں آپ ﷺ نے مجھے ایک ایسے شخص کے ہمراہ بھیجا جس کی اطاعت کا حکم آپ نے فرمایا تھا اس نے مجھے یہ خط دے کر بھیجا تو میں اس کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں (ورنہ میں نہ آتا) اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے بریدہ ﷺ کے بارے میں چون وچرا (شکایت) مت کرو بلاشبہ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں نے ہوں اور یہ (علیؑ) میرے بعد تم سب کے حاکم اور ولی ہیں۔

۸۹- معرفت ابن ابی هشیه: ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۳۲۱۰، ح ۳۲۱۱؛ منhadم: ج ۵، ص ۳۵۶، ح ۳۵۷؛ فضائل احمد: م ۲۱۹، ح ۳۹۶؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۳۸۹، ح ۳۸۸ و م ۳۸۷، ح ۳۸۸ و م ۳۸۸، ح ۳۸۸؛ مناقب ابن مخارizi: م ۲۲۵، ح ۲۲۵؛ ترجمة الامام علي بن ابراهيم دمشق: ج ۱، ص ۴۰۰ و ۴۰۱، ح ۴۰۲ و ۴۰۳.

عمران بن حصین کا بیان ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے امام علیؑ کی سرداری میں ایک لشکر بھیجا جنگ فتح ہوئی تو اسیروں میں سے ایک کنیز آپ ﷺ نے اپنے لئے انتخاب فرمائی تو لوگوں کو برالگا صحابہ میں سے چار افراد نے یہ طے کیا کہ جب ہم آنحضرتؐ سے ملیں گے تو اس بات کی شکایت کریں گے (طریقہ کاری یہ تھا مسلمان جب بھی سفر سے پلتے تھے تو پہلے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتے تھے پھر اپنے گھر وہ کو جاتے تھے چنانچہ جب یہ لوگ جنگ سے واپس آئے تو پہلے حضرت ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کیا پھر ان چاروں میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے رسول خدا ﷺ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں علیؑ کے کیا کیا ہے، یہ سنتے ہی آنحضرتؐ نے اس کی طرف سے منحک پھیر لیا اس کے بعد درستھنے نے بھی وہی بات کہی، پھر تیرا شخص کھڑا ہوا اس نے بھی وہی بات دھرائی پھر پوتھے شخص نے کھڑے ہو کر وہی باتیں کہیں جو بقیے نے کہی تھیں۔ یہ سنتے ہی آنحضرتؐ ان لوگوں کی طرف اس حالت میں متوجہ ہوئے کہ آنحضرتؐ کے چہرے سے غصہ کے آثار نمایاں تھے اور فرمایا تم علیؑ سے کیا چاہتے ہو؟ بلاشبہ علیؑ مجھ سے جس اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مومنین کے ولی و حاکم ہیں۔

الحديث: ٨٩ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن [محمد] بن فضيل، عن
الأخير، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله (ص) إلى اليمن مع
خالد بن الوليد، وبعث علينا جيش آخر وقال: ((إن التقييم بالعمل على
الناس، وإن تفرقتما فكلّ واحد منكم على حدته)).

الناس، وإن تفرقتما فكل واحد متحملا على حمله)).
فليقينا بني زبيد من أهل اليمين، و ظهر المسلمين على المشركين، فقتلوا
المقاتلة و سينا الدوربة، فاصطفى عليّ جارية لنفسه من السبي، فكتب يدالله
خالد بن الوليد إلى النبي (ص)، و أمرني أن أنال منه، فقال: فدفعت الكتاب إليه

ابو بکر بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن مالک سے مدینہ منورہ میں ملاقات کی تو سعد نے مجھ سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ حضرت علیؑ کو برائی چلا کہتے ہو، میں نے کہا یقین ہم نے ایسا کیا ہے، میں نے کہا شاید تم بھی ان کو برائی چلا کہتے ہو جو کے کہا معاذ اللہ.

اُس کے بعد سعد نے کہا ان کو برامت کہنا اگر میرے سر پر تلوار رکھ کر مجھ سے کہا جائے کہ علیؑ کو برا کہوتے بھی میں آنحضرت ﷺ کی ان حدیثوں کے سننے کے بعد حضرت علیؑ کو برا جھانسیں کہہ سکتا۔

حديث: ٩٠ أخيرنا العباس بن محمد [الدوري] قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي اسحاق، عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت: أيس رسول الله (ص) فيكم؟ فقلت: سبحان الله (أو: معاذ الله)! قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول: ((من سبّ علينا فقد سني)).

ابو عبد اللہ الجدی کا بیان ہے کہ میں ام المؤمنین ام علمہ کی خدمت میں پہنچا تو
آپ نے فرمایا: کہ کیا تم میں سے کوئی رسول خدا ﷺ کو برائی چلا کہہ سکتا ہے؟ میں
نے جواب دیا سبحان اللہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے
آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے تھا کہ "جس نے علی ﷺ کو برائی چلا کیا اس نے
مجھے برائی چلا کیا۔"

حديث: ٩١ أخرت عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى [الكوفي] قال: حدثنا جعفر بن عون، عن شقيق بن أبي عبدالله قال: حدثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة قال: رأيت سعد بن مالك بالمدينة فقال: ذكر [لي] أنكم تستون علياً؟ قلت: نعم. قلت: لعلك سببته؟ قال: معاذ الله، لا تستبه فان وضع المثار على مثقب على أن أسته علياً ما سببته بعد ما سمعت رسول الله (ص) ما سمعت.

الحادي عشر: مصطفى ابن أبي هبيرة: ح ٢، ج ٣٤٥، ح ٣٤١؛ مسند ابو يعلى: ح ٢، ج ١١٣، ح ٢٧٤
الحادي عشر: مناقب كوفي: ح ٢، ج ٥٢٨، ح ٦٠٥؛ عقد الفريد: ح ٥، ج ١١٣؛ ترجمة الامام علي بن ابي طالب و مقتل
الحادي عشر: تهذيب الكلاب: ح ١٢، ج ٥٥٥، ح ٢٨٢.

علیٰ سے محبت خدا سے محبت، علیٰ سے دشمنی خدا سے دشمنی

حدیث: ۹۲- ۹۳ أخبرني هارون بن عبد الله [البغدادي الحمال] قال: حذثنا مصعب بن المقدام قال: حذثنا فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، وأخبرنا أبو داود [سلیمان سیف] قال: حذثنا محمد بن سليمان [بن أبي داود الحراني] قال: حذثنا فطر، عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال: جمع علي الناس في الرحمة فقال: أنشد بالله كل امرى سمع من رسول الله يقول يوم غدير خم ما سمع. فقام أناس فشهدوا أن رسول الله (ص) قال يوم غدير خم: ((الستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم)). وهو قائم، ثم أخذ بيده علي فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)). قال أبو الطفيل: فخرجت وهي نفسي منه شيء فلقبت زيد بن أرقم فأخبرته فقال: وما تذكر؟ أنا سمعته من رسول الله (ص). وللهفظ لأبي داود.

حدیث: ۹۳، ۹۲- منند احمد: بح، ۲، ص ۳۷۰، ح : فضائل احمد: ص ۲۸۲، ح ۲۸۹؛ کتاب الشیعی: ص ۵۹۶، ح ۱۳۶۷ او ۱۳۶۸؛ منند بریاز: بح، ح ۲۵۲۲؛ مناقب کوفی: ص ۳۲۵، ح ۹۳۳؛ ۹۳۳؛ سیچی ابن حبان: بح ۱۵، ص ۳۷۵، ح ۲۹۳؛ و ص ۲۹۳-۳۷۲، ح ۳۷۲-۸۳۶؛ آنالی طوی: ص ۲۵۵، ح ۲۵۹؛ اسد الغاب: بح ۵، ص ۲۷۵؛ زین الشیعی: بح ۱، ص ۱۲، ح ۳ و بح ۲، ص ۳۷۴؛ ۳۷۵؛ ترجمۃ الامام علی من تاریخ دمشق: بح ۲، ص ۶، ح ۵۰۳؛ الاصفی: بح ۲، ص ۱۵۹.

علی سے محبت خدا سے محبت، علی سے دشمنی خدا سے دشمنی ۱۲۵

سعد سے روایت ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو بلاشبہ میں تمہارا ولی و حاکم ہوں۔ سب نے کہا آپ صحیح فرمارے ہیں پھر آنحضرت نے حضرت علیؓ کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا: یہ میرے ولی اور میرے فرائض کو انجام دینے والے ہیں خداوند اتواسے دوست رکھ جو ان کو دوست رکھے اور تواسے دشمن رکھ جوان کو دشمن رکھے۔

حدیث: ۹۵: اخبرنا احمد بن عثمان [الصری] ابو الحوزاء قال: حدثنا ابن عثمة [وهو محمد بن خالد البصري] قال: حدثنا موسى بن يعقوب، عن المهاجرين مسمار، عن عائشة بنت سعد، عن سعد قال: أخذ رسول الله (ص) ييد على خطب فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((الستم تعلمون أنى أولى بكم من أنفسكم))؟ قالوا: نعم، صدقتم يا رسول الله (ص). ثم أخذ ييد على فرقعها فقال: ((من كنت ولته فهذا ولته، وإن الله يوالى من والاه ويعادي من عاده)). سعد کہتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا: اور حمد و شانے الہی کے بعد فرمایا: کیا تمھیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے قریبوں پر تم سے زیادہ حاکم ہوں سب نے کہا: جی ہاں آپ صحیح فرمارے ہیں پھر حضرت علیؓ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا: جس کا ولی و مولا میں ہوں یہ (علیٰ بھی) اس کے مولا ہیں پیشک اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو انھیں دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھتا ہے جوان کو دشمن رکھے۔

حدیث: ۹۶: اخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يحيى [بن أبي عسر] قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن أبي كثیر، عن المهاجرين مسمار قال: أخبرني عائشة بنت سعد، عن سعد قال:

حدیث: ۹۵: کتاب النساء: ج ۵۵، ح ۱۱۸۹: والبدایہ والنہایہ: ج ۵، ح ۱۲۴

عامر بن واثله سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا: میں ہر اس شخص سے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے غدری قسم کے دن آنحضرت سے پکھہ سنائے تباۓ کہ اس نے کیا سنائے؟ تو پکھہ لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ تم نے غدری کے دن رسول اسلام ﷺ کو فرماتے ہوئے سنائے کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ حاکم ہوں اس وقت آپؓ کھڑے ہوئے تھے آپؓ نے حضرت علیؓ کے دست مبارک کو پکڑ کر فرمایا: "جس کا میں مولا ہوں، اس کے علیؓ کا مولا ہیں پروردگار اتواس کو دوست رکھ جوان کو دوست رکھے اور تواس کو دشمن رکھ جوان کی دشمن رکھے"

ابوظیل کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اگر میرے دل میں پکھہ شک تھا میں نے زید بن ارقم سے ملاقات کی اور انھیں یہ خبر دی تو انھوں نے کہا کہ تم کس بات کا انکار کر رہے ہو میں نے (خود) آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے۔

حدیث: ۹۳: اخبرني زكريا بن يحيى [المجستاني] قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا ابراهيم [بن السندر] قال: حدثنا معن [بن عيسى] قال: حدثني موسى بن يعقوب، عن المهاجرين مسمار، عن عائشة بنت سعد و عامر بن سعد، عن سعد: أن رسول الله (ص) خطب الناس فقال: ((أنا سعد، أيها الناس فاني ولتكم)). قالوا: صدقتم. ثم أخذ بيد عليٰ فرقعها ثم قال: ((هذا ولتي والمؤذي عني، وال الله من والا، و عاد من عاده)).

حدیث: ۹۴: کتاب النساء: ج ۵۵، ح ۱۱۸۹: مناقب کوفی: ج ۱، ح ۲۲۲، ح ۳۲۷: ترجمۃ الامام طیب من تاریخ دمشق: ج ۲، ح ۵۳، ح ۵۵۳: فرائد انسطین: ج ۱، ح ۲۷، ح ۲۷: البدایہ والنہایہ: ج ۵، ح ۱۲۴ و ۱۲۵: مسند شافعی: ج ۱، ح ۱۶۵، ح ۱۰۶.

کَتَمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِطَرِيقِ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ [وَهُوَ مَوْرِجُ الْيَهُودِ لِنَفْعِهِ] بَلْغَ عَدِيرَ حَمْ وَقَفَ النَّاسُ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ مَضِيِّ وَلْحَقِّهِ مِنْ تَحْلِفِهِ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ: ((أَيَّهَا النَّاسُ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ.

قال: ((اللَّهُمَّ أَشْهِدُ)) ثَلَاثَ مَرَاتٍ يَقُولُهَا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيَّهَا النَّاسُ مَنْ وَلَكُمْ؟)) قَالُوا: ((اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) ثَلَاثَةِ، ثُمَّ أَخْذَ بِدِيدِ عَلَيْهِ فَاقْامَهُ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلِيَهُ فَهُدَا وَلِيَهُ، اللَّهُمَّ وَالَّذِي وَلَدَعَ مِنْ عَادَةِ)).

سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اسلام ﷺ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے جب غدریم کے مقام پر پہنچے تو لوگوں کو تھہرنا کا حکم دیا جو آگے بڑھ گئے تھے انھیں پیچھے بلوایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے انھیں ملن ہونے کا حکم دیا۔ جب سب کے سب کجا جن ہو گئے تو فرمایا: اے لوگو! کیا میں نے اللہ کے احکام کو تم لوگوں تک پہنچا دیا، سب نے کہا: جی با۔ اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ فرما دیا خداوند اتواس بات پر گواہ رہنا پھر فرمایا: اے لوگو! بتاؤ تمہارا ولی و حاکم کون ہے؟ سب نے جواب دیا خدا اور اس کا رسول ہمارا ولی ہے دوبارہ آپ نے یہی سوال فرمایا: لوگوں نے یہی جواب دیا پھر تیری مرتبہ آپ نے یہی سوال کیا اور سب نے یہی جواب دیا یہ سن کر آنحضرت نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: جس کا ولی و حاکم اللہ اور اس کا رسول ہے یہ (علیؓ بھی) اس کے ولی و حاکم ہیں خداوند اجوان کو دوست کر کر بھی اسے دوست رکھا اور جو انھیں دشمن رکھتا بھی اسے دشمن رکھ۔

علیؓ سے محبت کی ترغیب

حدیث: ۹ اخبرنا اسحاق بن ابراهیم [ابن راهویہ] قال: اخبرنا التضر بن شعبیل قال: حدثنا عبد الجليل بن عطیة قال: حدثنا عبد الله بن بريدة قال: حدثني أبي قال: لم يكن أحد من الناس أبغض إلى من على أبي طالب، حتى أحببت رجالاً من قريش لا أحبه إلا على بغضاء عليٍّ، فبعث النبي ﷺ [ذالك الرجل على عيبل فصحبته، وما أصحبه إلا على بغضاء عليٍّ، فاصاب سبباً، فكتب إلى النبي ﷺ] أن يبعث إليه من يخمسه، فبعث اليه علياً، وفي السبب وصيحة من الفضل الصبي، فلما حمله صارت الوصيحة في الخمس، ثم حمس فصارت في أهل بيت النبي ﷺ، ثم حمس فصارت في آل عليٍّ، فلما أشاروا إليه بقوله: فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم تروا الوصيحة صارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي ﷺ، ثم صارت في آل عليٍّ؟

لوقعت عليها فكتب وبعثي مصدقاً لكتابه إلى النبي ﷺ مصدقاً لما قال [في] أعلى، فجعلت أقرأ عليه واقرأ صدق واقرأ واقرأ صدق، فامسك النبي رسول الله ﷺ وقال: ((أليبغض علياً؟))؟ فقلت: نعم، فقال: ((لا تبغضه وإن كنت تحبه فازداد حبّاً، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل عليٍّ في الخمس

علیٰ علیت سے محبت کی ترغیب

اس پر آنحضرت ﷺ نے میرا بات کو کفر میا کیا تم علی ﷺ سے دشمنی رکھتے ہو؟

آپ نے فرمایا علی عليه السلام سے بعض نہ کرو اگر محبت کرتے ہو تو اس محبت میں اضافہ کرو قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آل عليه السلام کا حصہ خس میں اس خوبصورت لودھی سے کہیں افضل و بہتر ہے اس حدیث کو سننے کے بعد میرے امام اخضت کر لعنة حضرت علی عليه السلام اور کم محبت سے زمادو تھی۔

عبداللہ بن بریدہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم اس حدیث میں میرے اور آنحضرتؐ کے درصحان مجرم ہے ہما کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔

حدث: ٩٨ أخبرنا الحسين بن حرث [المرزوقي] قال: حَدَّثَنَا الفضل بن
مسير، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعد بن وهب قال:

موسى، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: قال علي في الرجية: أنشد بالله من سمع رسول الله (ص) يوم غدير خم يقول: ((إن الله ولني وأنا ولني المؤمنين و من كنت ولته فهذا ولته، اللهم وال من والاه وعدامن عاداه وإنصر من نصره)). قال: فقال سعيد: قام الى جنبي ستة، وقال زيد بن يبيع: قام عندي ستة.

وقال عمرو ذومر: ((احب من احبه وأبغض من ابغضه...)) وساق

الحديث، رواه اسرايل عن أبي اسحاق عن عمرو ذي مرّة: أحبّ...
سعید بن دہب کہتے ہیں حضرت علیؑ نے صحن مسجد میں لوگوں کو قسم دے کر
پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کس شخص نے رسول اکرم ﷺ کو غدیر کے دن یہ فرماتے

ج ٣٥٩-مشکل الاتارطهوي: ج ٣٢، ج ١٠، ج ١١ (باب ٢٦)، ح ٣٣١٥

فضل من وصيفة). فما كان أحد بعد رسول الله (ص) أحب إلى الله من على قبر عبد الله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبي (ص) غير أبي.

عبد الله بن بريدة كاپیان ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ: میرے نزدیک حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے زیادہ کوئی قابل نفرت شخص تھا یہاں تک کہ میں قریش کے ایک شخص کو صرف اس لئے چاہتا تھا کہ وہ بھی حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا دشمن تھا ایک مرتبہ رسول ندانے کے اس شخص کو امیر لشکر بنا کر بھیجا میں بھی چوں کہ حضرت علی سے دشمنی رکھتا تھا البتہ اس کے ساتھ ہولیا۔ کچھ کنیزیں اسیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے پاس ایک عریضہ بھیجا تاکہ وہ کسی کو خس تقسم کرنے کے لئے بھیجن حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو بھیجا ان اسیروں میں ایک خوبصورت جوان کنیز تھی حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے جب خس کا لالا تودہ کیز خس کا حصہ قراریا۔

جب دوبارہ خس کے حصے کے تواہ کنیز الہمیت کے حصہ میں آئی پھر خس نکلا گیا تو
آل علی علیہ السلام کے حصہ میں آئی اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف
ائے تو ان کے سر مبارک سے پانی میک رہا تھا اس پر ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ
نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ خوبصورت کنیز پہلے الہمیت کا اس کے
بعد آل علی علیہ السلام کا حصہ قرار مانی لہذا اسے اب نے تصرف میں لے آیا۔

پس امیر لشکر نے ایک خط رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں لکھا اور مجھے اس خط کی تعداد اور گواہی کے لئے بھیجا جو کچھ اس نے حضرت علیؓ کے پارے مذکور کھاتا تھا۔ میں نے آنحضرتؓ کی خدمت میں پہنچ کر خط پر ہنا شروع کیا۔ خط پر صحتاً جاتا اور کہتا جاتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے۔

کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھا اور جو اسے دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھا اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرا اور جو اس سے بغضہ رکھے تو بھی اس سے بغضہ رکھا اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرم۔

ہوئے سا ہے کہ ”بیشک اللہ میر اولیٰ و حاکم ہے اور میں صاحبان ایمان کا ولی و حاکم ہوں اور جس کا میں ولی و حاکم ہوں اس کے یہ (علیٰ) ولی و حاکم ہیں عذاب نہ آتا اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو اس کو دشمن رکھے اور اس کی مدد فرمائے جو اس کی مدد کرے“

سعید نے کہا کہ میرے پہلو سے چھ آدمی اور زید بن شیع نے کہا میرے زدیک سے چھ آدمی کھڑے ہوئے (اور انھوں نے گواہی دی)

اور عمر دودھرے نے یوں لفظ کیا ہے: خدا یا جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرمائے اور جو اس سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر...۔

الحديث: ٩٩ أخبرنا علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن نعيم قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا أبو اسحاق، عن عمرو ذي مر قال:

حدث أبو اسحاق، عن عمرو ذي مر قال: شهدت على بالمرجة
بتشد أصحاب محمد (ص): أيكم سمع رسول الله (ص) يقول يوم عذير خم ما
قال؟ فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله (ص) يقول: ((من كتب مولا
فإن علياً مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاده، و أحب من أحبه و أبغض
من أبغضه، و انصر من نصره)).

عمر و ذو مہر نے کہا: کہ میں نے امام علیؑ کو حسن مسجد میں اصحاب پیغمبر ﷺ کو
قسم دے کر پوچھتے ہوئے دیکھا آپؐ فرمائے تھے کہ تم میں سے کون ہے جس نے
غدرِ خم کے دن آنحضرتؐ کے ارشاد گرامی کو سنایا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے
لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنایا گے
جس کا میں مولیٰ و حاکم ہوں بلاشبہ علیؑ اس کے مولا و حاکم ہیں خداوند جو اس

حدیث ۹۸: ترجمہ الامام علی مسیح تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۲۸، ح ۵۲۹.

^{٩٩} مسند احمد: ج ٢، ص ٤٦٢، ح ٩٥١؛ فضائل احمد: ص ٩٧، ح ١٣٣؛ مسند يزدی: ج ٤، ح ١٣٣.

٢٢٣: مسابق كوفي: ح ٢٧، م ٣٦، ح ٣٩، م ٣٨٢، ح ٨٢٣، م ٣٢٩، ح ٩١١، م ٩٢٤

وَكُلٌّ—٣٥٢، حِجَّة١٩٢، ٩٢٣ و ٩٢٤؛ بَعْدَ كَبِيرٍ طَهْرِ الْأَنْوَافِ، حِجَّة١٩٣، ٥٥٩-٥٥٠؛ إِلَيْهَا طَهْرٌ؛ حِجَّة١٩٤، ٣٥٢.

٢٩٨: فرائد المصطفى: ج ٢، م ٢٨، ه ٣٣: الباب: ج ٦: ح ٥: كتب العناية

م١٥٨، ج ٢٢٨٧

مؤمن اور منافق کی پہچان

حدیث: ۱۰۰ اخبرنا [ابو کریب] محمد بن العلاء [الکوفی] قال: حدثنا ابو معاویة، عن الأعمش، عن عدی بن ثابت، عن زر بن حبیش، عن علی قال: ((واللّهِ فلق السَّمَاء و بر النَّسْمَة [إنه] العهد النَّبِيُّ الْأَمِيُّ (ص) إِنَّمَا يَعْتَقِلُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْغَضُنِي الْمُنَافِقُ)).

زر بن حبیش سے روایت ہے: حضرت علیؑ نے فرمایا: اس کی قسم جس نے دانے کو شکافت کیا اور ہر ذمی روح کو وجود بخشندا مجھ سے نبی اکرم ﷺ نے عہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے بعض وعدات رکھے گا [۱]

حدیث: ۱۰۱ اخبرنا واصل بن عبد الأعلى [الکوفی] قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عدی بن ثابت، عن زر بن حبیش، عن علی قال: ((عهْد النَّبِيِّ (ص) إِنَّمَا يَعْتَقِلُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْغَضُنِي الْمُنَافِقُ)).

حدیث: ۱۰۰- مختلف ابن ابی شیبہ : بحث ۲، ج ۳۶۸، حدیث ۳۲۰۵۵ صحیح مسلم : ج ۱، ص ۸۶ (باب ۳۳)، ح ۱۳۱، شنبہ ابن ماجہ ح ۱، ج ۱۱۳، کتاب الت : ج ۵۸۳ ح ۱۳۲۵، شنبہ الکبریٰ نسائی : ج ۵، ج ۲۷۰، ح ۸۱۵۳، صحیح ابن حبان : ج ۱۵، ج ۳۲۶، ح ۲۹۲۳، مناقب کوفی : ج ۲، ج ۲۹، ح ۲۷۸، ترجمہ الامام علی علیہ السلام من تاریخ دمشق : ج ۲، ج ۱۹۵، ح ۲۸۹، ح ۲۹۰.

[۱] اس حدیث نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی محبت ایمان کی پہچان اور آپ ﷺ سے دشمنی نفاق کی علامت ہے

رز بن جوش نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: رسول اسلام ﷺ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ مجھ سے سوائے مومن کے کوئی اور محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض و نفرت نہ کرے گا۔

١٠٢- أخبرنا يوسف بن عيسى قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن عدّي، عن زر قال: قال علي: ((اَنَّه لِعَهْدِ النَّبِيِّ الْأَتِيِّ (ص) إِلَيْهِ لَا يَحْتَكُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَغْضُكُ الْمُنَافِقُ))

رز بن حبیش کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: رسول ﷺ نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ (اے علیؑ) تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی دشمنی، بغضہ رکھے گا۔

الحديث رقم ١٠٣: أخبرنا أبو جعفر [محمد بن عبد الله بن المبارك]
المحرمي [قال: حذثنا يحيى بن معين قال: حذثنا عمر بن عبد الرحمن [أبو
حفص الأتار، عن الحكيم بن عبد الملك، عن العارث بن حصيرة، عن أبي
صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي] قال:
قال رسول الله (ص): ((يا علي، فيك مثل من عيسى أبغضته يهود حتى
يهرأ الله، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالعتزيل الذي ليس به)) .

رہبیع بن ناجد سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے علیؑ! مختار مثال حضرت عیسیٰ۔ جیسی ہے ان سے یہودیوں نے دشمنی کی تو اس حد تک کہ ان کی ماں پر تہمت لگادی اور نصاریٰ نے محبت کی تو اس مرتبہ تک پہنچا دیا جو ان کے لئے سزا اوارث تھا۔

حدیث ۱۰۱؛ مصنف ابن ابی شيبة: ح ۲، مس ۳۶۸، حدیث ۵۵، مس ۳۲۰، حدیث ۴۵، مس ۳۲۱، ح ۲۱۷؛ حدیث ۵۵، مس ۳۲۰، ح ۲۲۰؛ فضائل احمد: مس ۳۵، ح ۲۱، صحیح مسلم: ح ۱، مس ۸۲، ح ۱۳۱، سنن ابن ماجہ: مس ۳۱۹، ح ۱۰۲۲؛ فضائل احمد: مس ۳۵، ح ۲۵، صحیح مسلم: ح ۱، مس ۸۲، ح ۱۳۱، سنن ابن ماجہ: مس ۳۲۰، ح ۱۳۳، کتاب البشیر: مس ۵۸۲، ح ۱۳۲۵، مناقب کوفی: ح ۲، مس ۳۲۹، ح ۹۶۳، سنن کبریٰ نسائی: ح ۲، مس ۵۲۵، ح ۵۲۷، کنز الغوامد: ح ۲، مس ۸۳، مناقب ابن مخازیل: مس ۱۹۹۳، ح ۲۲۸، مس ۱۹۵، ح ۲۲۸.

رسول ﷺ سے علیؑ کی قربت و محبت

حدیث: ۱۰۳ أخبرنا اسماعيل بن مسعود [البصري] قال: حدثنا
حالد [بن الحارث] عن شعبة، عن أبي اسحاق، عن العلاء [بن عرار] قال: سأله
رجل امن عمر عن عثمان، قال: كان من الذين تولوا يوم التقى الجمعان كتاب
الله عليه، ثم أصاب ذنبًا فقتلوه، وسألته عن عليٍّ فقال: لا تزال عنه إلا قرب
 منزله من رسول الله (ص).

کسی شخص نے ابن عمر سے عثمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے
کہا: کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان
جنگ (احد) کے روز پیشہ پھیر لی تھی (فرار کر گئے تھے) اور خدا نے ان کی توبہ قبول
فرمائی تھیں جب وہ دوبارہ گناہ کے مرتكب ہوئے تو لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔

اس کے بعد حضرت علیؑ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ان کے بارے
میں کچھ محنت پوچھو کیا رسول اللہ ﷺ سے ان کے گھر کی قربت کوئی دیکھ رہے ہو؟!

حدیث: ۱۰۳ - مصنف عبد الرزاق: ج ۱۱، ص ۲۲۲، ح ۲۰۳۰۸، فضائل احمد: ص ۹۰، ح ۱۳۳۲، مناقب
کوفی: ج ۲، ص ۲۲، ح ۵۱۱، مختصر طبرانی: ج ۲، ص ۹۷، ح ۱۱۸۸، ترجمۃ الامام علیؑ من تاریخ
مشیع: ج ۱، ص ۲۸۷، ح ۳۲۸، تہذیب الکمال: ج ۲۲، ص ۵۲۸-۵۲۹، ح ۳۵۸۰، میزان
الاحوال: ج ۳، ص ۶۲-۶۵، ح ۵۶۱۰، القویل المسدو: ص ۳۰.

دیکھو مسجد نبی ﷺ میں حضرت علیؓ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا گھر نہیں ہے اور عثمان تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ (احد) کے روز انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا (یعنی انہوں نے جنگ سے پہنچ پھیر لی اور فرار کر گئے) مگر اللہ نے انھیں معاف کر دیا اور عخش دیا اور اس کے بعد تمہارے درمیان ایک چھوٹا سا گناہ کیا تو تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔

حدیث: ۷۰ أخبرنا اسماعیل بن یعقوب بن اسماعیل قال: حدثنا ابن موسی (وهو محمد بن اعین) قال: حدثنا أبي، عن عطاء [بن السائب] [عن سعد بن عیلہ] قال: جاء رجل الى ابن عمر فساله عن علي؟ فقال: لاتسأل عن علي ولكن النظر الی بيته بيوت النبي (ص)، قال: فانی أغضه، قال: أغضك الله.

حدیث عبیدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے حضرت علیؑ کے بارے میں پوچھا تو ابن عمر نے جواب دیا کہ مجھ سے حضرت علیؑ کے بارے میں کچھ مت پوچھو صرف ان کے گھر کو نی ملٹی ٹریننگ کے گھر سے ملا ہواد کیجے لوں شخص نے کہا کہ میں تو ان سے بغض رکھتا ہوں تو ابن عمر نے کہا خدا مجھ سے بغض رکھے۔

حدیث: ۱۰۵ أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا حسن [بن عياش] قال: حدثنا زهير [بن معاویة] عن أبي اسحاق، عن العلاء بن عمار قال: سالت عبدالله بن عمر قلت: لا تحدثني عن عليٍ و عثمان؟ قال: ألمًا على في هذا بيته من رسول الله (ص) ولا أحدثك عنه بغيره، وألمًا عثمان فاته اذنه يوم أحد ذبابة عظيمًا فعفها الله عنه، وأذنب فيكم [ذنبًا] صغيراً فقتلتموه علاء ابن عمار کا بیان ہے کہ میں نے عبدالله ابن عمر سے دریافت کیا کہ کیا تم مجھے حضرت علیٰ اور عثمان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟

تو انہوں نے کہا کہ رہی حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو یہ ان کا گھر ہے جو آخر حضرت کے گھر سے ملا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں تم سے کچھ بھی بتا سکتا اور عثمان، تو سونو، انہوں نے جنگ احمد کے دن بہت بڑا گناہ کیا مگر خدا نے انھیں بخش دیا پکار انہوں نے تمہارے درمیان ایک چھوٹا سا گناہ کیا تو تم لوگوں نے انھیں قتل کر لے۔

٤٠٢ أخبرنا أحمد بن سليمان [الرهاوي] قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَنَ عَمِّي وَهُوَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيِّ وَعَشْمَانَ قَالَ: أَمَا عَلَيِّ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْهُ وَأَنْظُرْنِي إِلَى مَنْزِلَةِ مَنْ رَأَيْتُ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ بِئْرَغَبِيَّهُ، وَأَمَا عَشْمَانَ فَإِنَّهُ أَذْنَبَ ذَلِكَ عَظِيمًا [تَوْرَى] يَوْمَ التَّقْيَى الْجَمِيعَنَ فَعَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَرَّ لَهُ، فَأَذْنَبَ فِي كُمِّ دُونِ ذَالِكَ فَقَتَلَهُمْ.

علااء بن عمار کہتے ہیں: کہ عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے میں نے ان سے حضرت علیؑ اور عثمانؑ کے بارے میں پوچھا، تو یہ لے کر حضرت علیؑ کے سلسلہ میں تو تم مجھ سے پکھومت پوچھو صرف ان کے گھر کو آنحضرتؐ کے گھر کے قریب

جعفری: مصحف ابن ابی شيبة: ج ۲، ص ۳۹۸، ح ۳۹۸، صحیح بخاری: ج ۶، ص ۳۲، ح ۲۱۷، تاریخ کیمی
بخاری: ج ۵، ص ۲۲، انساب الاشراف: ص ۸۹، ح ۲۱۳، مجمع کیم طبرانی: ج ۱۲، ص ۳۱۷،
ج ۱۳۵۲۲، شواحد المترقبیل: ج ۱، ص ۳۰۳، سطن کرم ۱۴۰۷، ق ۱۴۰۷، ج ۸۷، ص ۱۹۶.

حدیث: ۱۰۵، ۱۰۶۔ حدیث نمبر ۱۰۳ کے منابع۔

رسول خدا کے وارث

حدیث: ۱۰۸: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا حمین (هو ابن عیاش) قال: حدثنا ذہیر [بن معاویة] قال: حدثنا أبو اسحاق قال: سال عبد لر حسن [بن خالد] قشم بن العباس: من أین ورث علی رسول الله (ص)? قال: انه كان اولنابه لحوقاً وأشدنا به لزوفاً.

ابو اسحاق سے مروی ہے کہ عبد الرحمن (ابن خالد) نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے وارث کس وجہ سے ہوئے ابن عباس نے کہا: یہ تک حضرت علیؑ ہی ہم سب سے پہلے آنحضرت ﷺ سے ملت ہوئے اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ آنحضرتؑ کے ساتھ ساتھ رہے۔

حدیث: ۱۰۹: أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله [بن عمرو الرقبي] عن زيد بن أبي أنس، عن أبي اسحاق: عن خالد بن قشم انه قيل له: ما على ورث رسول الله (ص) دون جدك وهو عمك؟ قال: ان

حدیث: ۱۰۸: العلل والمعرف: ج ۱، ص ۱۳۷؛ مجمع بکر طبرانی: ج ۱۹، ص ۲۰؛ متدرک حاکم: ج ۳، ص ۱۲۵؛
تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۱۲، ج ۱۰۳۲-۱۰۳۵؛ طراائف ابن طاووس: ج ۱، ص ۲۸۳

علیاً کان اولنا به لحوقاً و أشدنا به لصوقاً.

ابو اسحاق سے روایت ہے کہ خالد بن حکم سے کسی نے کہا: تمھارے دادا (عباس) کے ہوتے ہوئے حضرت علیؑ کس طرح آنحضرت ﷺ کے دارث بن گئے جب کہ تمھارے دادا رسول اللہ کے پیچا ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا: یعنی حضرت علیؑ ہم لوگوں میں سب سے پہلے آنحضرت ﷺ سے ملت ہوئے اور ہم میں سب سے زیادہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ ساتھ رہے۔

حضرت عائشہ کا اعتراض و اعتراض

حدیث: ۱۱۰ أخبرني عبدة بن عبد الرحيم [المرزوقي] قال: أخبرنا عمرو بن محمد قال: أخبرنا يونس بن أبي اسحاق، عن العizar بن خريث، عن النعمان بن بشير قال:

استاذن أبو بكر على النبي (ص) فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد علمت أنَّ علياً أحبَّ إليك من أبي فاهوى إليها أبو بكر ليطمهها وقال: يا عائشة فلانة أراك ترفعين صوتك على النبي (ص)! فأمسكه رسول الله (ص) وخرج أبو بكر مغضباً.

فقال رسول الله (ص): ((يا عائشة كيف رأيتي أنفذتك من الرجل))؟ ثم استاذن أبو بكر بعد ذالك وقد اصطلح رسول الله (ص) وعائشة فقال: أدخلتني في السلم كما أدخلتمني في العرب؟ فقال رسول الله (ص): ((قد فعلنا)).

نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے رسول اسلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اتنے میں انہوں نے ام المؤمنین عائشہ کے زوار زور سے یوں کی کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ

حدیث: ۱۰۹۔ حدیث نمبر ۱۰۸ کے منابع نیز علی کی دراثت کے بارے میں حدیث نمبر ۶۵، ۶۳، ۶۴ مذکور ہے۔

جمع بن عییر کہتے ہیں: میں نوجوانی میں اپنی ماں کے ہمراہ عائشہؓ کے پاس گیا
اور میں نے ان کی خدمت میں حضرت علیؓ کا ذکر کیا تو انھوں نے فرمایا: "میں نے
حضرت ﷺ کے زندگی میں حضرت علیؓ سے اور عورتوں میں ان کی
وہی (حضرت فاطمہ زہرا) سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں پایا۔

الحديث: ١١٢ أخبرنا عمرو بن علي البصري قال: حذى عبد العزيز بن خطاب (ثقة)

قال: حذيفة محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أبي اسحاق
شیعاني، عن جمیع بن عمير قال:

دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها تأسّلها من وراء الحجاب عن علي؟
سألت: تأسّلني عن رجل ما أعلم أحداً كان أحبّ إلى رسول الله (ص) منه، ولا
بِ الْهُدَى مِنْ أَمْ أَمْ أَمْ

حضرت علیؑ کو میرے بابا سے زیادہ چاہتے ہیں یہ سنتے ہی ابو بکر ان کو طلبانچ لگائے کے لئے بڑھے اور کہنے لگے اے فلاں کی بیٹی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم آنحضرت پر اپنی آواز بلند کر رہی ہو، مگر آنحضرت مسیح الدلیل نے ابو بکرؓ کو روک دیا، وہ حصہ میں باہر چلے گئے اس وقت آنحضرت مسیح الدلیل نے فرمایا: اے عائشہؓ تم نے دیکھا کہ کس طریق میں تین حصے ایک رہ (تمہارے بات) سے نجات دی؟

جب آنحضرت ملیٹری ائمہ اور عائشہؓ میں صلح ہو چکی تو ابو بکرؓ نے اندر آئے کی اجازت طلب کی آنحضرتؓ نے ابو بکرؓ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ابو بکرؓ نے کہا جس طرح آپ لوگوں نے مجھے لڑائی میں شریک کیا تھا اسی طرح صلح میں بھی شریک کر لیں تو آنحضرتؓ نے فرمایا: ہم تو صلح کر سکے۔ [۱]

حدیث: ۱۱۰- مسند احمد: ح ۳۰، ج ۲۷، ح ۱۸۳۹۳، ح ۳۲۱، ح ۱۸۲۲۱؛ فضائل صحابه احمد: ج ۲۷، ح ۳۲۸؛ شفیع ابی داود: ح ۲۷، ج ۳۰۰، ح ۳۹۹۹۹؛ هشتم کبری نسائی: ح ۵، ج ۳۲۵، ح ۱۵۵؛ بزار: ح ۸، ج ۲۲۳، ح ۳۲۷، کشف الاستار: ح ۳، ج ۱۹۲، جمیع الزواائد: ح ۹، ج ۲۷.

[۱] اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر بر اسلام ﷺ کے زادیک مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علیؓ ہیں اور اس بات کی گواہ بہت سے روایتیں (حدیثیں) ہیں جن میں سے کچھ اس حدیث سے قبل ذکر ہو چکی ہیں اور کچھ آنے والی ہیں۔
 لبڑا گھج بخاری کی یہ روایت جو عمر و عاص سے منقول ہے کہ ”رسول خدا ﷺ کے زادیک مردوں اور توں میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ اور ان کے پور ہیں“ خلط اور مردود ہے اس لئے کچھ وہ عاص اسلام قبول کرنے سے پہلے شرکوں کا سردار اور حضرت کا بہت بڑا دشمن تھا اور اسلام کے بعد منافقین کا سردار اور حضرت علیؓ کا خاتم و شیخ رہا ہے اور اس نے کیتی وحدتی وجہ سے حدیث جعل کی ہے۔

بارے میں ان سے دریافت کرتے ہوئے شاہنحوں نے جواب دیا کہ تم مجھے ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہی ہو جن کے سوا حضور ﷺ کے زادیک نہیں نے کسی مرد کو محظوظ کیا اور نہیں ان کی بیوی (حضرت فاطمہؓ) سے زیادہ احترم کی انظر میں کسی عورت کو محظوظ کیا۔

حدیث: ۱۱۳ أَخْبَرَنِي زَكْرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا [أَسْرَدُ بْنُ عَامِرٍ] شَادَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ [بْنِ زَيْدٍ] الْأَحْمَرِ، عَنْ عَدَلِ الْأَفْنَى عَطَاءَ، عَنْ أَبِي سَرِيدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ أَبْيَ قَالَ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص؟ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص من النساء فاطمة وَمِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ.

ابن بریدہ ناقل ہیں کہ ایک شخص میرے بابا کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ لوگوں میں رسول اللہ ﷺ کے زادیک کون سب سے زیادہ محظوظ تھا تو آپ نے جواب دیا: مردوں میں حضرت علیؑ اور عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہؓ زہراء سلام اللہ علیہا محظوظ تھیں۔

حدیث: ۱۱۴ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَدَلِ الرَّحِيمِ [خَالِدُ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ] قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ [وَهُوَ أَبْنَى أَبِيهِ] أَبِيهِ زَرْعَةَ بْنَ عُمَرَ وَجَرِيرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْرٍ: سَمِعَ عَلَيْهِ يَقُولُ: ((كَنْتُ أَدْخُلُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ يَصْلَى سَبْعَ فَدْخُلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَصْلَى أَذْنِ لِي فَدَخَلْتُ)).

عبداللہ بن نجیٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیؑ کو یہ فرماتے ہوئے سن ہے کہ "جب میں حضور کی خدمت میں جاتا تھا، اگر آپ ﷺ نماز میں مشغول ہوتے تو ذکر سچ کو بلدا آواز سے کہتے تھے اور میں گھر میں داخل ہو جاتا تھا اور اگر نماز پڑھ رہے ہوئے تو اجازت دے دیتے تھے اور میں داخل ہو جاتا تھا۔

حدیث: ۱۱۵ أَخْبَرَنِي زَكْرِيَاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ [بْنِ زَيْدٍ] الْأَحْمَرِ وَأَبُو كَامِلٍ [فَضِيلٍ بْنِ حَسِينٍ] إِقْلَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِينَ عَمَرَ بْنَ جَرِيرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْرٍ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ

ص ۱۰۵: تاریخ بغدادی: ج ۲، ص ۱۰۵۔

حدیث: ۱۱۶ شرح الاخبار: ج ۱، ص ۱۳۰، ح ۷۰، ۷۲، ۷۷: مسنون شد طبری: ج ۲، ص ۲۳۹، ح ۱۳۶: محدث: الحاکم: ج ۳، ص ۱۵۲.

حدیث: ۱۱۷ سنن ترمذی: ج ۵، ص ۲۹۸، ح ۳۸۶۸: مسنون روایانی: ج ۲، ص ۲۱، ح ۲۳۹: محدث: الحاکم: ج ۳، ص ۱۵۵: استیعاب: ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۲۹: ترمذی: الامام علیؑ مسن تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۱۶۲، ح ۱۳۹.

((كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله(ص) فان كان في صلاة سبعة فكان ذلك اذنه لي، وإن لم يكن في صلاة أذن لي))

عبداللہ بن حبیب سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: ”کہ میرے لئے رسول اسلام ﷺ کی خدمت میں حاضری کے لئے سحر کے وقت ایک ساعت مقرر تھی جب میں پہنچتا تھا اور حضور نماز میں مشغول ہوتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے اور یہی کلمہ میرے لئے احیا تھا اور اگر نماز میں نہ ہوتے تو خود ہی بلالیا کرتے تھے۔

١٤٦: أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير [بن عبد الحميد] عن المغيرة [بن مقسم] عن الحارث [بن يزيد] عن أبي زرعة [بن عمرو] قال: حدثنا عبدالله بن نجاشي، عن عليٍّ قال:

((كانت لي من رسول الله(ص) ساعة من السحر اتيه فيها، اذا اتيت
استاذت فان وجدته يصلی سجح فدخلت، وان وجدته فارغاً ذن لمي)).
عبدالله بن نجاشی سے نقل ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: ”میرے لئے رسول
اسلام سے ہر میں ملاقات کا ایک وقت مقرر تھا جس میں میں حضور ﷺ کی خدمت
میں حاضر ہوتا تھا حاضری کے وقت میں پہلے اجازت طلب کرتا تھا اگر حضور ﷺ
نمزاں میں مشغول ہوتے تو سبحان اللہ کہتے تھے اور میں گھر میں داخل ہو جاتا تھا ورنہ
خود میں بلالیا کرتے تھے۔

^{١٥} حدیث: ٢٤٥- مسند احمد: ح ٢، م ١٣، ح ٢٠، ح ٢٧٥؛ مسند دارمی: ح ٢، م ٢٨٣، ح ٢٢٦٣؛ صحیح ابن خرجه: ح ٢٢٦٣، ح ٢٢٦٤.

الحديث: ٤١ أخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا أبو بكر [ابن عباس]، عن المغيرة، عن المحارث العكلي، عن ابن نجاشي قال: قال علي: ((كان لي من النبي (ص) مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فلما دخلت اذا دخلت بالليل تتحرج لي)).

اہن جی سے نقل ہے کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ سے ملاقات کے لئے میرے دو وقت تھے ایک وقت دن میں اور ایک وقت رات میں۔ جب میں شب میں جاتا تھا تو آخر حضرت ﷺ مجھے گھنکار کر بلا لمحتے تھے۔

الحديث: ١١٨ أخبرنا القاسم بن زكرياء بن ديار قال: حدثنا أبو
أسامة حماد بن أسامة قال: حدثني شرحبيل (يعني ابن مدرك
الجعفي) قال: حدثني عبد الله بن نجاشي الحضرمي، عن أبيه (وكان صاحب مطهرة
علي) قال: قال علي:

(كانت لي منزلة من رسول الله(ص) لم يكن لأحد من الخلق، فكنت أية كل سحر فأقول: السلام عليك يا نبى الله(ص)، فان تسجن الصرف الى أهلي والا دخلت عليه)).

عنه شئونه: مصحف ابن أبي شيبة: ج ٥، ص ٢٢٣، ح ٢٤٦٦؛ مسنده احمد: ج ٢، ص ٣٣، ح ٢٠٨؛ سنن
ابن ماجه: ج ٢، ص ١٢٢٢، ح ٣٧٠٩؛ سنن نافع: ج ٢، ص ١٢، ح ١٢؛ صحیح ابن خزیم: ج ٢، ص ٥٣، ح ٩٠٣؛
کامل ابن عدی: ج ٣، ص ٢٣٣؛ مشکل الآثار: ج ٢، ص ٢١٠، ح ١٨٩٨؛ سنن بیهقی: ج ٢، ص ٣٢.

سنه تاسیی ۱۳۰۳، حجج این خریده: ۱۳۰۴، می ۵۲، ح ۹۰۲، سنه پنجمی: ۱۳۰۵، می ۳۲، ح ۸۲۵، و می ۲۷، ح ۱۲۷، و می ۲۵، ح ۲۳۵، و می ۲۶، ح ۱۲۹، و می ۲۷، ح ۱۳۰.

امان عزیزی: ج ۲، ص ۵۳۰، ج ۹۰۳: کامل ابن عذری: ج ۲، ص ۲۳۲: مشکل الآثار: ج ۲، ص ۲۱۰،
ج ۱۸۹۸: سنن بیهقی: ج ۲، ص ۲۳۲

ابوالبخاری سے مقول ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: اگر میں حضور ﷺ کے زندیک میری وہ مزارات بے جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ میں ہر حضرت حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری دیتا اور عرض کرتا تھا اے اللہ کے نبی ﷺ آپ پر سلام ہو۔ پس اگر حضور ﷺ کھنکار دیتے تھے تو میں والپس اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاتا تو نہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔

حدیث: ۱۲۱۔ اخیرنا یوسف بن سعید قال: حدثنا حجاج [بن محمد الأعور] عن [عبدالملك] ابن جریح قال: حدثنا أبو حرب [بن أبي الأسود]، عن أبي الأسود، و[حدثنا] رجل أخر عن زاذان، قال: قال علی: ((كنت والله اذا ماتت اعطيت و اذا سكت ابديت)).

ابوالسود اور زاذان کے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم جب میں کچھ سوال کرتا تو مجھے عطا کیا جاتا تھا اور اگر خاموش رہتا تو حضور کی طرف سے خود ہی شروعات ہوتی تھی۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: کہ رسول اکرم ﷺ کے زندیک میری وہ مزارات بے جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہے۔ میں ہر حضرت حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری دیتا اور عرض کرتا تھا اے اللہ کے نبی ﷺ آپ پر سلام ہو۔ پس اگر حضور ﷺ کھنکار دیتے تھے تو میں والپس اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاتا تو نہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔

حدیث: ۱۱۹۔ اخیرنا محمد بن بشار قال: حدثني أبو المساؤ[الفضل بن مساور] قال: حدثنا عوف [بن أبي جمبلة] عن عبد الله بن عمرو بن هند الجهمي قال:

قال علی: ((كنت اذا سالت رسول الله(ص) أعطاني و اذا سكت ابدهاني)). عمر و بن ہند جملی سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ: اگر میں رسول اکرمؐ سے کچھ سوال کرتا تھا تو آپ ﷺ مجھے اس کا جواب مرحت فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو خود گفتگو کا آغاز فرماتے تھے۔

حدیث: ۱۲۰۔ اخیرنا محمد بن المثنی قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخاري، عن علی قال: ((كنت اذا سلت اعطيت و اذا سكت ابديت)).

حدیث: ۱۱۹۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۳۲۸، ح ۳۲۰۶۱؛ سنن ترمذی: ج ۵، ص ۴۳۰، ح ۳۲۲۲ و ص ۴۳۰، ح ۳۴۲۹؛ مراہیل ابن ابی حاتم: ص ۹۵، ح ۱۲۸؛ مسن ذکر حاکم: ح ۴۳، ص ۱۲۵؛ ترجمۃ الامام علی مسن تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۳۵۳، ح ۹۸۷؛ تجدیب الکمال: ج ۱۵، ص ۳۷۲، ح ۳۲۵۷؛ کنز العمال: ج ۱۳، ص ۱۲۰، ح ۷۲۸؛

حدیث: ۱۲۰۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۳۲۸، ح ۳۲۰۶۰؛ المعرفۃ والتاریخ: ج ۲، ص ۱۵۲؛ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۳۶، ح ۵۳۵؛ حلیۃ الاولیاء: ج ۱، ص ۲۸۲ و ج ۳، ص ۳۸۲؛ ترجمۃ الامام علی مسن تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۳۵۳، ح ۹۸۵؛

حدیث: ۱۲۱۔ مسن طیلیکی: ص ۲۵، ح ۱۸۰؛ طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۳۸۸؛ نضائل احمد: ص ۱۵۳، ح ۲۲۱؛ انساب الائٹراف: ج ۱، ص ۱۳، ح ۲۶، ترجمۃ الامام علی مسن تاریخ دمشق: ج ۲، ص ۳۵۳، ح ۹۸۸، ۹۸۹؛

سوار دش نبی

حدیث: ۱۲۲ أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَمْبَاطٌ [بْنُ مُحَمَّدٍ] عَنْ نَعِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ الْمَدَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُرِيمٍ قَالَ: قَالَ عَلَىٰ: انطَّلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَصَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْكِبِي فَنَهَضْتُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفِي قَالَ لِي: ((اجلس)). فَجَلَستُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي [وجلس لي] فَقَالَ: ((اصعد على منكبِي)). فَهَبَضْتُ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَهُ لِي خِيلَنِي أَنِّي لَوْرَثْتُ لِسْلَتَ أَفْقَ السَّمَاءِ فَصَعَدْتُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهَا تَمَاثَلَ مِنْ صَفَرٍ أَوْ نَحْاسٍ فَجَلَتْ أَعْالَجَهُ لَا يَزِيلُهُ يَمِينًا وَشَمَالًا وَقَدَامًا وَمِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اقْدِفْهُ)). فَقَدَفْتُ بِهِ، فَكَسَرَتْهُ كَمَا تَكَسَّرَ الْقَوَارِيرُ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَانطَّلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبَيْوَتِ خَشِيَّةً مِنْ مَلْقَائِنَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ.

ابو مریم سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں رسول اسلام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جیل رہا تھا یہاں تک کہ ہم خانہ کعبہ پہنچے آنحضرت علیہ السلام میرے شانہ پر سوار ہوئے اور میں ان کو لے کر کھڑا ہو گیا لیکن جب آپ علیہ السلام نے میرا

حضرت زہرا (سلام اللہ علیہا) کے شوہر

الحديث رقم ١٢٣: أخبرنا الحسين بن حرث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله (ص): ((لها صغيره)). فخطبها على فزوجها منه.

بڑیہ سے روایت ہے کہ ابو بکر و عمر نے جناب فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کا پیغام دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی وہ چھوٹی ہیں اس کے بعد حضرت علیؓ نے پیغام دیا تو آنحضرت ﷺ نے ان سے آئی کی شادی کر دی۔

الحديث رقم ١٢٣ أخبرنا اسماعيل بن مسعود قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا ابيوب السختياني، عن أبي بزید المدنی، عن أسماء بنت عميس قالت: كتت في زفاف فاطمة بنت رسول الله (ص)، فلما أصبحنا جاء النبي (ص) انحرب الباب ففتحت له أم أيمن الباب فقال:

((يام ایمن، ادعی لی اخی)). قالت: هو آخوک و تکجه؟! قال: ((نعم يا ام ایمن)).

طریقہ ۱۳۳: طبقات ابن سعد: ج ۸، ص ۱۹؛ فضائل احمد: ج ۱۱۸، ح ۲۳۷؛ مسن نسائی: ج ۲، ص ۶۶؛
مناقب کوفی: ج ۱، ص ۲۹۰، ح ۲۱۰؛ صحیح ابن حبان: ج ۱۵، ص ۳۹۳، ح ۲۹۲۳ و ص ۳۹۹، ح ۲۹۲۸؛
معترض کعبہ طبرانی: ج ۲، ص ۳۲۳، ح ۳۵۷؛ فضائل قاطبه ابن شاہین: ص ۸۷، ح ۳۷؛
مشترک حکم: ج ۲، ص ۱۹؛ بارگی بنداد: ج ۱۳، ص ۳۶۳، ح ۲۹۱، ح ۲۹۱؛ مناقب خوارزی: ص ۳۲۵،
ح ۲۹۱-۲۹۲؛ فراخدا سلطنت: ج ۱، ص ۸۸، ح ۲۷.

ضعف محسوس فرمایا تو مجھے بٹھا کر اتر گئے اور خود بیٹھ کر مجھ سے فرمایا: تم یہ کاند ہے پر سوار ہو میں سوار ہوا اور حضور ﷺ مجھے لے کر کھڑے ہو گئے میں اپنے کوتا نابند محسوس کر رہا تھا کہ اگر چاہتا تو آسان کے افق تک پہنچ جاتا میں ظاہر کی چھت پر چڑھ گیا اس پرتائی اور بیتل کے بت تھے میں انھیں اخنانے کا تار خانہ کعبہ کو ہر جہت سے پاک و پاکیزہ کر دوں اور جب میں نے سب کو جمع کر لیا تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کہ انھیں (نیچے) پھینک دو میں نے انھیں پھینک دیا پھر میں نے انھیں اس طرح توڑ دیا جس طرح شیشہ کو چور کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں نیچے اتر گیا پھر میں اور آنحضرت ﷺ جلدی جلدی آ کر گمراہ میں داخل ہو گئے تاکہ لوگوں سے ملاقات نہ ہو اور وہ متوجہ نہ ہوں۔

حدیث ۱۲۲: مصنف ابن ابی شیبہ: ح، ص ۳۰۲، ح ۳۲۸۹۲؛ مسند احمد: ح ۲، مس ۴۷، ح ۳۲۷۲؛ مسند ابویلیل: ح ۱، مس ۲۵۱، ح ۲۹۲؛ مسند ابی ذئب الاتمار طبری: مس ۲۳۶، ح ۲۲۷۰، ح ۳۱-۳۲؛ مسند ابویلیل: ح ۱، مس ۲۵۱، ح ۲۹۲؛ مسند ابی ذئب کوفی: ح ۲، مس ۲۰۶، ح ۱۰۵؛ مسند رک حاکم: ح ۲، مس ۳۲۶؛ تاریخ بغداد: ح ۱۳، مس ۳۰۲؛ مسند ابی ذئب: ح ۲، مس ۳۲۳۲؛ مسند ابی معاذی: مس ۲۰۲، ح ۲۹۰؛ ارجاعین خواهی: ح ۲۸۲؛ مسند ادحام: ح ۲، مس ۳۲۳۲؛ مسند ابی مقاولی: مس ۲۰۲، ح ۲۹۰؛ ارجاعین خواهی: ح ۱۸؛ مسند خوارزی: مس ۱۷؛ کفایة الطالب: مس ۲۷؛ مسند ابی شہر آشوب: ح ۲، مس ۱۹۰، ح ۱۸؛ فرمادا لاسقطین: ح ۱، مس ۲۳۹، ح ۹۳؛ کشف الاسطارات: ح ۲، مس ۱۲۸، ح ۱۳۵.

نے میرے لئے دعا فرمائی۔

حدیث: ۱۲۵ أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن صدران قال: حدثنا سهيل بن خلاط العبد قال: حدثنا محمد بن سواد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن ابي رب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما زوج رسول الله (ص) فاطمة من علىيَ كان فيما أهدى معها سريراً مشروطاً ووسادة من آدم حشوها ليف، وقربة.

قال: وجاءوا بيطحاء الرمل فيسطوه في البيت، وقال تعالى: ((إذا أتيت بها فلا تقربها حتى تأتك)). فجاء رسول الله (ص) فدق الباب فخرجت اليه أم البنين فقال لها: ((ألم أخحي))؟

فقالت: وكيف يكون أخوك وقد زوجته ابتك؟ قال: ((فاته أخبي)).

قال: لم أقبل [على] الباب ورأى سواداً فقال: ((من هذا))؟ قالت: أسماء بنت عميس، فأقبل [عليها] ف قال لها: ((جئت تكرمي من ابنة رسول الله (ص)))؟ قالت نعم. فدخل عليها وقال لها خيراً، ثم دخل رسول الله (ص).

قال: و كان اليهود يؤخذون الرجل عن أمرته اذا دخل بها، قال: فدع رسول الله (ص) يبور من ماء فضل فيه و عوذ فيه، ثم دعا عليه فرش من ذالك الماء على وجهه و صدره و ذراعيه، ثم دعا فاطمة فأقبلت تغش في ثوبها حياء من رسول الله (ص) ففعل بها مثل ذلك، ثم قال لها: ((أني والله ما الوت أن لزوجك غير اهلي)). ثم قام فخرج.

ابن عباس فرماتے ہیں: کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادی فاطمہ کا عقد کر دیا تو آنحضرت نے جہیز میں ایک چٹائی، ایک چڑی کا تکیہ جس میں

حدیث: ۱۲۳: محدث عبد الرزاق: ح: ۵، م: ۳۸۵، ح: ۸۱، م: ۹، م: ۹۷: محدثات ابن سعد: ح: ۸، م: ۲۳، م: ۲۲: م: ۲۵: محدث الحسن: م: ۵۶۸: المذرية الطاہرۃ: م: ۹۶، ح: ۸۸: محدث کوفی: ح: ۲۱۸، م: ۲۸۳، ح: ۲۲۲، م: ۲۸۳: محدث: م: ۲۱۸، م: ۲۸۳، ح: ۲۱۸: محدث رحمک حامک: ح: ۳۲، م: ۱۵۷، ح: ۱۵۹: ترجمۃ الامام علی مسن

الطالب العالی: ح: ۳، م: ۳۱۱، م: ۳۲۲: اسناد: ح: ۲۰، م: ۱۵۹، ح: ۳۹۵، م: ۱۵۹: محدث: ح: ۳۹۱، م: ۳۹۲

وسمعن النساء صوت النبي (ص) فتحین، قالت: واحجات اذني ناحية، قالت: فجاء علي فدعاه رسول الله (ص) ونصح عليه من الماء ثم قال: ((ادعالي فاطمة)). فجاءت خرقة من الحياة فقال لها: ((قد انكحك احب اهل بيتي)). ودعا لها ونصح عليها من الماء، فخرج رسول الله (ص) فرأى سودافقاً: ((من هذا))؟ قلت: أسماء، قال: ((ابنة عميس))؟ قلت: نعم، قال: ((كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله (ص) تكريمه))؟ قلت: نعم، قالت: فدعالي.

اسماء بنت عميس سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں عقد کی پہلی شب جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تھی صح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لائے اور دق الباب کیا ام ایکن نے دروازہ کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایکن سے فرمایا: کہ میرے بھائی (علی صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلا وام ایکن نے عرض کی کیا وامادی کے بعد ہی وہ آپ کے بھائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اے ام ایکن۔ عورتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو چھپ کر پردے میں چل گئیں اور میں بھی ایک گوش میں بیٹھ گئی جب حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا فرمائیں کہ اور پرانی چھڑکا پھر فرمایا: فاطمہ کو بلا وام شہزادی شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی تشریف لا میں تو آنحضرت نے فرمایا: اے بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو میرے اہلبیت میں میرا سب سے زیادہ محظوظ ہے پھر آنحضرت نے شہزادی کے لئے دعا فرمائی اور ان پر بھی پرانی چھڑک کر باہر نکلے تو ایک سایہ نظر آیا فرمایا یہ کہ ہے میں نے کہا میں ہوں اسماء، آنحضرت نے فرمایا: اسماء بنت عميس؟ عرض کی تھی بہ آپ نے فرمایا: کیا تم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے زفاف میں ان کی خدمت اور تعظیم و تکریم کے لئے آتی تھی میں بولی جی ہاں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کجھوں کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک مشک عطا فرمائی۔

اہن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں نے گھر کے اندر ریت لائے کہ بچھادی تھی (ہا کہ بھت اور بلندی صحیح ہو جائے) پھر آنحضرت نے امام علیؑ سے فرمایا: کہ جب تک میں ر آجائیں تم فاطمہؓ کے پاس مت جانا، جب حضرت تشریف لائے اور واقع الابد کیا تو ام ایکن دروازہ کھولنے کے لئے گئیں فرمایا: میرے بھائی (علیؑ) کہا ہے ایکن میں نے عرض کی اب وہ آپ کے بھائی کیسے ہیں جب کہ آپ نے ان سے اپنائیں کی شادی کر دی فرمایا: مشک وہ میرے بھائی بھی ہیں پھر آگے بڑھئے تو ایک ماریو کو کر پوچھا یہ کون ہے؟ ام ایکن نے کہا یہ اسماء بنت عمیس ہیں آنحضرت امام کی طرف مڑے اور پوچھا کیا تم رسول اسلامؐ کی بیٹی فاطمہؓ کی تظمیم و تحریم کے لئے آئی ہو کہا جی باں تو آپ نے ان کے لئے دعاۓ خیر کی اور گھر میں داخل ہو گئے۔

اہن عباس کہتے ہیں کہ یہودی مرد کو عورت کے پاس جانے سے روکتے تھے لیکن آنحضرت نے پہلے پانی طلب فرمایا اور اپنا لعاب وہیں اس میں ڈالا اور حسرہ "قل اعوذ برب الناس" اور "قل اعوذ برب الفلق" پڑھ کر روم کیا۔

پھر امام علیؑ کو بلا یا اور ان کے چہرہ، سینہ اور دنہوں بازوں پر پانی چھڑ کا کھج جتاب فاطمہؓ کو بلا یا آپ شرم و حیاء سے اپنے لباس میں لرزتی ہوئی رسول اللہؐ خدمت میں پہنچیں حضورؐ نے ان کے اوپر بھی اسی طرح پانی چھڑ کا پھر جتاب قاطع سے مخاطب ہو کر فرمایا: خدا کی قسم میں نے تمہاری شادی کرنے میں کوئی کوہاںی نہیں کی اور میرے اہلیت میں جو سب سے اچھا تھا اس کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے پھر انہوں کو باہر چلے گئے۔

حدیث: ۱۲۵۔ حدیث نمبر ۱۲۳ کے منابع۔

حضرت علیؑ کی تین خصوصیتیں

حدیث: ۱۲۶۔ آخر نبی عمران بن بکان بن راشد قال: حدثنا أحمدين
حالد قال: حدثنا محمد [بن اسحاق]، عن عبدالله بن أبي نجيح، عن أبيه: أنَّ
معاوية ذكر عليؑ بن أبي طالب فقال سعد بن أبي وقاص: والله لآن تكون لي
احدى خلاله الثالث أحبّ اليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس:
لأن يكون قال لي ما قال له حين رده من تبوك: ((اما ترضى أن تكون
شيء بمسرعة هارون من موسى الا أنه لا تبي بعدي)) أحبّ اليّ أن يكون لي ما
طلعت عليه الشمس.
ولأن يكون قال لي ما قال في يوم خير: ((لاعطي الرایة رجلاً يحبّ الله و
رسوله ويحبّه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بغير رار)) أحبّ اليّ من أن
يكون لي ما طلعت عليه الشمس.
ولأن يكون كست صهراً على ابنته لي منها من الوالد ما له أحبّ اليّ من
ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

ابوذرؑ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ معاوية نے امام علیؑ کا کچھ ذکر کیا
تو سعد بن ابو وقار نے کہا، خدا کی قسم اگر ان کی تین فضیلتوں میں سے صرف ایک

میرے لئے ہوتی توهہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی جن پر آفتاب اپنی روشنی ڈالتا ہے۔

اے کاش غزوہ جبوک سے امام علیؑ کو واپس کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا تھا وہ میرے لئے کہتے: کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کر تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موی کو ہارون سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا تو یہ (فضیلت) میرے لئے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی جن پر آفتاب اپنی روشنی ڈالتا ہے۔

اے کاش آنحضرت ﷺ نے خبر کے دن جو امام علیؑ کے لئے کہا تھا، میرے لئے کہتے: کہ میں علم اس شخص کو دونوں گا جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں خداوند عالم اس کے دونوں ہاتھوں پر ہے، کامیابی عطا کرے گا اور وہ فرار کرنے والا نہ ہو گا۔

اے کاش میں ان کا وامادہ ہوتا اور ان کی صاحبزادی سے جو بچے امام علیؑ کے لئے تھے میرے لئے ہوتے تو یہ بات میرے لئے دنیا کی ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہوتی جن پر آفتاب اپنی روشنی ڈالتا ہے۔

جنت کی عورتوں کی سردار

حدیث: ۱۲۷ اخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجید قال: حدثنا محمد بن عمرو [البيهقي]، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: مرض رسول الله (ص) فجاءت فاطمة فاكيت على رسول الله (ص) فسارها فاكيت، ثم أكبت عليه فسأرها فضحكَت، فلما توفى النبيَّ (ص) سالها فقالت: لما أكبت عليه فسأرها فضحكَت، ثم أكبت عليه فأخسرني أني أسرع أهل بيتي [به] الحوقار أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران، فرفعت رأسِي فضحكَت

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ رسول اسلام ﷺ کے مرغ الموت کے وقت تشریف لا میں اور آپ نے حضور ﷺ کے سینے پر اپانہہ رکھ دیا تو آنحضرت نے کچھ آہست سے فرمایا: یہ سنتے ہی آپ مگر یہ وزاری کرنے لگیں اس کے بعد جب دبارہ آپ نے حضورؐ کے سینے پر منہہ رکھا تو آنحضرت نے ان سے کچھ راز کی بات کہا جسے سنتے ہی وہہ بہنے لگیں۔ میں نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد شہزادی سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا: کہ جب میں پہلی مرتبہ بابا کے سینے سے لگی تو بابا نے مجھے اس درد و مرض کے ذریعہ اپنی وفات کی خبر دی اس پر میں رونے لگی پھر

حدیث: ۱۲۶۔ فضائل احمد: ج ۱، ص ۲۱۵، ح ۲۱۵۔ کتاب الصنف: ج ۱، ص ۵۸۷، ح ۱۳۳۲، ص ۵۹۲، ح ۱۸۲۔
مناقب کوفی: ج ۲، ص ۵۲۸، ح ۱۰۵۸، ح ۱۰۵۸، البidayah و النihayah: ج ۷، ص ۳۵۳۔

میں نے شہزادی سے اس روئے اور بہنے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: پہلے
آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات کی خبر دی تو میں روئے لگی پھر مجھے یہ خبر دی کہ تم
مریم بنت عمران کے علاوہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو تو میں ہنسنے لگی۔

حدیث: ۱۲۹ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ابن راهویه] قَالَ: أَخْبَرَنَا
جَرِيرٌ [بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ]، عَنْ يَزِيدَ [بْنِ أَبِي زِيَادٍ]، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
نَعْمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْحَسَنُ وَالْحَسِينُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرِيمَ ابْنَةِ عُمَرَانَ)).

ابوسعید سے منقول ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: حسن و حسین علیہما
السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ، مریم بنت عمران کے سو اجنت کی
تمام عورتوں کی سردار ہیں۔

حدیث: ۱۳۰ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْوَرَ [الطُّوسِي] قَالَ: حَدَّثَنَا
الزَّبِيرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [بْنُ الزَّبِيرِ] أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرُ وَأَسْمَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ مُرْوَانَ) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ [سَلَمَةُ بْنُ دِيَنَارٍ]، عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ
قَالَ: أَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيَّ قَالَ لَهُ قَاتِلُنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا لَمْ نُرِكِ الْيَوْمَ. قَالَ: ((إِنَّ مُلْكَكُمْ السَّمَاءَ لَمْ يَكُنْ
رَأَيْتَ فَاسْتَأْذِنْ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي فَأَخْبَرْتِي) (أو: بَشَّرْتِي) أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ
إِنَّمَا يُوَانِ حَسَنًا وَحَسِينًا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

حدیث: ۱۲۹ مُسْنَدُ أَحْمَدَ: ح ۱۸، م ۱۶۱، ح ۱۱۱۱ او م ۲۷۹، ح ۱۷۵۶؛ فضائلِ احمد: م ۵۷۴،
س ۱۲۳۳ او م ۱۷۷، ح ۱۳۹۰؛ مسن ترمذی: ح ۵، م ۹۵۹، ح ۲۷۲۸؛ مسن ابو یعلی: ح ۲،
م ۳۹۵، ح ۱۱۱۲۹؛ مناقب کوفی: ح ۱۰، م ۱۹۲، ح ۲۶۵ و م ۲۲۳، ح ۲۸۷؛ مسند حاکم:
ح ۱۵۲، م ۱۱۵۲؛ استیعاب: ح ۳، م ۱۸۹۳؛ امامی طوی: م ۲۳۸، ح ۲۳۳؛

جب میں دوبارہ سینہ سے لگی تو آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اہل بیت میں سب سے
پہلے بابا سے جاملوں لگی اور یہ کہ میں جناب مریم بنت عمران کے علاوہ جنت کی تمام
عورتوں کی سردار ہوں یہ سنتے ہی میں نے اپنا سراخھا لیا اور ہنسنے لگی۔

حدیث: ۱۲۸ أَخْبَرَنِيَ هَلَالُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالَمٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي هَشَّامُ بْنُ هَاشَمَ، عَنْ عَبْدِ الْفَلِينِ
وَهَبِ [بْنِ زَمْعَةَ] أَنَّ امْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَهَا فَضَحَّكَتْ قَالَتْ امْ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضَحَّكَهَا؟ فَقَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ لَهُ أَخْبَرَنِيَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّمَا يَمُوتُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ مَوْتِهِ
أَنَّمَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَمْرَانَ فَضَحَّكَتْ.

ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے جناب فاطمہ کو بالا کر ان کے
کان میں پچھے کہا تو شہزادی روئے لگیں پھر دوبارہ پچھے کہا تو بہنے لگیں ام سلمہ کہتی ہے

حدیث: ۱۲۷ - مصنف ابن ابی شیبہ: ح ۲، م ۳۹۱، ح ۱۰ شمن ترمذی: ح ۵، م ۲۰۰، ح ۲۷۴؛
آحاد و مثاثلی: ح ۵، م ۲۵۷ - ۲۵۸، ح ۲۵۸ - ۲۹۲۲، ۲۹۲۳ - ۲۹۲۵، م ۲۹۲۸ - ۳۲۹، ح ۹۹۹
۲۹۷۰: اوائل اہن عاصم: م ۳۲، ح ۷۷ و م ۵۲ ح ۱۵۱، م ۵۳ شمن کبریٰ شافی: ح ۵، م ۹۵
ح ۸۳۲۶ و م ۲۹، ح ۸۳۲۶؛ مسند ابو یعلی: ح ۱۲، م ۲۲، ح ۲۷۵۵؛ الذریۃ الطاہرۃ: م ۱۷۰
ح ۱۳۱، ح ۱۷۵ - ۱۷۷ او م ۱۳۶، ح ۱۸۵؛ صحیح ابن حبان: ح ۱۵، م ۳۰۲، ح ۲۹۵۲؛ بیہقی کیہ طبلہ
ح ۲۲، م ۲۷ - ۳۲، ح ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ و ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳؛ خصال صدوق: م ۵۵۵ (باب اربعین)
ح ۳۰؛ مشکل الآثار: ح ۱، م ۳۵، ح ۹۸؛ فضائل قاطر ابن شاہین: م ۵۲ - ۵۶، ح ۲ - ۳؛ طبلہ
الاولیاء: ح ۲۴، م ۳۰، امامی طوی: م ۳۰۰، ح ۸۹۲؛ دلائل تبیینی: ح ۷۷، م ۱۲۶؛ مناقب ابن
مخازنی: م ۳۶۲، ح ۳۰۸؛

حدیث: ۱۲۸ مسن ترمذی: ح ۵، م ۱۰۰، ح ۳۸۷ - ۳۸۸، آحاد و مثاثلی: ح ۳، م ۳۶۵، ح ۲۹۲۳؛ مسند
ابو یعلی: ح ۱۲، م ۱۱۰، ح ۲۳۳ - ۲۳۴ و م ۳۱۲، ح ۲۸۸؛ الذریۃ الطاہرۃ: م ۱۳۲، ح ۱۸۷؛ تفسیر
طبری: ح ۲۲، م ۳۲۲، ح ۱۰۳۹؛ فضائل قاطر ابن شاہین: م ۵۸، ح ۸.

قالت: فیکیت لدالک، ثم قال: ((أمات رضين ان تكوني سيدة نساء هذه
الأئمة أو نساء المؤمنين)). قالت: فصحت.
ام المؤمنين حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز جناب فاطمہؓ حضورؐ کی
خدمت میں آئیں تو اس طرح چل رہی تھیں جیسے آنحضرت ﷺ چلتے ہیں حضورؐ
نے فرمایا: خوش آمدید اے میری بیٹی اس کے بعد آپ نے انھیں دامیں یا باعثیں
جانب بیٹھا کر کچھ آہستہ سے کہایا سنتے ہی شہزادی رونگیں میں نے شہزادی سے
عرض کیا کہ آنحضرت ﷺ نے تو آپ سے کچھ راز کی بات کہی ہے اور آپ رورہی
ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے ان سے کچھ اور راز کی بات کہی اس پر شہزادی ہنٹے گیں
تو میں نے شہزادی سے عرض کی کہ میں نے آج سے پہلے خوشی کو غم سے اس قد رقرب
نہیں دیکھا پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے آپ سے کیا کہا
حضرت فاطمہؓ نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کا راز فاش نہیں کروں گی۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت
فاطمہؓ سے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا: کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے یہ راز کہا

حدیث ۱۳۰: طبقات کبریٰ ابن سعد: ح ۲، ص ۲۳۷ و ح ۸، ص ۲۶؛ منہ ابن راہوی: ح ۳، ص ۲۳۵
منہ احمد: ح ۲۳۳، ص ۹، ح ۲۳۳۲ و ح ۲۳۴، ص ۹؛ ح ۲۳۳۲ و ح ۲۳۴، ص ۹؛ صحیحسلم: ح
۲، ص ۲۹۰۵، ح ۲۲۵۰؛ منہ ابن بخاری: ح ۳، ص ۵۱۸؛ ح ۵، ص ۲۲۸، ح ۲۲۸، ح ۲۲۸ و ح ۲۲۸، ح ۲۲۸
اور ان ابن الیاء ص: ح ۳۲، ح ۲۷، منہ کبریٰ نسائی: ح ۵، ص ۹۶؛ منہ ابو بیعلی: ح ۱۲، ص ۱۱۱،
ح ۲۷۲۲، ح ۲۷۲۵ و ح ۳۱۳، ح ۲۸۷ و ح ۲۸۸؛ الذریۃ الطاہرۃ: ص ۱۲۳، ح ۱۸۰؛ مشکل الاتہار: ح ۱،
ص ۳۵، ح ۹۷؛ مناقب کوفی: ح ۱، ص ۳۹۲، ح ۳۱۳ و ح ۲۰۸، ح ۹۷؛ مجمجم کبریٰ طرطانی:
ح ۲۲، ص ۳۱۸، ح ۰۳۲؛ امامی صدوق: ص ۲۹۲، ح ۹۲۸، دلائل بنیانی: ح ۲، ص ۳۲۲؛ امامی طوی:
ص ۳۲۲، ح ۲۲۹؛ حلیۃ الاولیاء: ح ۲، ص ۳۰.

ابو ہریرہ نقیل ہیں کہ رسول اسلام ﷺ ایک روز ہم لوگوں کے پاس ناچھے
عشاء کے وقت ہم میں سے کسی نے کہا ہے رسول خدا ﷺ آج ہم لوگوں پر آپ
کی زیارت نہ کرنا شاق گزرا تو آپ نے فرمایا: آسمان کے ایک فرشتے نے میری
زیارت نہیں کی تھی اللہ نے آج اسے اجازت دی اور وہ میری زیارت کے لئے آیا تھا
اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہؓ میری امت کی عورتوں کی سردار
ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

حدیث: ۱۳۱: أخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن
دكين قال: حدثنا كربلا بن أبي زالدة، عن فراس [بن يحيى، عن الشعبي، عن
مرroc عن عائشة قالت أقبلت فاطمة [تمشى] كأن مشيتها مشيبة رسول
الله (ص) فقال: ((مرحباً بابتي)). لمّا أجلسها عن يمينه أو عن شمالك، ثم است
إليها حديثاً فيكت، فقلت لها: استحضرك، فقلت لها: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من
إنه أسر إلينا حديثاً فصحت، فقلت لها: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من
حزن، و سألتها عذماً قال: فقالت: ما كت لأفشي سر رسول الله (ص)، حتى إذا
قبض سالتها فقالت: إنه أسر إلى فقال:
((إن جرنيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مررة، وإنه عارضي به العام
مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجيلى وإنك أول أهل بيتي لحقاً بي ولهم
السلف أنا لك)).

حدیث ۱۳۰: مصنف ابن ابی شیبہ: ح ۶، ص ۳۸۱، ح ۳۲۱۶ و ص ۳۹۱، ح ۳۲۲۱، ح ۳۲۲۲؛ منہ احمد: ح ۲۷۸
منہ احمد: ح ۲۳۳۲ و ح ۲۳۳۴؛ تاریخ کبیر بخاری: ح ۱، ص ۲۳۲، ح ۲۲۸، ح ۲۲۸، منہ ترمذی: ح ۵، ص ۱۱۹،
ح ۲۷۸؛ آحاد و مثنی: ح ۱۵، ص ۳۱۳، ح ۲۲۲، ح ۲۲۰؛ مجمجم کبیر طبرانی: ح ۳، ص ۳۶۸-۳۶۹
ح ۲۰۹؛ تاریخ بغداد: ح ۲، ص ۳۲۲، ح ۳۰۲-۳۰۳، ح ۳۰۳؛ متدرک حاکم: ح ۳۰، ص ۱۵۱
تاریخ بغداد: ح ۲، ص ۳۲۲، ح ۳۰۲-۳۰۳، ح ۳۰۳؛ امامی طوی: ص ۸۳، ح ۱۲؛ تہذیب الکمال: ح ۲۹۴
ص ۳۹۱، ح ۵۵۶۲.

آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بیٹی خوش آمدید اور اپنے دائیں یا باپیں جانب بینجا پھر ان سے راز کی بات کی تو شہزادی زور زد رے رونے لگیں آنحضرت نے پھر کچھ آہستہ سے کہا تو آپ ہنسنے لگیں جب آنحضرت ﷺ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے شہزادی سے کہا کہ حضور ﷺ نے تو ہمارے درمیان سے راز کی باتوں کے لئے آپ کا اختاب کیا اور آپ رونے لگیں؟ مجھے بتائیے کہ حضور نے آپ سے کیا فرمایا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ رسول اسلام ﷺ کے راز کو فاش کر دوں۔ عائشہ بنتی ہیں کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد میں نے فاطمہؓ کو ان کے باپ کا واسطہ کر دیا فوت کیا کہ حضور ﷺ نے آپ سے کیا راز فرمایا تھا تو شہزادی نے فرمایا: اس وقت میں بتا سکتی ہوں پہلی مرتبہ مجھے یہ راز بتایا کہ جبریلؑ میں ہر سال ایک مرتبہ صحیح قرآن سنایا کرتے تھے مگر اس سال دو مرتبہ سنایا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری وفات قریب ہے پس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا یہ سنتے ہی میں رونے لگی۔ اور دوسرا مرتبہ فرمایا: اے قاطمؑ! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اس امت کی عورتوں (یاعالمین کی عورتوں) کی سردار ہو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔

ص ٢٣٣: مسند عطاء أبي: ج ١٩٦، ح ١٣٧٣؛ فضائل الحرم: ج ٢٣، ح ٧، ح ١٣٣٥؛ صحیح بخاری: ج ٨، ص ٤٠٣؛ کتب الاستدئان، باب (٢٣) ح ١١؛ صحیح مسلم: ج ٣، ص ١٩٠٢ (باب ١٥)، ح ٢٩٥٠؛ آحاد و شیعی: ج ٥، ص ٣٥٨؛ ح ٢٩٣٣ و مس ٣٨٧، ح ٣٨٧؛ ح ٢٩٢٤؛ الذریۃ الطاہرۃ: ج ١٣٢، ح ١٧٩۔
 فضائل الائمه: ج ١، ص ٣٥، ح ٩٥-٩٦؛ مکالم کبیر طبرانی: ج ٢٢، ص ٣١٥، ح ١٠٢٣ و مس ٣١٩؛ ح ٢٣٣؛ فضائل قاطر ابن شاہین: ج ٥٦، ح ٦ و مس ٥٩، ح ٨؛ دلائل شیعی: ج ٧، ص ١٦٣ و ١٦٤؛ مطلع الاولیاء: ج ٢، ص ٣٩.

تحاکہ مجھے جریل امین ہر سال ایک مرتبہ قرآن نسخے اور اس سال دو مرتبہ
نایا ہے اور میں وکیور ہا ہوں کہ میری موت قریب ہے اور اے بیٹی تم میرے ہلکو
میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو اور میں تمھارے لئے بہترین سلف ہوں اس
لئے میں رونے لگی پھر آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو
کہ تم اس امت کی عورتوں یا مومنین کی عورتوں کی سردار ہو یہ سننے ہی میں ہنسنے لگی۔

حدیث: ۱۳۲ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَرٍ [المحرومي] قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ [الطِّبَّالِي] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فَرَاسَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقَ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَالِيَّةٌ قَالَتْ: كَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعَافَرَ
مِنْهَا [أَمْرَأَةٌ] وَاحِدَةٌ فَجَاءَتْ فَاطِمَةٌ تَمْشِي، وَلَا وَاللَّهِ إِنْ تَخْطُنِي مُشَبِّهَهَا [مِنْ] مُشَيَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انتَهَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((مَرْحَباً بِابنِي)). فَاقْعُدْهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ
يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْفِكَتِ بَكَاءً شَدِيداً، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْفِكَتِ فَضَحَّكَتْ، فَلَمَّا قَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَتْ لَهَا:

حضر رسول الله(ص) من بيننا بالسرار و أنت تبكين؟!
أخبرني ما قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله(ص)
سره، فلما توفي قلت لها: أسألك بالذي [لي] عليك من الحق ما الذي
سارك به رسول الله(ص)? قالت: أما الآن فنعم، سارني أميرته الأولى فقال:
(إن جبريل كان يعارضي بالقرآن في كل عام مرّة، وإن عارضني
العام مرّتين، ولا أرى الأجل إلا قد أقرب فالتفقي الله واصبر). [فيكتب
قال: ((يا فاطمة أمات رضي عنك سيدة نساء هذه الأمة أو: نساء
العالمين)). فضحت.

سروق سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم
 (یہاں) رسول خدا ﷺ کی خدمت میں تھے کہ جناب فاطمہؓ تشریف لا میں ق
 تم ان کے چلنے کا انداز ہو بہو حضور ﷺ کے انداز جیسا تھا، یہاں تک کہ آس

بضعة الرسول ﷺ

حدث: ١٣٣ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا البث [بن سعد] عن عبد الله بن عبد الله [بن أبي مليكة، عن المصورين مخر ملقا] قال: سمعت رسول الله (ص) وهو على المنبر يقول: ((إنَّ بْنَ هَشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَسَأْذَنَنِي فِي أَنْ يَسْكُحُوا إِبْنَهُمْ عَلَيَّ بْنَ أَبِيهِ طَالِبًا، فَلَا آذَنْ لَمْ لَا آذَنْ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَبِيهِ طَالِبًا أَنْ يَعْلَقَ إِبْنَهُمْ وَيَسْكُحَ إِبْنَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بِضُعْفِ مَنِي بِرِبِّنِي مَا رَابَهَا وَبُؤْذِنِي مَا آذَاهَا)).

مصور بن مخرمة كہتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام ﷺ کو منبر سے فرماتے ہوئے تھا کہ آپ نے فرمایا: بنی ہشام بن مغیرہ مجھ سے یہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ﷺ سے کر دیں میں ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا مگر یہ کہ ﷺ میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کریں فاطمہ نہ کرے جنم کا جزو ہے جس نے فاطمہ کا سکون چھینا اس نے میرا سکون چھینا اور

ص ١٣٣: صحيح بخاري: ج ٢، ج ٣، (كتاب النكاح) باب ١٠٩؛ صحيح مسلم: ج ٣، ص ١٩٠٢،
ج ٢٢٣٩؛ سنن أبي داود: ج ٢، ص ٢٢٦، ح ٢٠٧؛ سنن ترمذی: ج ٥، ص ٢٩٨، ح ٣٩٧؛ شرح
السترقی: ج ١٢، ص ١٥٩، ح ٣٩٥٨.

١٣٢: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم
قال: حدثنا بشير بن السري قال: حدثنا ليث بن سعد قال: سمعت ابن أبي مليكة

يقول: سمعت المسور بن مخربة يقول: سمعت رسول الله (ص) يخطب ثم قال: ((إنّي بني هشام استاذوني في أن ينكحوا ابنتهما علياً و إنّي لا آذن إلا أن يوريد ابن أبي طالب أن يفارق ابنتي وأن ينكح ابنتهما)). ثم قال: ((إن فاطمة مضغة (أو: بضعة) مني يزدبي ما آذها ويربني ما رابها، وما كان له أن يجمع بين بنت عدو الله وبين بنت رسول الله (ص))).

بیوں بن مخرمہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اسلام ﷺ کو مکہ میں خطبہ کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مخیرہ مجھ سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علیؓ سے کر دیں میں تو یہ اجازت دے ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ علیؓ خود میری بیٹی کو چھوڑ کر ان کی بیٹی سے نکاح کرتا چاہیں اور اس کے بعد فرمایا قاطعہ میرے جسم کا لکڑا ہے جس چیز سے فاطمہؓ کو اذیت ہو اس چیز سے مجھے اذیت ہوتی ہے اور علیؓ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کو ایک ساتھ رکھیں۔

حَانَتِامْ باتوں سے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ متعدد حدیثوں میں جو حدیث قدر متفقین ہے وہ یہ کہ
آنحضرت نے فرمایا: ”فَاطِمَةُ [سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا] مِيرَ اکلوا ہے جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے
الذِّنْتَ دی، اور فاطِمَةُ [سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا] کی راضکی خدا کی راضکی ہے“

جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ۱۱

اپنی امیج ہن کے دلوں میں خاندان عصمت و طبارت کے بارے میں بغرض وحدہ فخر ادا تھا اور وہ لوگ آنحضرت ﷺ کی قطبی حدیث کے جو فضیلت فاطرہ ہر اسلام اللہ علیہما اور علیٰ السلام کے ہاتھ میں تھی "فاطرہ سلام اللہ علیہما" میراگرا ہے جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے فاطرہ سلام اللہ علیہما کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔" سے انکار پڑیں کر سکتے تھے۔

لہذا انہوں نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آنحضرت فاطرہ ہر اسلام اللہ علیہما پر ہونے والے دوسرا مظالم کو چھپانے کے لئے اس حدیث کو اس انداز سے ترتیب دی جعل کیا کہ حضرت علیؓؑ نے اپنی ہشام کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر کے فاطرہ سلام اللہ علیہما کو اذیت دی (عوف پا اللہ)۔

حدیث کے اس نکوئے کے جعلی ہوتی کی بہت سے دلیل موجود ہیں

۱۳) سورہ بن غزیر میں جوان دنوں حدیث کارادی ہے اس کی پیدائش آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد کی ہے لہذا جب یہ حدیث گزیری گئی تو اس کی عمر یقیناً چھ ماہ تک ہو رہی تھی جب کہ وہ خدا اس حدیث کے سنت کے وقت ایسے کوئا ہاتھ پہنچا ہے۔ (ماحدیث ہود حدیث نمبر: ۷۷)

۲۱) فتح کے سے پہلے ابو جہل کی کوئی بیٹی مددیں موجود تھی۔
 ۲۲) سور کوئی اسی خاص کرمعادیہ سے دل لگا تو تھا جیسا کہ عروہ بن زید کا بیان ہے کہ وہ معاویہ کا

۲) اگر بفرض حال شادی کی درخواست کا یاد دوئیں سمجھ آیا ہو تو بھی شریعت میں حرام نہیں ہے چنانچہ اس شخصت غصہ ہو جائیں اور اس مباح کام کو برداور حرام تحرار دیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ہیں۔

عمر اس اراؤ پر لوگوں کا رہنمایی کرنے والے ہوئے ہیں اپنے مکاری کا عرصہ اس اجنبی اور دوسرے نہیں پر جا کر اس طرح بیان کرتا آپؐ کی شان و منزلت نیز اخلاق کے منافی ہے لہذا اس طرح کی جملہ مدحیش زصرف حضرت علی ﷺ کے خلاف ہیں بلکہ پہلے سرطان میں خواہ مختصر کے خلاف ہیں۔

۴) حدیث نمبر ۱۳۵ میں کوئی واقعہ ارادہ نکاح کا بیان نہیں کیا گیا ہے
۵) اس حدیث کے ساتھ حدیث نمبر ۹۷، ۹۰، ۸۰، کامطاحد کرنا چاہئے کیوں کہ اگر دو حدیث میں جوں تو یہ دونوں حدیث نمبر ۱۳۲، ۱۳۳ ایسی تجھی شہادوں گی۔

المسورین محرر مقال: سمعت رسول اللہ (ص) بخطبہ علی منبرہ هذا و
لما یومنہ محلم فقل: ((إن فاطمة مضطہة مني)).
مسور بن حمزہ سے روایت ہے کہ جن دنوں میں بالغ ہو چکا تھا، میں نے
رسول خدا ﷺ کو منبر پر خطبہ کے بعد یہ فرماتے ہوئے تھا کہ پیشک فاطمہ میرے
جسم کا تکڑا ہے۔

حدیث: ۱۳۵ الحارث بن مسکین قراءۃ علیہ و أنا سمع عن سفیان [بن عیسیہ]، عن عمرو [بن دینار]، عن ابن أبي مليکة، عن المسورین معروفة ان
السی (ص) قال: ((إن فاطمة مضطہة مني، من أغضبها أغضبني)).

مسور بن حمزہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: کہ پیشک
فاطمہ میرے جسم کا تکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

حدیث: ۱۳۶ اخبرنا محمد بن خالد خلی قال: حدثنا بشر بن شعب [بن ابی حمزة الحمصی] عن ابیه، عن الزہری قال: أخبرني علي بن حسین ان
المسورین محرر مذکور رأیه أن رسول الله (ص) قال: ((إن فاطمة مضطہة مني))
مسور بن حمزہ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پیشک فاطمہ میرے
جسم کا تکڑا ہے۔

حدیث: ۱۳۷ أخبرني عبید الله بن سعد بن ابراهیم بن سعد قال: حدثنا
عسقی [يعقوب] قال: حدثنا ابی، عن الولید بن کثیر، عن محمد بن عمرو بن
حلحلة انه حدثه أن ابن شہاب [الزہری] حدثه: أن علي بن حسین حدثه: أن

حدیث: ۱۳۵ صحیح الامام الرضا: ص: ۳۵، ح: ۲۲؛ مصنف ابن ابی شیبہ: ح: ۲، ص: ۳۹۱، ح: ۳۴۴۴۲۴۲
مسند احمد: ح: ۲۱، ص: ۲۲۸، ح: ۸۹۱۳؛ فضائل احمد: ص: ۵۶، ح: ۳۲۷ او ص: ۷۵۷، ح: ۱۳۳۰ او
ص: ۸۵۷، ح: ۱۳۲۳؛ صحیح بخاری: ح: ۳، ص: ۱۰۱؛ صحیح مسلم: ح: ۳، ص: ۱۹۰۳ او ح: ۱۹۰۳، ح: ۲۸۳۹
ابی داود: ح: ۲، ص: ۲۲۵-۲۲۶، ح: ۲۰۲۹؛ ح: ۲۰۲۰-۲۰۲۱؛ آحاد و متانی: ح: ۵، ص: ۳۹۲، ح: ۲۹۵۶-۲۹۵۹
؛ سنن ترمذی: ح: ۵، ص: ۳۸۲۹، ح: ۲۹۹، ح: ۳۸۲۹؛ سنن کبریٰ نسائی: ح: ۵، ص: ۹۷، ح: ۸۳۲۴
مناقب کوفی: ح: ۲، ص: ۲۰۰، ح: ۲۷۳-۲۷۴؛ صحیح ابن حبان: ح: ۵، ص: ۲۰۸، ح: ۲۹۵۸-۲۹۵۹
مسند شافعی: ح: ۳، ص: ۱۲، ح: ۲۰۷-۲۰۸؛ امامی صدوق: ح: ۳۹۷، ح: ۲۲۲؛ معنی الاخبار: ح: ۱۰۰
معنی: ح: ۳۰۳؛ میون اخبار الرضا: ح: ۲، ص: ۳۶، ح: ۲۷-۲۸؛ محدث رک حاکم: ح: ۳، ص: ۱۵۸-۱۵۹؛ امامی
معنی: ح: ۲۵۶ (ابن الحادی والاثاثون) ح: ۲؛ امامی طوی: ص: ۳۲۷، ح: ۹۵۳.

حدیث: ۱۳۶ مسند احمد: ح: ۳۱، ص: ۲۲۷، ح: ۲۸۰؛ ح: ۱۸۹۱-۱۸۹۱؛ فضائل احمد: ص: ۵۶، ح: ۳۴۹؛
بخاری: ح: ۵، ص: ۲۸ (باب ذکر اصحاب النبي "ص")؛ صحیح مسلم: ح: ۳، ص: ۱۹۰۳، ح: ۲۷۷؛ سنن
ابن ماجہ: ح: ۱، ص: ۲۲۳، ح: ۹۹۹؛ صحیح کبریٰ طبرانی: ح: ۲۰، ص: ۱۹؛ مسند شافعی: ح: ۳، ص: ۱۲۳؛ فضائل
فاطمہ ابن شاہین: ص: ۲۶، ح: ۲۳؛ سنن کبریٰ نسائی: ح: ۷، ص: ۳۰۸.

علیٰ السلام کے بیٹے، رسول خدا کے فرزند

حدیث: ۱۳۸ اخیرنا احمد بن بکار الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن [محمد] بن اسحاق، عن یزید بن عبد اللہ بن قسيط، عن محمد بن اسامه بن زید، عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) ((أَمَا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ فَخُذْنِي وَأَبُو
وَلَدِي وَأَنْتَ مُنْتَهٍ وَأَنَا مُنْكَرٌ)).

اسامة بن زید کا بیان ہے کہ رسول اسلام علیٰ السلام نے فرمایا کہ اے علیٰ السلام تم
میرے دادا اور میرے دو توں بیٹوں کے باپ ہو، تم مجھ سے ہوا اور میں تم سے ہوں.

حدیث: ۱۳۹ اخیرني القاسم بن زكرياء بن دينار قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني موسى (وهو ابن يعقوب الزمعي) عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال: أخیرني مسلم بن أبي سهل البشّار قال: أخیرني حسن بن أسامه بن زید بن حارثة قال: أخیرني اسامة بن زید قال: طرق رسول الله (ص)
ليلة لبعض الحاجة، فخرج وهو مشتمل على شيء لا أدرى ما هو، فلما فرغت

ص ۱۳۸: مسنده احمد: ج ۲، ص ۱۱۱، ج ۷، ص ۲۱۷، مسنده ابو یعلی: ج ۱، ص ۳۰۲، ج ۵۲۸، مجمجم کبیر
حرانی: ج ۱، ص ۱۶۰؛ تاریخ بغداد: ج ۹، ص ۶۲ رقم ۳۴۷۵؛ مناقب ابن معاذی: ص ۲۲۲
ص ۱۳۹: مناقب خوارزمی: ص ۶۵، ج ۳۶.

من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشّفه فأذال الحسن والحسين على وركيه، فقال: ((هذا إبناني وأبا ابني، اللهم إنك تعلم أنني اهتدي فاحتديهما، اللهم إنك تعلم أنني أحبّهما فاحبّهما)).

اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ میں ایک شب اپنی کسی ضرورت کی خاطر رسول
سلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنحضرت ﷺ کچھ لپیٹھے ہوئے لٹک گئے
معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا ہے جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو عرض کی کہ حضور
یہ کیا ہے جسے آپ لپیٹھے ہوئے ہیں تو حضورؐ نے کہراہنا دیکھا کہ حام
حسن ﷺ اور امام حسین ﷺ آپ کی گود میں تشریف فرمائیں اس کے بعد آنحضرتؐ
نے فرمایا یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے فرزند ہیں خدا یا تو جانتا ہے کہ میں ان
دونوں سے کیوں محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان سے محبت فرمائے آپؐ نے اس جملہ کو
پار پا رفرما�ا۔

جو ان جنت کے سردار

١٣٠ أخبرنا عمرو بن منصور قال: حذثنا أبو نعيم قال: حذثنا
يزيد بن مردانبه، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال
رسول الله^(ص): ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)).

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام جو ان جنت کے سردار ہیں۔

الحديث رقم ١٣١ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمَ، عَنْ سَفِيَانَ [النُّوْرِيِّ]، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَعِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْحَسْنُ وَالْحَسْنَى شَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

ج ۱۰، س ۳۱، ح ۹۹۹، ج ۷، اس ۳۱، ح ۱۰۰۰؛ فضائل احمد: ص ۹، ج ۷، س ۲۷، ح ۱۳۸۲؛ مجید کیر طراثی: ج ۴۳، س ۲۷، ح ۲۳۶؛ تاریخ ایجاد: ج ۲، اس ۳۲۱، ح ۸۲۷؛ ایجاد: ج ۱۰، اس ۹۰، رقم ۵۷۷۸

ج ۱۲؛ مشا احمد: ج ۱۸، اس ۱۳۸، ح ۵۹۳؛ اویس ۱۶۱، ح ۱۱۸؛ فضائل احمد: ص ۱۷، ج ۱۳۶۰ و س ۲۷، ج ۱۳۶۸؛ شن‌ترنی: ج ۵، اس ۲۵۶، ح ۳۲۶؛ مناقب کوفی: ج ۲، اس ۲۲۵، ح ۱۸۲؛ مجید کیر طراثی: ج ۳، اس ۳۹، ح ۲۵۱۲-۲۶۱۵؛ حلیمه الادلیاء: ج ۵، اس ۱۷؛ تاریخ پنخاد: ن ۹، س ۲۳۲، رقم ۳۸۰۲

ابو عم نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا
حسن ﷺ و حسین ﷺ جو ائمہ جنت کے سردار ہیں۔

حدیث: ۱۲۲ اخبرنا احمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضیل، عن
بزید [بن أبي زیاد]، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعید الخدري، عن
النبي (ص) قال: ((إن حسنًا وحسيناً سيداً شبابَ أهلِ الجنة)) مالاشتبه من ذلك.

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا: پیش کر حسن و
حسین جو ائمہ جنت کے سردار ہیں، اور اس سے کسی کو مستثنی نہیں کیا ہے (ایثار
اس لئے ہے کہ بعد کی حدیث میں جناب علیؑ اور جناب علیؑ کو مستثنی کیا گیا ہے)۔

حدیث: ۱۲۳ اخبرنا یعقوب بن ابراهیم و محمد بن آدم، عن مروان [بن
معاویة]، عن الحکم بن عبد الرحمن (وهو ابن أبي نعم) عن أبيه، عن أبي سعد
قال: قال رسول الله (ص): ((الحسن والحسين سيداً شبابَ أهلِ الجنة إلا ابني
الخالة عيسى بن مریم و يحيى بن زكريا)).

ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے فرمایا حسن ﷺ و حسین ﷺ جو ائمہ
جنت کے سردار ہیں، میرے دو خالزاد بھائیوں جناب علیؑ اور علیؑ کے علاوہ کہ یہ
دونوں ان سے مستثنی ہیں۔ [۱]

حدیث: ۱۲۴: سنن ترمذی: ج ۵، ص ۶۵۶، ح ۲۷۲۸؛ مناقب کوفی: ج ۲، ص ۲۳۸، ح ۴۰۳، ح ۴۰۴.

حدیث: ۱۲۳: المعرفۃ والتاریخ: ج ۲، ص ۶۲۲؛ سنن کبریٰ نسائی: ج ۵، ص ۵۰، ح ۸۱۲۹؛ حجج ابن جیان:
ج ۱۵، ص ۱۲، ح ۹۹۵۹؛ بیہقی کیر طبرانی: ج ۳، ص ۳۸، ح ۲۶۱۰؛ مشکل الامان: ج ۲، ص ۳۹۳، ح ۱۸۹۴؛
۱۹۶: مسند رک حاکم: ج ۲، ص ۲۲۶، حلیۃ الاولیاء: ج ۵، ص ۱۷؛ تاریخ بغداد: ج ۲، ص ۲۰۸، ح ۱۸۹۴ ق.

[۱] علمائے حدیث کے نزد یک اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس لئے کہ اس سلسلہ کی بہت سی
حدیثیں موجود ہیں جن میں فقط "حسن و حسین [علیہما السلام]" جو ائمہ جنت کے سردار ہیں "تمثیل"
صرف یہی ایک حدیث ہے جس میں علیؑ بن مریم اور علیؑ بن زکریا کو ان سے مستثنی کیا گیا ہے

پیغمبر اسلام ﷺ کے دو پھول

حدیث: ۱۲۳ اخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا حالف الدین [بن
العارث] قال: حدثنا أشعث [بن عبد الملك]، عن الحسن [البصرى]، عن بعض
أصحاب رسول الله (ص) (قال: يعني أنس بن مالك) قال: دخلنا (وربما
قال: دخلت) على رسول الله (ص) والحسن والحسين ينقلبان على بطنه قال: و
يقول: ((ربما حانني من هذه الأمة)).

أنس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اسلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے
امام حسن و امام حسین ﷺ احضور ﷺ کے شکم مبارک پر کھیل رہے تھے اور آنحضرت
فرما رہے تھے یہ دونوں اس امت میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔

حدیث: ۱۲۵ اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال: حدثنا وهب بن جريرا [بن
حازم] أن أبااه حدثه قال: سمعت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن
عبد الرحمن [بن أبي نعم] قال:

حدیث: ۱۲۳: کتب سلیمان: ج ۷، ص ۹؛ صحیحۃ الامام الرضا: ج ۲۳، ح ۲۳؛ تفسیر فرات کوفی: ج ۲۹۸،
ح ۳۰۳؛ کشف الاسطار: ج ۲، ص ۲۲۵؛ بیہقی الطبرانی: ج ۲، ح ۱۸۵، ج ۳۹۹۰، ح ۱۸۲؛ عيون اخبار الرضا:
ج ۲، ص ۲۷، ح ۸؛ ابی صدوق: ج ۵، ص ۵۷۳، ح ۱۹؛ کامل الزیارات: ج ۲۳، ح ۱۰۸، ج ۹۸؛ ح ۱۸۲.

کنت عندابن عمر فائہ رجل فسالہ عن دم المعرض یکوں فی
لوبه، ایصلی بہ؟ فقال ابن عمر:

مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعَرَقِ. قَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَذَا!!!
يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعْرُضِ!! وَقَدْ قَتَلُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)؟!
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: ((هَمَا رِيحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا)).

عبد الرحمن بن ابی قحافة سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن عمر کی خدمت میں تھا کہ
انتہے میں ایک شخص نے آکر ان سے دریافت کیا کہ اگر کسی کے لباس پر پھر کا خون
ہوتا کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟

انہوں نے پوچھا کہ تو کہاں کار بنتے والا ہے اس نے کہا میں عراق کار بنتے والا
ہوں انہوں نے فرمایا کون ہے جو اس شخص سے مجھے چھٹکارا دلاے؟ یہ مجھ سے پھر
کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے جب کہ ان لوگوں نے رسول ﷺ کے بیٹے کو
قتل کر دیا؟! میں نے خود رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ یہ دونوں بھتی
حسن و حسین باغ دنیا میں میرے دخوبدار پھول ہیں۔

سب سے زیادہ عزیز اور محبوب

حدیث: ۱۳۶١ أَخْبَرَنِي زَكْرِيَّاً بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي عَسْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَّاً [بْنُ عَيْنَةَ]، عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ] [بْنِ أَبِي نَجِيْحٍ]، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلَيْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: حَطَّبَتِ إِلَيْيَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاطِمَةُ لِبْرُوْجِنِی، فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَنَا أَحْبَبُ إِلَيْكَ أُمَّ هِی؟ فَقَالَ: ((هِيَ أَحْبَبُ إِلَيْنِکَ، وَأَنْتَ أَعِزَّ عَلَيَّ مِنْهَا)).

عبد اللہ بن ابی قحافة نے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ میں نے منبر کوفہ پر
حضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے ساہے کہ میں نے رسول اسلام ﷺ سے جناب
فاطمہؓ کے ساتھ اپنی شادی کی درخواست کی تو انہوں نے میری شادی فاطمہؓ سے
گردی پھر میں نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ آپ ﷺ کے نزدیک میں زیادہ
محبوب ہوں یا فاطمہؓ تو آپ ﷺ نے فرمایا: فاطمہؓ میرے نزدیک تم سے زیادہ
محبوب ہے اور تم میرے نزدیک فاطمہؓ سے زیادہ عزیز ہو۔

حدیث: ۱۳۶۲ أَبْرَاهِيمَ بْنَ اسْحَاقَ: مِنْ ۲۳۶؛ مُسْدَدُ حَمْدِي: حِجَّةُ اِلٰهٰ، مِنْ ۲۲، حِجَّةُ ۲۸؛ طَبِيَّاتُ اِبْرَاهِيمَ سَعْدِي: حِجَّةُ ۸، مِنْ ۲۲۸۰؛ مُسْدَدُ حَمْدِي: حِجَّةُ ۹، مِنْ ۲۰۲؛ مُصْنَفُ بْنِ ابْيِ شَبِيْبٍ: حِجَّةُ ۲۲۸۲؛ مُسْدَدُ طَيَّابِيِّ: مِنْ ۲۲۰، حِجَّةُ ۱۹۲؛ مُصْنَفُ بْنِ ابْيِ شَبِيْبٍ: حِجَّةُ ۲۲۹۰؛ مُسْدَدُ طَيَّابِيِّ: حِجَّةُ ۲۲۰، حِجَّةُ ۲۲۱، حِجَّةُ ۲۲۲، حِجَّةُ ۲۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴، حِجَّةُ ۲۲۵، حِجَّةُ ۲۲۶، حِجَّةُ ۲۲۷، حِجَّةُ ۲۲۸، حِجَّةُ ۲۲۹، حِجَّةُ ۲۳۰، حِجَّةُ ۲۳۱، حِجَّةُ ۲۳۲، حِجَّةُ ۲۳۳، حِجَّةُ ۲۳۴، حِجَّةُ ۲۳۵، حِجَّةُ ۲۳۶؛ مُسْدَدُ حَمْدِي: حِجَّةُ ۲۳۷، حِجَّةُ ۲۳۸، حِجَّةُ ۲۳۹، حِجَّةُ ۲۴۰، حِجَّةُ ۲۴۱، حِجَّةُ ۲۴۲، حِجَّةُ ۲۴۳، حِجَّةُ ۲۴۴، حِجَّةُ ۲۴۵، حِجَّةُ ۲۴۶، حِجَّةُ ۲۴۷، حِجَّةُ ۲۴۸، حِجَّةُ ۲۴۹، حِجَّةُ ۲۵۰، حِجَّةُ ۲۵۱، حِجَّةُ ۲۵۲، حِجَّةُ ۲۵۳، حِجَّةُ ۲۵۴، حِجَّةُ ۲۵۵، حِجَّةُ ۲۵۶، حِجَّةُ ۲۵۷، حِجَّةُ ۲۵۸، حِجَّةُ ۲۵۹، حِجَّةُ ۲۶۰، حِجَّةُ ۲۶۱، حِجَّةُ ۲۶۲، حِجَّةُ ۲۶۳، حِجَّةُ ۲۶۴، حِجَّةُ ۲۶۵، حِجَّةُ ۲۶۶، حِجَّةُ ۲۶۷، حِجَّةُ ۲۶۸، حِجَّةُ ۲۶۹، حِجَّةُ ۲۷۰، حِجَّةُ ۲۷۱، حِجَّةُ ۲۷۲، حِجَّةُ ۲۷۳، حِجَّةُ ۲۷۴، حِجَّةُ ۲۷۵، حِجَّةُ ۲۷۶، حِجَّةُ ۲۷۷، حِجَّةُ ۲۷۸، حِجَّةُ ۲۷۹، حِجَّةُ ۲۸۰، حِجَّةُ ۲۸۱، حِجَّةُ ۲۸۲، حِجَّةُ ۲۸۳، حِجَّةُ ۲۸۴، حِجَّةُ ۲۸۵، حِجَّةُ ۲۸۶، حِجَّةُ ۲۸۷، حِجَّةُ ۲۸۸، حِجَّةُ ۲۸۹، حِجَّةُ ۲۹۰، حِجَّةُ ۲۹۱، حِجَّةُ ۲۹۲، حِجَّةُ ۲۹۳، حِجَّةُ ۲۹۴، حِجَّةُ ۲۹۵، حِجَّةُ ۲۹۶، حِجَّةُ ۲۹۷، حِجَّةُ ۲۹۸، حِجَّةُ ۲۹۹، حِجَّةُ ۲۱۰، حِجَّةُ ۲۱۱، حِجَّةُ ۲۱۲، حِجَّةُ ۲۱۳، حِجَّةُ ۲۱۴، حِجَّةُ ۲۱۵، حِجَّةُ ۲۱۶، حِجَّةُ ۲۱۷، حِجَّةُ ۲۱۸، حِجَّةُ ۲۱۹، حِجَّةُ ۲۱۹، حِجَّةُ ۲۲۰، حِجَّةُ ۲۲۱، حِجَّةُ ۲۲۲، حِجَّةُ ۲۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴، حِجَّةُ ۲۲۵، حِجَّةُ ۲۲۶، حِجَّةُ ۲۲۷، حِجَّةُ ۲۲۸، حِجَّةُ ۲۲۹، حِجَّةُ ۲۲۱۰، حِجَّةُ ۲۲۱۱، حِجَّةُ ۲۲۱۲، حِجَّةُ ۲۲۱۳، حِجَّةُ ۲۲۱۴، حِجَّةُ ۲۲۱۵، حِجَّةُ ۲۲۱۶، حِجَّةُ ۲۲۱۷، حِجَّةُ ۲۲۱۸، حِجَّةُ ۲۲۱۹، حِجَّةُ ۲۲۲۰، حِجَّةُ ۲۲۲۱، حِجَّةُ ۲۲۲۲، حِجَّةُ ۲۲۲۳، حِجَّةُ ۲۲۲۴، حِجَّةُ ۲۲۲۵، حِجَّةُ ۲۲۲۶، حِجَّةُ ۲۲۲۷، حِجَّةُ ۲۲۲۸، حِجَّةُ ۲۲۲۹، حِجَّةُ ۲۲۳۰، حِجَّةُ ۲۲۳۱، حِجَّةُ ۲۲۳۲، حِجَّةُ ۲۲۳۳، حِجَّةُ ۲۲۳۴، حِجَّةُ ۲۲۳۵، حِجَّةُ ۲۲۳۶، حِجَّةُ ۲۲۳۷، حِجَّةُ ۲۲۳۸، حِجَّةُ ۲۲۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۰، حِجَّةُ ۲۲۴۱، حِجَّةُ ۲۲۴۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳، حِجَّةُ ۲۲۴۴، حِجَّةُ ۲۲۴۵، حِجَّةُ ۲۲۴۶، حِجَّةُ ۲۲۴۷، حِجَّةُ ۲۲۴۸، حِجَّةُ ۲۲۴۹، حِجَّةُ ۲۲۴۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۲۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۱، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۲، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۴، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۵، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۶، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۷، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۸، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۹، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۱۰، حِجَّةُ ۲۲۴۳۳۳۳۳۳

حضرت علیؑ کے لئے دعا

حدیث: ۱۳۷ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عبد الله بن الحارث [بن نوفل]، عن جده، عن علي قال: مرضت لعادتي رسول الله (ص) فدخل علي و أنا مضطجع، فاتكأ إلى جنبي ثم سحاني بشوبه، فلما رأني قد هدئت قام إلى المسجد يصلى، فلما قضى صلاته جاء فرفع الثوب عنّي وقال: ((قم يا علي، فقد برنت)).

لفمت كائناً لم أشك شيئاً قبل ذالك فقال: ((ما سالت ربّي شيئاً في صلاتي إلا أعطاني، وما سالت لنفسي شيئاً إلا وقد سالت لـك)).

جده سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا: کہ میں ایک مرتبہ مریض ہوا رسول اکرم ﷺ کی عبادت کے لئے تشریف لائے میں درد سے پریشان تھا وہ میرے پہلو سے تکیر لگا کر بینچ گئے اور اپنا کپڑا مجھے اڑھا دیا پھر جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ مجھے کچھ آرام مل گیا ہے تو اٹھی اور نماز پڑھنے مسجد تشریف لے گئے جب نماز ادا کر پکے تو دوبارہ آئے اور آکر میرے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا اور فرمایا: اے علیؑ اخوت اسی ہو گئے یہ سنتے ہی میں اس طرح کھڑا ہوا جیسے اس سے پہلے بیمار ہی نہ تھا اس کے

حدث: ١٣٩ أخبرنا أحمدي بن حرب قال: حدثنا قاسم (وهو ابن
يزيد) قال: حدثنا سفيان [الثوري]، عن أبي اسحاق [السيعى]، عن ناجية بن
عقب الأنصاري، عن علي: بوازيره فقال:
أنه جاء رسول الله (ص) (أو قال: إن عمة الشیخ الصالِّ قد مات، فمن
((ذهب فوارياك، ولا تحدث حدثاً حتى تأتيني)). ففعلت ثم أتيته فامرني أن
فصل فاغسلت ودعالي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بشيء منهن)).
ناجية بن عبد الله حضرت عليه السلام روايت كرتة هي: "كما أنْ نَ
آنحضرت" سے جا کر عرض کی کہ آپ کے گمگشته بوزھے پچا (ابوطالب) وفات
کر گئے ہیں ان کی تجمیع و تلفیض کون کرے گا؟ آنحضرت عليه السلام نے فرمایا: تم جا کر
پہنچ بآپ کو دفن کرو، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا یہاں تک کہ میرے پاس آجائو،
مگر اپنے پدر بزرگوار کو دفن کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے غسل
کی میست کا حکم دیا تو میں نے غسل کیا اس کے بعد مجھے وہ دعائیں دیں کہ جن کے
قابلہ میں دنیا کی کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر سکتی" (١)

دست ۱۳۹: مسند طیاکی: جم ۱۹، ح ۱۶۰؛ مصنف عبد الرزاق: ج ۲، ح ۳۹، ص ۹۹۳۷، طبقات ابن سلیمان: ج ۱، ح ۱۴، ص ۱۸۷.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

احادیث و حدیث پحمد حافظ سے درایت و عقل کے خلاف ہے
عقل کے اقتدار سے:

۱۳۔ ابوطالبؒ کافر ماننا خود آنحضرتؐ اور مسلمتوں کی توجیہ ہے کیوں کہ آنحضرتؐ کی پروردش آپؐ نے فرمائی ہے اور اگر بانی اسلام کا مرليٰ کافر و مشرک ہوتا تو اپنے کو اسلام کے خلاف فوکت حاصل ہے

بعد آپ ملشیل اپنے نامے فرمایا: میں نے تمہارے میں جو کچھ خدا سے ماں گا اس تے مجھے عطا کر دیا اور میں نے جو کچھ ہائے لئے ماں گا وہ تمہارے لئے بھی ماں گا۔

١٣٨ أخرجا القاسم بن زكرياء بن دينار قال: حدثنا عليّ [بن قادم] قال: حدثنا جعفر [بن زياد الأحمر]، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عليّ قال: واجت واجعاً شديداً فأتت النبيّ (ص) فاقامني في مكتبه، فقام بيأهـ ، وألق علـ طرف ثوبه ثم قال:

((قم يا علي قد برئت، لا يأس عليك، وما دعوت لنفسي بشيء إلا دعوت لك مثله، وما دعوت بشيء إلا قد استجب لي)) (أو قال: أعطيت) ((لا أنه قيل لي: لأنني بعدك)).

عبداللہ بن حارث سے منقول ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا میں شدید درد میں بنتا ہوا تو رسول اسلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ نے مجھے اپنی بگ پر کھڑا کر کے چادر کا ایک گوشہ میرے اوپر ڈال دیا اور نماز میں مشغول ہو گئے پھر فرمایا اے علیؓ اٹھو کہ تم میں شفافِ الگی اور اب تم میں کچھ نہیں ہے میں نے خدا سے اپنے لئے جو کچھ مانگا وہ تمہارے لئے بھی مانگا اور جو مانگا وہ پورا ہوا (یا عطا ہوا) بس مجھ سے یہ کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا (مطلوب یہ کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو وہ بھی تمہارے لئے خدا سے مانگتا)

حدیث ۱۳۷: مناقب خوارزی ص ۱۳۲، ح ۱۶۲؛ ترجیح الامام حلیس تاریخ دمشق، ج ۲، بیش از ۲۰۰، ح ۸۹۷
حدیث ۱۳۸: کتاب الشیعه، ج ۵۸۲، ح ۱۳۱۳؛ تجمیع اوصاف طبرانی، ج ۸، بیش از ۲۳۵ ح ۹۱۳؛ مناقب کوفی

جاء من ١٥٧ ح ٣٣٥؛ مناقب ابن مخازلي: ج ٣٥، ح ٨٧؛ ترجمة الامام علي بن ابراهيم: ج ٦، ح ٢٤٥-٢٤٧، ح ٨٠٣-٨٠٤ و ج ٢٧٨، ح ٨٠٨-٨١٠ -كتنز العمال: ج ٣، س

مُعْنَى سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: جب میں (اپنے بابا کو دفن کر کے) واپس حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو آخر حضرت ﷺ نے مجھے ایسی بات آجس کے مقابلہ میں پوری دنیا میرے لئے تیج ہے۔

١٥١) أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال: حذّلناه
هاشم بن مخلد [بن إبراهيم] قال: حذّلنا عمي أيوب بن إبراهيم (قال محمد بن
يحيى: رهو حذّل) عن إبراهيم [من ميمون] الصانع، عن أبي اسحاق
الهمداني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى:

أَتَ عَلِيًّا خَرَجَ عَلَيْنَا فِي حَرَّ شَدِيدٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشَّتاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي
الشَّتاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصِّيفِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَشَرَبَ، ثُمَّ مَسَحَ الْعَرَقَ عَنْ
جَيْهٖ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ: يَا أَبَةَ أَرَيْتَ مَا صَبَعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ خَرَجَ إِلَيْنَا
فِي الشَّتاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصِّيفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصِّيفِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشَّتاءِ!
فَقَالَ: أَبُو لِيلَى: هَلْ فَطَنْتَ؟ وَأَخْذَ بِيَدِ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَتَى عَلَيْنَا [فَقَالَ لَهُ]
الَّذِي صَبَعَ]، فَقَالَ لَهُ عَلَيْ

حصہ دیش شاہیت ہوئی تو معاویہ ضرور اس کا سپار المیتا اور اس کے ذریعہ آپ مبلغہ کی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ مدد معمولی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

۴) اسلامگان ذیع نے روانت کی ہے کہ حضرت علیؓ نے آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچ کر جاتا
الطالب کے انتقال کی خبر دی تو آنحضرتؐ نے فرمایا: جاوا اور جا کر انھیں عمل و کفن دو اور جب تک
میرے پاس نہ آیا تو کوئی اور کام انجام نہ دینا (حضرت علیؓ فرماتے ہیں: میں انھیں عمل و کفن دے
کر حضورؐ کی خدمت میں پہنچتا آپؐ نے فرمایا: جا کر عمل میت کرو (من کبری، ج راہ، ۳۰۵)

۵) اس حدیث میں ظاہر شرک ویا شناسی نہیں ہے بلکہ صرف تاجیہ بن کعب کی روانجن میں ہے۔

۶) اگر یہ روانت صحیح بھی مان لی جائے تو جو قرآن کریم میں "وَجَدَكُ سَلاْفَهِ" کے معنی یہیں
دیکھی کیاں پر ہوں گے اور اگر کوئی مسلمان ایک لمحے کے لئے حضورؐ کو گمراہ مان لے تو وہ اسلام
سے خارج ہو جائے گا (غور فرمائیں)۔

حدیث ۱۵۰: مندرجہ ایسی: عص، ۱۹، راج، ۱۲۱

حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَيْ، عَنْ أَبِي دَاؤِدَ [الظِّيَالِسِيِّ] قَالَ لَمَّا رَجَعَتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ كَلِمَةً مَا أَحَبَّ أَنْ لِي بِهَا الدِّينُ

۲) خداوند رسالت، امیر المؤمنین علیہ السلام اور آنحضرتؐ کی تہذیب کے خلاف ہے کہ وہ اپنے پوچھ دیا جائے، خاص کروہ پچا جس نے انھیں پالا، اکفار سے بچایا گاریں اپنی اولاد کو آپؐ کی جگہ پر سالایا ہو، اس کے احسان کو فراموش کر کے اس کا غرض فقط اغفلتوں سے دیں اور وہ بھی مرنے کے بعد؟ جب کہ آنحضرتؐ بھی اکفار سے بھی اس طرح بحاط نہ ہوئے۔

۳۔ جب جناب موسیٰ کی خفاقت کرنے والا مومن آل فرعون ہو سکتا ہے تو کیا فرموئی حضرت محمد ﷺ کی خفاقت و روش کرنے والا مومن قریبی نہیں ہو سکتا؟

(۴) جب کفر و ایمان کا اس قدر خیال تھا تو آخرت نے کل ایمان، اہل ایمان کے دلی، جن کی محبت ایمان کی دشائی اور دشمنی نفاق کی علامت تھی یعنی (حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے کفن و دفن کے لئے کیوں بھجا؟
 (۵) مشرکین قریش کے بڑے بڑے لوگوں کا ابوطالبؑ کے جنازہ کو دفن نہ کرنا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طاقتور بھی تھے اور ہر مرد بہب و ملت میں اس کام (کفن و دفن) کو ایمت دی جاتی ہے، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ان کے عقیدہ میں فرق تھا اور آپ کا عقیدہ مشرکین قریش کے خلاف تھا ورنہ وہ لوگ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر کے خود ہی جناب ابوطالبؑ کو دفن کرتے۔

۱) یہ حدیث فقط تاجیہ بن اکب سے مروی ہے اور مسند احمد کے محقق نے اس کی سنگوں کا ناجیہ بن کتب کے سبب ضعیف قرار دیا ہے۔ (خاصص نسائی، میں ۲۰۶)

۲) یہ حدیث دوسری ایسی متوار تحدیتوں کے خلاف ہے جو ابوطالبؑ کے ایمان پر دلالت کرتی ہے
۳) یہ قول (ابوطالبؑ کا فرمودنا) نبی موسیٰ اور نبی عباسؑ کے زمانہ میں عام ہوا ہے تاکہ علیہم السلام کمزور بنا لیا جاسکے حتیٰ یہ بات معاویہؑ کے زمانہ میں بھی نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ معاویہؑ پر بہت سے امام علیؑ کی خصیت مجرور کرتا تھا اور مجرور کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر بھی یہی حضرت علیؑ کے سلسلہ میں آپؑ کے پدر برادر گووار (جناب ابوطالبؑ) کی طرف تکری فتنت شہیزی دی اگر۔

رسول سے نجومی

١٥٢: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا قاسم [بن يزيد] الجرمي، عن سفيان [الثوري]، عن عثمان (وهو ابن المغيرة) عن سالم [بن أبي الجعد]، عن عليّ بن علقمة، عن عليّ قال: لَتَأْنِزُ لَتْ (يا أيها الذين آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ الرَّسُولُ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِي نَحْوَكُمْ صَدَقَةً)

قال رسول الله(ص) لعلي: ((مرهمن أن يتصدقوا)). قال: يكم يا رسول الله(ص)? قال: ((بدينار)). قال: لا يطيقون. قال: ((نصف دينار)). قال: لا يطقون. قال: ((فككم))؟ قال: بشعرة. فقال له رسول الله(ص): ((إنك لزهيد)). فأنزل الله تعالى: «الشفقت أن تقدموا بين يدي نجواكم»: إلى آخر الآية و كان علي يقول: أبي خفف عن هذه الأمة.

علی ابن علقر سے مقول ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: کہ جب آیہ نجومی ”اے ایمان والو! جب تم لوگ رسول اسلام علیہ السلام سے کوئی راز کی بات کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ دو“ (سورہ مجادل آیہ ۱۲) نازل ہوئی تو آنحضرت علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا: کہ لوگوں کو صدقہ کا حکم دو آپ نے دریافت کیا: اے رسول خدا علیہ السلام کتنا؟

ان النبی (ص) کان بعثت إلی وانا أرمد شدید الرمد، فبزق فی عینی نم
قال: ((افح عیوبک)). ففتحتہما فما اشتکیہما حتی الساعۃ بودھالی
فقال: ((اللهم اذهب عنہ الحرّ والبرد)). فما وجدت حرّا ولا بردا حتی یومی هذ
عبد الرحمن بن ابویلی سے روایت ہے کہ: حضرت علی علیہ السلام شدید گرمی میں سردو
کا لباس پہن کر نکلے اور شدید سردی میں گرمی کا ہلاکا لباس پہن کر ہمارے پاس آئے
پھر پانی مغلوا کرنوش فرمایا اور اپنی پیٹشانی سے پسند صاف کیا یہ دیکھ کر عبد الرحمن حیرت
میں پڑ گئے اور جب اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہا: اے بابا آپ نے
امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی حالت دیکھی؟ وہ سردی میں ہمارے پاس گرمی کے موسم کا لباس
پہن کر آئے اور گرمی میں سردی کے موسم کا لباس پہن کر آئے ابویلی نے کہا:
کیا تم اس کا راز سمجھ گئے؟ پھر وہ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر امام علی علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور جو کچھ ہوا تھا بتایا، یہ سن کر امام علی علیہ السلام نے فرمایا: "نجیر کے
روز میں درجھم میں جلتا تھا آنحضرت نے مجھے بلا بھیجا اور میری آنکھیں لعاب وہیں
لگایا اور فرمایا: اپنی آنکھیں کھوا! میں نے آنکھیں کھولیں تو گویا ایک گھری کے لئے
بھی مجھ کوئی شکایت نہیں رہ گئی تھی۔ پھر حضور علی علیہ السلام نے میرے لئے دعا فرمائی کہ
"خداوند اس (علی علیہ السلام) سے سردی اور گرمی کو دور فرماء" اس دعا کے بعد سے آج تک
نہ مجھے گرمی کا احساس ہوا اور نہ سردی کا احساس ہوا۔

حدیث ۱۵۱: مجم اوس طبریانی: ح ر ۳، ج ۱۵۰، ح ر ۷، ۲۳۰

آنحضرت نے فرمایا: ایک دینار، حضرت علیؓ نے عرض کی: ان میں اتنی طاقت نہیں ہے حضور ﷺ نے فرمایا آدھا دینار، آپ نے کہا: ان کے پاس اتنی بھی تو نہیں نہیں ہے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ تم ہی بتاؤ وہ کس قدر رے سکتے ہیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا: صرف ایک جو یہ سنتے ہی حضور ﷺ نے فرمایا کہ پہلے تم زاہد اور دنیا سے بے رغبت ہواں کے بعد آیت کالبیہ حسنات میں ہوا کہ (اگر تم سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے سے ڈرتے ہو) تا آخریت، حضرت علیؓ نے فرمایا کہ تھے کہ اس امت سے یہ صدقہ میری وجہ سے معاف ہوا۔

شقیٰ ترین انسان

حدیث: ۱۵۳ اخیری محدثین وہب بن عبد اللہ بن سماک بن ابی کریمہ العروی قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ كَعْبَ الْقَرْظَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: كَنْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَفِيقِنِي فِي غَرْوَةِ الْعَشِيرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَقَامَ بِهَا، رَأَيْنَا أَنَا سَأْمَنْ بَنِي مَدْلُجَ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ أَوْ فِي نَخْلٍ، فَقَالَ لِي عَلِيٌّ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ هَلْ لَكَ [فِي] أَنْ تَأْتِي هَذِلِّةَ الْقَرْمِ [فَنَظَرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ؟] قَالَ: قَلْتُ: إِنِّي شَتَّتُ فِي جَنَاحَتِهِمْ فَنَظَرُنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً ثُمَّ غَشِّيَ النَّوْمُ فَلَظَلَّتِ أَنَا وَعَلِيٌّ حَتَّى اضطَجَعْنَا فِي ظَلَّ صُورَ مِنَ النَّخْلِ وَفِي دَقَعَاءِ مِنَ التَّرَابِ فَسَعَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا أَنْبَهَنَا إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَحْرَكُنَا بِرِجْلِهِ وَقَدْ تَرَبَّنَا مِنْ تِلْكَ الدَّدَعَاءِ الَّتِي نَحْنُ نَلِيهَا فَيُوْمَنِيْلَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيٍّ: ((مَا لَكَ يَا أَبَا تَرَابٍ)) لَمَّا يَرِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أَحَدَثُكُمَا بِأَشْقِي النَّاسِ [رِجَلِينَ]؟))

قَالَ سَبِيلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص). قَالَ: ((أَجِيمِرْ شِمُّودَ الْأَدَى عَفَرَ النَّاقَةِ، وَالَّذِي يَهْرِيكُ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ)) وَوُضُعَ يَدُهُ عَلَى قَرْنَهِ (حَتَّى يَئِلَّ مِنْهَا هَذِهِ)) وَأَخْدَدَ بِلْجِيَهِ جَنَابَ عَمَّارِ يَا سَرِّ فَرَمَتْتَ مِنْ كُمْسٍ أَوْ حَضَرَتْ عَلَى مَلِكَتَنَّغَرِ وَعَشِيرَهُ مِنْ سَاتِهِ سَاتِهِ تَتَّهِ جَبَ رَسُولُ اسْلَامٍ عَلِيؓ وَبَانْخَمْرَهُ اُورْ قِيَامٍ فَرَمَيَا تَوْهِمَ نَزَدَ يَكَاهَا كَهْ بَنِي مَدْلُجَ كَهْ كَچْجَه

حدیث: ۱۵۴ ابن حمید: ج ۹، ص ۵۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶، ص ۲۷۶، ج ۶، ص ۳۳۲، مدنی: ج ۴، ص ۳۰۵، ح ۳۳۰۰۰، ترمذی: ج ۴، ص ۳۰۵، ح ۳۳۰۰۰؛ مسند ابو یعلی ج ۱، ص ۳۲۲، ح ۳۰۰؛ مسند کرنی: ج ۲، ص ۱۲۳، ح ۱۲۳، ضعفاء عطی: ج ۳، ص ۲۲۲، ح ۱۲۳۰؛ صحیح ابن حبان: ج ۵، ص ۱۵۵، ح ۲۹۲۲، ج ۲۹۲۱، ح ۲۹۲۱۔

لوگ اپنے چشم کے پاس یا باغ میں کام کر رہے ہیں یہ کیکھ کر حضرت علی ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے ابو قطان کیا میرے ساتھ ان کا کام دیکھنے چلا جائے ہو؟ میں نے کہا: اگر آپ چاہتے ہیں (تو میں تیار ہوں) اس کے بعد ہم لوگ ان کے پاس گئے اور وہاں سے چل دیئے یہاں تک کہ ایک خشک زمین پر پنچ جہاں کچھ بجود کے درخت تھے ہم ان کے سایہ میں ہو گئے۔

پس خدا کی قسم آخر پر حضرت علی ﷺ نے ہمیں اپنے پاؤں کی حرکت سے بیدار فرمایا۔ اس زمین پر سونے کے سبب ہم لوگ خاک آلوو ہو گئے تھے یہی وہ دن تھا جب حضور نے حضرت علی ﷺ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا: اے ابو تاب تمھیں کیا ہوا پھر فرمایا: کیا تم دونوں چاہتے ہو کہ میں تمھیں دو شقی ترین (بدجنت ترین) افراد کے بارہ میں بتاؤ، ہم نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول فرمایا: ایک تو ہمارہ شمود (سرخ رنگ کا آدمی) ہے جس نے ناقہ صالح کو پی کیا دوسرا وہ شخص ہے جو تمھارے اس جگہ (حضرت علی ﷺ کے سر پر با تحرکہ کر کہا) ضربت لگائے گا پھر آخر پر حضرت علی ﷺ کے سر پر با تحرکہ کر فرمایا: اس ضربت کی وجہ سے تمھاری یہ داڑھی خون آلوو ہو جائے گی۔

رسول اسلام کے سب سے قریب

حدیث: ۱۵۳ اخبرنا علی بن حجر [العروزی] قال: أخبرنا جريراً بن عبد الحميد، عن مغيرة [بن مقدم]، عن أم موسى [سرية علی (رض)] قالت: قالت أم سلمة: إن أحدث الناس عهداً برسول الله (ص) على أم المؤمنين أم سلمة فرماتي ہیں بلاشبہ رسول خدام ﷺ نے وفات کے وقت سب سے آخر میں جس سے باقی کیس وہ حضرت علی ﷺ تھے۔

حدیث: ۱۵۵ اخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جريراً بن عبد الحميد، عن مغيرة [بن مقدم]، عن أم موسى قالت: قالت أم سلمة: والذی تخلف به أم سلمة إن كان أقرب الناس عهداً برسول الله (ص) على. قالت: لما كان غداة قبض رسول الله (ص) فارسل إلينه رسول الله (ص)، و كان أرى في حاجة أظنه بعده فجعل يقول: ((جاءه علی)) ثلاثة مرات.

قالت: فجاء قبل طلوع الشمس، فلما أن جاء عرفنا أن له إله حاجة، فخرجن من البيت، و كانوا عند رسول الله (ص) يومئذ في بيته عائشة على فكان آخر من خرج من البيت ثم جلس أدنى هن من الباب فاكب عليه ۳۰۸-۳۰۹؛ معانی الآثار طحاوی: ج ۱، ص ۳۵؛ شواحد التزلیل: ج ۲، ص ۵۵، ح ۲۵۷-۲۵۸؛ آحاد و مشائی: ج ۱، ص ۱۳۶-۱۳۷؛ و م ۱۷۳-۱۷۴؛ مندیزیار: ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۳۲-۱۳۳؛ مندابولی: ج ۱، ص ۲۸۲، ح ۳۳۱، و ح ۸، ص ۵۵، ح ۲۶-۲۷؛ باری طبری: ج ۱، ص ۳۵-۳۶؛ مناقب ابن مخارزی: ص ۸، ح ۵ و م ۲۰۵، ح ۲۳۲-۲۳۳؛ مناقب خوارزی: ص ۲۷-۲۸

حدیث: ۱۵۳: مصنف عبد الرزاق: ح رواه روى: ۱۵۳: طبقات ابن سعد: ح ر ۲۴: وج ۳ م ۲۵: حدیث: ۱۵۳: مصنف ابن أبي شيبة: ح ۷، م ۲۲۳ ح ۲۷۰-۲۷۱، منند احمد: ح ۳۰ م ۳، ح ۲۵۶، ح ۲۵۷-۲۵۸، ح ۲۹۶-۲۹۵ و م ۳۱۰، ح ۲۱۸-۲۱۷، ح ۱۹۵-۱۹۶، تاریخ کعبہ بخاری: ح ۱، احادیث ح ۱، م ۲۷-۲۸، ح ۲۹۶-۲۹۵ و م ۳۱۰، ح ۲۱۸-۲۱۷، ح ۱۹۵-۱۹۶، منند بیزار: ح ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۳۶-۱۳۷؛ آحاد و مشائی: ج ۱، ص ۱۳۶-۱۳۷؛ و م ۱۷۳-۱۷۴؛ مندیزیار: ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۳۶-۱۳۷؛ شواحد التزلیل: ج ۲، ص ۵۵، ح ۲۶-۲۷؛ باری طبری: ج ۱، ص ۳۵-۳۶؛ معانی الآثار طحاوی: ج ۱، ص ۳۵؛ شواحد التزلیل: ج ۲، ص ۵۵، ح ۲۶-۲۷؛ آحاد و مشائی: ج ۱، ص ۱۳۶-۱۳۷؛ و م ۱۷۳-۱۷۴؛ مناقب ابن مخارزی: ص ۸، ح ۵ و م ۲۰۵، ح ۲۳۲-۲۳۳؛ مناقب خوارزی: ص ۲۷-۲۸

تاویل قرآن پر جنگ

١٥٦: أخبرنا اسحاق بن إبراهيم [ابن راهويه] و محمد بن قدامة
واللّفظ له، عن جرير [بن عبد الحميد] عن اعشن عن اسماعيل بن رجاء (بن
ربعة الزبيدي) عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا جلوساً ننتظر رسول الله (ص) فخرج إلينا قد انقطع شعاع نعله، فرمى
بها إلى عليّ فقال:
((إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله)).
فقال أبو بكر : أنا؟ قال : ((لا))

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول خدا ملکہ نبیت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور مسیح ائمہ آپ سچے اور آپ کی نعلین کے بندوں نے ہوئے تھے آپ نے اسے حضرت علیؓ کی طرف بڑھا دیا اور ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو بتاویں قرآن پر اسی طرح جنگ کرے گا جس طرح میں نے نزول قرآن پر جنگ کی ہے۔

ام المؤمنین ام سلم فرماتی ہیں کہ جس چیز کی میں قسم کھا سکتی ہوں وہ یہ کہ اگر دین
میں رسول اسلام ﷺ سے عہد میں کوئی نزدیک تر ہے تو وہ حضرت علیؓ ہیں۔
اور فرماتی ہیں کہ جس کے دوسراے دن آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی اس
روز آپؐ نے حضرت علیؓ کو بلا بھیجا وہ کسی کام میں مصروف تھے اور میرے خیال
سے خود حضورؐ نے ہی انھیں کام سے بھیجا تھا آپؐ نے تمیں مرتبہ دریافت کیا علیؓ
آئے؟ حضرت علیؓ مطلع آفتاب سے پہلے پہلے آگئے جب حضرت علیؓ تشریف
لائے تو ہم سمجھ گئے کہ حضور ﷺ کو ان سے کچھ ضروری کام ہے اس روز ہم عاشر
کے گھر آنحضرت ﷺ کی عیادت کے لئے آئے تھے ہم بگھر سے باہر نکل
گئے۔ سب سے آخر میں میں باہر نکلی اور دروازہ سے بالکل قریب بینتی گئی (میں نے
دیکھا) کہ امام علیؓ حضور ﷺ کے سینے سے لگ گئے اور یہی وہ آخری شخص تھے
جن سے آنحضرتؐ نے راز کی باتیں بیان فرمائیں اور سرگوشیاں کیں۔

حدیث ۱۵۳ و ۱۵۴: طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۲۶۲-۲۶۳، مصنف ابن أبي شيبة: ج ۲، ص ۳۹۸، م
۳۲۰۵۷؛ مسند احمد: ج ۲۲، ص ۱۹۰، ح ۲۲۵۲۵؛ فهائل احمد: ص ۲۱۵، ح ۲۹۳؛ مسند ابواللیل
ج ۱۲، ص ۳۶۳، ح ۲۹۳۲؛ مناقب کوفی: ج ۱، ص ۳۵۶، ح ۳۵۸ و ج ۲، ص ۸۴؛
۵۷۳؛ مسند رک حاکم: ج ۳، ص ۱۳۸؛ اخبار اصفهان: ج ۱، ص ۲۵۰؛ مقتل احسین خوارزمشاه: ج ۱،
ص ۳۸؛ شرح فتح الملاعنة ابن الهمدش: ج ۱، ص ۹۱.

یہ سن کر ابو بکر نے کہا کیا وہ میں ہوں؟
فرمایا نہیں پھر عمر نے پوچھا کیا میں ہوں؟
فرمایا نہیں بلکہ وہ ہے جو جوتے تالک رہا ہے۔

حدیث عبدالرّزاق

١٥٧ أخبرنا يوسف بن عيسى قال: حذثنا الفضل بن موسى قال: حذثنا الأعمش، عن أبي اسحاق، عن سعيد بن وهب قال: قال علي في الرجاء: أتشد بالله من سمع رسول الله (ص) يوم غدير خم يقول: (الله ولبي وأنا ولی المزمنين، ومن كنت ولیه فهذا ولیه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، والنصر من نصره [واخذل من خذله]). فقال سعيد: قام إلى جنبي سنة، وقال حارثة بن مصر: قام عندي سنة، وقال زيد بن يشع: قام عندي سنة، وقال عمرو ذو مرّ ((أحب من أخيه وأبغض من أخيه)).

سعید بن دہب سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں خدا کی قسم دے کر فرمایا: بتاؤ تم میں سے کس نے رسول اسلام علیہ السلام کو غدیر خم کے روز یہ فرماتے تھا ہے کہ ”میرا ولی خدا ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں اور جس کا ولی و حاکم میں ہوں اس کے یہ (علی علیہ السلام) بھی ولی ہیں خداوند اجواس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرمائو اور جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کرو اور جو اس کی نصرت کرے تو بھی اس کی نصرت فرمائو اور جو اسے ذلیل کرے تو بھی اسے ذلیل فرمائو۔

سعید کہتے ہیں کہ میرے پہلو سے چھ لوگ اٹھے حارش بن مضرب کا کہنا ہے کہ میرے پاس سے چھ لوگ کھڑے ہوئے اور زید بن شیع نے کہا کہ میرے پاس سے بھی چھ افراد (اس گواہی کے لئے) کھڑے ہوئے۔

عمرو ذذر کہتا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے یہ بھی فرمایا: خداوند اجواء دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھا اور جو اس سے بغرض رکھے تو بھی اس سے بغرض رکھ۔

باغی و ستّمگر گروہ

حدیث: ۱۵۸: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن [الزهري] قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن [محمد بن جعفر] قال: حدثنا شعبة قال: سمعت خالد [الحذاء] يحدث عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبيه، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله (ص) قال لعقار: ((تقتلك الفتنة الباغية)).

ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے جناب عمر سے فرمایا: تحسین باغی گروہ قتل کرے گا۔

حدیث: ۱۵۹: أخبرني عمرو بن علي قال: حدثني أبو داود [الطباطبائي] قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبوبكر [السختياني] و خالد [الحذاء] عن الحسن، عن أبيه، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله (ص) قال لعقار: ((تقتلك الفتنة الباغية)).

ایک اور روایت کے مطابق ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے جناب عمر سے فرمایا کہ تحسین ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

حدیث: ۱۵۸: مسند احمد: حج: ۲۲۲، ص: ۲۵۵، ح: ۲۶۶۵۰، صحیح مسلم: ح: ۲، ص: ۲۲۳۹، ح: ۲۹۱۶؛ حلیۃ الاولیاء: ح: ۲، ص: ۱۹۷، ح: ۱۹۷؛ سنن کبریٰ ترمذی: ح: ۸، ص: ۱۸۹؛ مسند خوارزی: ص: ۱۹۰-۱۹۱، ح: ۲۲۸-۲۲۹؛ حلیۃ الاولیاء: ح: ۲۵۹؛ طبقات ابن سعد: ح: ۳، ص: ۲۵۲؛ مسند احمد: ح: ۲۲۲، ص: ۱۸۹، ح: ۲۶۵۶۳؛ حلیۃ الاولیاء: ح: ۲، ص: ۱۹۷؛ مسند امام رانی بغداد: ح: ۱۱، ص: ۲۸۹؛ وللائل الغوث ترمذی: ح: ۲، ص: ۳۹۹.

حدیث: ۱۵۷: حدیث ثہر ۸۵، ۸۶ کے منابع

آپ کے سینے کے بال گروآ لوڈ ہو گئے تھے میں بھول نہیں سکتی کہ آپ فرماء ہے تھے
کھداوندا (نکلی تو آخرت کی ہی نیکی ہے پس تو ان انصار و مہاجرین کو بخشن دے)۔
ام المؤمنین ام سلمہ مزید فرماتی ہیں کہ اتنے میں جناب عمار آگئے آپ ملئیں اور
زمدار سے مغلوب ہو کر فرمایا:

”اے سمیے کے فرزند تھیں ایک باغی و شکر گروہ قتل کرے گا۔“

الحديث: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم و محمد بن الوليد
قالا: حذىنا محمد بن جعفر [غادر] قال: حذى شعبة، عن خالد [بن مهران]
الحداء، عن عكرمة، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لِعَفَّارَ: ((تَقْلِيكَ الْفَتَنَةُ الْبَاغِيَةُ)).

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ: رسول اسلام ﷺ نے جناب عمار سے فرمایا: "اے سمیہ کے فرزند تھیں با غیوب کا ایک گروہ قتل کرے گا۔"

الحديث: ٤٦٣ أخبرنا اسحاق بن ابراهيم [ابن راهوية] قال: حذى
الضررين شعيل، عن شعبة، عن أبي مسلمة [سعید بن يزید]، عن أبي
ضرة [العبدى]، عن أبي سعيد الخدري قال: حذى من هو خير مني ابو قتادة: أن
رسول الله (ص) قال لعمار: ((بؤساً لك يا ابن سمية (ومسح الغبار عن
رأسه) تقلبك الفتنة الباغية)).

مکتبہ احمدیہ نمبر ۱۶۰ کے مذاہع

محمد حسنه علائي، ج ۲، ص ۲۲۳، ح ۱۵۹۸ و مص ۲۸۸، ح ۲۱۲۸ و مص ۲۹۳، ح ۲۲۰۲؛ طبقات ابن سعد، ج ۲، مص ۲۵۲ و ح ۲۵۲؛ مسند احمد: ح ۷، مص ۲۵۷، ح ۲۲۱ و ح ۱۸، مص ۲۷۴؛ روايات ابن حبيب: مص ۳۹۸؛ انساب الارشاف: ح ۱، مص ۱۶۸، ح ۳۹۸؛ مسند رک حاکم: ح ۲، مص ۲۹۹؛ بطيحة الاولى: ح ۷، مص ۲۷۴.

الحديث: ١٤٠ أخبرنا حميد بن معاذة، عن بزيده (وهواب بن زريع) قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن الحسن، عن أبيه، عن أم سلمة فقالت: لَمْ كَانْ يَوْمُ الْخَنْدِقِ وَهُوَ يَعْطِيهِمُ الْبَنِينَ وَقَدْ أَغْيَرَ شِعْرَ صَدْرِهِ قَالَتْ: فَلِمَ الْأَدْمَنْتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمَهَاجِرَةِ) قَالَتْ: وَجَاءَ عُمَارًا فَقَالَ: ((ابن سمية تقتلك الفتنة إلى عنيفة))

ام المؤمنین ام سلہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم خندق کا وہ دن کہ جب رسول اسلام ﷺ نے اپنے لوگوں کو کچھ ایشیں اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے اور آپ کے سینے کے بال گرد آ لود ہو گئے تھے میں بھول نہیں سکتی کہ آپ ﷺ فرمار ہے تھے کہ خداوند (یعنی تو آخرت کی ہی یعنی ہے پس تو ان انصار و مہاجرین کو بخشن دے)۔

ام المؤمنین اسلام مزید فرمائی ہیں کہ اتنے میں جناب عمار آگئے آپ ﷺ نے
عمار سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے سمپی کے فرزند تمھیں ایک باغی گروہ قتل کر کا۔“

الحديث: ١٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَالَدٌ بْنُ الْحَارِثَ قَالَ: حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللَّهِ] بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَسَنِ [الْبَصْرِيِّ] قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلْمَةَ: مَا نَسِيَتْ يَوْمَ الْحِدْقَةِ وَهُرِيَّاعَاطِلِهِمُ اللَّهُ وَقَدْ أَغَيَّرَ شَعْرَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمَهَاجِرِ)) وَجَاءَ عُمَارَ بْنَ حَمَّادَ فَقَالَ: ((يَا بْنَ سَمِّيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفَتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ)).

حسن الہبڑی کی ماں، ام المؤمنین ام سلمہ سے نقل کرتی ہے کہ خدا کی قسم خدا حق کا وہ دن کہ جب رسول اسلام ملکہ سلطنت لوگوں کو کچھ ایشیں اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے۔

حدیث ۱۶۰؛ مسند ابن راحمیه: ح ۳، ص ۱۱۱، ح ۷۷۸ و ح ۱۳۵، ح ۱۹۱۸؛ مصنف عبد الرزاق: ح ۱۱۰، ح ۲۲۹، ح ۲۰۳۴۶؛ طبقات ابن سعد: ح ۳، ص ۲۵۲-۲۵۳؛ مصنف ابن ابی شیبہ: ح ۱۱۰، ح ۵۲۸، ح ۲۳۷ و ح ۲۸۰؛ مسند احمد: ح ۲۲۳، ص ۲۷۶، ح ۲۶۶۸۰ و ح ۸۳، ح ۲۶۸۲؛ مسلم: ح ۳، ص ۲۲۳، ح ۲۹۱۶؛ مسند ابو علی: ح ۱۲، ص ۲۲۲، ح ۲۹۹۰ و ح ۳۵۵.

حَظَّلْقِينْ سُوِيدْ قَالْ: جَيْءَ بِرَأْسِ عَمَّارِ فَقَالْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((تَقْتِلُهُ الْفَتَنَةُ الْبَاغِيَةُ)).

خطله بن سوید کہتے ہیں جب جناب عمار کے سر کو لا یا گیا تو عبد اللہ بن عمر نے اکرمؐ نے آنحضرت ﷺ سے سنائے کہ ”عمر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔“

الحديث رقم ١٦٦: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير [بن عبد الحميد]، عن الأعمش، عن عبد الرحمن [بن زياد مولى بني هاشم]، عن

((قتل عماراً الفتنة الباغية))

عبدالله بن عمرو سے لفظ ہے کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے ہوئے سنے کہ ”عمر کو اسکا ماغی گروہ قتل کرے گا۔“

حدیث: ۱۶۷- أخبرنا عبد الله بن محمد[بن يحيى الطرسوی] قال: حدثنا
بدر معاویة[محمد بن خازم] قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الرحمن بن زیاد، عن
عبد الله بن العارث قال عبد الله بن عمرو نحوه

عبدالله بن حارث سے روایت سے کہ عبد الله بن عمر نے بھی اس طرح فرمایا۔

الحديث: ١٢٨ أخبرنا عمرو بن متصور قال: حدثنا أبو نعيم، عن سليمان [الشوري] عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن أبي زياد، عن عبدالله بن سعير قال: إني لأسألك عبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص ومعاوية فقال

دستی اولیه: ج ۱، ص ۱۹۸
متن کلی: ج ۲، ص ۳۵۲
تاریخ کمیر طبری: ج ۳، ص ۲۹
مکالمه: ج ۱۵۷

۱۷۲: یہ حدیث اس سند سے کسی اور منابع میں نہیں ملی۔

٢٣٩٩، ج ١١، هـ ٣٣؛ مسند احمد، ج ٢٥٣، هـ ٣٣؛ مسند ابن حبان، ج ٢٥٣، هـ ٣٣؛ اثاب الاعراف، ج ٢٢٥، هـ ٣٩٥.

ابوقادہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام جناب عمار کے سر سے غبار ہٹا رہے تھے اور فرماتا ہے تھے: "اے سمیہ کے فرزند! کس قدر رحمت میں پڑ گئے تمہیں ایک باغی گر، قتل کرے گا۔"

الحديث رقم ٤٢٣ أخبرنا أحمدر بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا العوام [بن حوشب]، عن الأسود بن مسعود، عن حنظلة بن خويلد قال: كنت عند معاوية فأتاه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قاتله، فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكم فناسا صار فاتأى، سمعت رسول الله (ص) يقول: (قتلة الفتنة الباغية)).

حضرت بن خویلہ ناقل ہیں کہ میں معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ آدمی عمار یا سر کے بارے میں لڑتے ہوئے معاویہ کے پاس آئے ان میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے انھیں قتل کیا ہے یہ سن کر عبد اللہ بن عمر وہ کہا تم میں سے جو چاہے دوسرا کے مقابلے میں اس قتل سے خوش ہو میں نے تو رسول اسلام میٹھا آنکھ سے سنا ہے سب کے فرزند تھیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

حديث ١٢٥ أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر
غد، قال: حدثنا شعبة، عن العوام بن حوشب، عن رجل من بني شيبان، عن

حدیث ۱۶۳: طبقات ابن سعد: ج ۲، ص ۲۵۲؛ مسند احمد: ج ۳۷، ص ۲۹۷؛ ح ۲۲۹۰۹؛ صحیح مسلم: ج ۲۲، ص ۲۲۳۵؛ طبلة الاولیاء: ج ۲۷، ص ۱۹۸؛ تاریخ بغداد: ج ۲، ص ۲۸۲ و ح ۲۷، ص ۳۳۲؛ مشن کبریٰ یزدی: ج ۸، ص ۱۸۹؛ دلائل النبوة تابعی: ج ۲، ص ۵۳۸-۵۳۹.

حدیث ۱۶۳: طبقات ابن سعد: ج ۲، ه ۲۵۳؛ مصنف ابن الی شیب: ج ۷، ه ۵۲۷؛ ح ۵۲۷
مسند احمد: ج ۱۱، ه ۹۶، ح ۱۵۲۸؛ ح ۵۲۲، ه ۵۲۲؛ طبقات ابن حجر: ج ۲، ه ۲۹۲۹؛ طبقات ابن حجر: ج ۳، ه ۳۹، ح ۱۵۵۷
انسان الشراف: ج ۲، ه ۲۲۰، ح ۳۹۲؛ تجدیب الکمال: ج ۷، ه ۳۲۷، ق ۱۵۵۹.

عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله (ص) يقول: ((قتل الفتنة الباغية عذاباً))
فقال عمرو لمعاوية: أتسمع ما يقول هذا؟ فلخده، قال: نحن قاتلاته؟ إنما قاتلته من
جاء به، لا تزال داھضاً في بولك.

عبداللہ بن حارث سے نقل ہے کہ میں عبد اللہ بن عمرو، عمرو بن عاص اور معاویہ کے بھراہ راہ طکر راتھا تھے میں عبد اللہ بن عمرو نے کہا کہ میں نے رسول خلیلہ اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنائے کہ ”عمار کو ایک با غی و مسٹگر گروہ قتل کرے گا“۔ یہ سن کر عمرو عاص نے معاویہ سے کہا سن رہے ہو شخص کیا کہہ رہا ہے؟ تو معاویہ نے عمرو اور عاص کو جھڑک کر کہا کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جو شخص (بچ صفین میں) لے کر آیا ہے تم اپنی گندی عادت سے باز نہیں آؤ گے۔

حق والاگروہ

الحديث رقم ١٢٩ أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى [بن عبد الأعلى] قال: حدثنا داود [بن أبي هند]، عن أبي نصرة [العبيدي]، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَمَرَّقَ مَارْقَةً مِنَ النَّاسِ مَسْلِيَ قُتِلُوهُمْ أَوْلَى الطَّاغُتِينَ بِالْحَقِّ).

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا مسیح علیہ السلام نے فرمایا: ایک ایسا گمراہ اور دین سے خارج گر دہ پیدا ہو گا جسے وہ شخص قتل کرے گا جو دو گروہوں میں حق پر ہے (واضح رہے کہ یہ لوگ خوارج ہیں جو ماقین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور انہیں حضرت علیؑ نے قتل کیا کہے جو حق رہتے ہیں)۔

حلب١٧٠: أخبرنا قبيط بن سعيد قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةُ الْوَضَاحُ بْنُ عَدَلَةَ [عَنْ قَادِقَةِ بْنِ دَعَامَةٍ]، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْحَرَصِ: ((كُونْ أَنْتِي فَرْقَيْنِ فَخُرُجْ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةً يَلْبِي قَنْتَاهَا أَوْ لَاهِمَا بِالْحَقِّ)).

ص ۱۴۹: صحیح مسلم: ح ۲، ح ۳۶۷، ح ۱۵۲، باب ۳۷: تذکرۃ الحفاظ: ح راء، ح ۳۷۲ ارقم ۱۳۰.

الحديث رقم ٤٣ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتبر [بن سليمان] قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نصرة، عن أبي سعيد: عن النبي ﷺ أنه ذكر ناساً في أمته يخربون في فرقة من الناس، يسيئون لهم التحقيق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم من شرار الخلق (أو هم شرّ الخلق) تقتلهم أدني الطائفين إلى الحق.

قال: وقال كلمة أخرى قلت [لرجل] يعني وبينه ما هي؟ قال: أنت قتلتهم هم يا أهل العراق.

ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے امت میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو (اختلاف کے وقت) دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے سرمنڈے ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے ان کو وہی گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ روایی کہتا ہے کہ ابوسعید نے ایک اور بات بھی کہی تھی میں نے کہا وہ کیا بات تھی؟ تو کہا اے عراق والوں تم ہی ان قتل کرو گے۔

حدث: ١٧٣ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا معاذ بن الموزع قال: حدثنا الأجلح، عن حبيب [بن أبي ثابت] أله سمع الشحاف [بن شراحيل] المشرقي يحدّثهم ومعهم سعيد بن جبير وميمون بن أبي شيبة وأبو البختري [سعيد بن فیروز] وأبو صالح [ذکوان] وذر [بن عبد الله] الهمداني والحسن [بن عبد الله] العربي:

دستاً؛ مصطفى عبد الرزاق: *حج ١٤٠٦، ص ١٥١*؛ ح ٨٢٥٨٧١؛ مسند حميدى: *حج ٢، ص ٣٣٠*، ح ٢٣٩؛
مسند الحسن: *حج ٢، ص ٢٢*؛ ح ١٨١٠ و *حج ١٤٠٦، ص ٣٠١*، ح ٩٠٢؛ صحيح مسلم: *حج ٢، ص ٣٥٧*، ح ١٣٩؛
حنفى كوفى: *حج ٢، ص ٣٢٩*، ح ٨٠٢؛ مسند رك حامى: *حج ٢، ص ١٥٣*؛ شرح السنة بخطىء: *حج ٢، ص ٣٢٩*، ح ٢٥٥٥.

ابو سعید خدراوی سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: عنقریب ہماری امت میں دو گروہ وجود میں آئیں گے ان دونوں میں سے ایک (خوارج) مار قین کا گروہ ہوگا، جو شخص اخیس قتل کرے گا وہی حق رہ ہوگا۔

الحديث: ٤١ أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى (بن سعيد)
القطان قال: حدثنا عوف [الأعراسي] قال: حدثنا أبو نصرة، عن أبي سعيد
قال: قال رسول الله (ص): ((فترق أمتي فرقان يمرق بينهما مارقة تغلبهم أولى
الطالقين بالحق)).

ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کہ یہ ریاست دو گروہوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ایک مارقین (خوارج) کا ہو گا اور ان کو وہی قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے حق پر ہو گا۔

الحديث: ٤٢ أخبرنا سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني قال: حَدَّثَنَا
بِهْرَ [بن أسد العجمي]، عن القاسم (وهو ابن الفضل) قال: حَدَّثَنَا أبو نصرة، عن أبي
سعيد. أن رسول الله (ص) قال: ((تمرق مارقة عند فرقة من الناس تقللها أولى
الطائفين بالحق)).

ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کہ جب لوگوں میں اختلاف بڑھ جائے گا تو مارقین (خوارج) نام کا ایک گروہ وجود میں آئے گا ہے ॥
گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہ میں سے حق پر ہوگا۔

أنه سمع أبا سعيد الخدري يروي عن رسول الله (ص) في قوم يخرجون من هذه الأمة، فذكر من صلاتهم وزكاتهم وصومهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز القرآن تراقيهم، يخرجون في فرق من الناس، يقاتلهم أقرب الناس إلى الحق.

حسن بن عبد الله عرفي ناقل میں کہ انہوں نے ابوسعید خدري کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے سنا کہ آنحضرت ایک قوم کا ذکر کر رہے تھے جو اس امت سے خارج ہو جائے گی اور ان کی نماز، زکات و روزہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، قرآن سے محرف ہوں گے اور قرآن ان کے لگلے کے نیچے نہ اترے گا (هر چند قرآن ان کی زبانوں پر ہوگا) یہ لوگ اختلاف مسلمین کے وقت خروج کریں گے ان کو وہی نکل کرے گا جو لوگوں میں حق سے سب سے زیادہ زدیک ہوگا.

خوارج سے حضرت علیؑ کی جنگ

حدیث: ۷۵ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسکین قراءة عليه وأنا أسمع (واللفظ له) عن عبد الله بن وهب [بن مسلم] قال: أخبروني ب Yunus [بن يزيد]، عن [محمد بن مسلم] بن شهاب قال: أخبروني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال:

بِمَا نَحْنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخَوِيْصَرَةِ (وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَعْيِمٍ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَعْدَلُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): ((وَمَنْ يَعْدُ إِذَا لَمْ يَأْعُدْ))؟

قد خبرتُ وخسرتُ إن لم أعدل)). فقال عمر: الذين لي فيه أضرب عنقه. قال: ((دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صاحبه مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقراءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مرقاً للسهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء (وهو القدر)، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفrust والمدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضة تدر در يخرجون على خير فرقة من الناس)).

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله (ص)، وأنشهد أن

حدیث ۳۷: صحیح مسلم: ج ۲، ص ۲۶۷، ح ۱۵۳؛ سنن کبریٰ ترمذی: ح ۸، ص ۴۰۷؛ دلائل نبوة ترمذی: ۱۹۰، ص ۳۲۳.

علیٰ بن ابی طالب قاتلهم و انا معه فامر بذالک الرجل فالتمس، فوجد فانی به حتی نظرت الیه علی نعت رسول الله (ص)، الذي نعمت.

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ، ہم رسول خدا ملیکهم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ تقسیم کر رہے تھے اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخوبی صہراً آیا اور کہنے لگا: اے رسول خدا! تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لجھے! اخیرت نے فرمایا: اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو بہت بڑے اقصان میں رہوں گا۔ عمر نے کہا: مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گروں اڑاؤں.

حضرت ملکیتیم نے فرمایا: نہیں اسے چھوڑ دو اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے جن کی نماز اور روزوں کے مقابلہ میں تم میں سے ہر ایک اپنی نماز اور روزے کو تجھے سمجھے گا.

یہ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے مگر قرآن کی باتیں ان کے مگلے کے بیٹے نہ اتریں گی یہ لوگ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے کل جاتا ہے اگر (تم میں سے) کوئی ان کے تیر کی نوک پر خون کا نشان ڈھونڈھے گا تو اس پر کچھ نہ ملے گا پھر اس کے پر کو دیکھے گا تو اس پر بھی کچھ نہ ملے گا پھر اگر تیر پر نظر دوڑائے گا تو اس پر بھی کچھ نہ ملے گا (یعنی وہ لوگ اپنی کوشش میں ناکام رہیں گے) ان کی پیچان یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہو گا جو یاہ رنگ ہو گا اور جس کا ایک بازو عورت کے پستان یا گوشت کے نکڑے کی طرح بلتا ہو گا.

یہ لوگ بہترین گروہ کے خلاف خروج کریں گے ابوسعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات رسول اسلام ملکیتیم کی زبانی سنی اور حضرت علی ملکیتیم نے

اس گروہ کو قتل کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اس کے بعد حضرت علی ملکیتیم نے اس سیاہ و شخص کو ملاش کرنے کا حکم دیا وہ ملاش کر کے لا یا گیا تو میں نے اس میں وہ تمام لٹایاں پائیں جو حضور ملکیتیم نے ذکر فرمائی تھیں۔

حدیث: ۷۶۱ اخیرنا محمد بن المصفر بن بہلول قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: [ابن المصفر]: وحدثنا بقية بن الوليد وذكر آخر قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو [الأوزاعي، عن الزهرى، عن أبي سلمة] [من عبد الرحمن والضحاك] [المشرقي]، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله (ص) يقسم ذات يوم قسمًا فقال ذو الحويصة أشيامي: يا رسول الله (ص) اعدل. قال: ((ويحك ومن يعدل إذ لم يعدل))؟! فقام عمر قال: يا رسول الله (ص) الذين لي حتى أضرب عنقه.

فقال له رسول الله (ص): ((لا إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، حتى أن أحدهم لينتظر إلى نصله فلا يجد شيئاً، ثم ينظر إلى رصافة فلا يجد فيه شيئاً، ثم ينظر إلى نصبه فلا يجد فيه شيئاً، ثم ينظر إلى قنادذه فلا يجد فيه شيئاً، سبق الفرات والدم، يخرجون على خير فرقه من الناس، آيتهم رجال أدعهم، واحد يديه مثل ثدي المرأة أو كالاضعة تدر در)).

قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله (ص)، وأشهد أني كتب، مع عليٰ بن ابی طالب حين قاتلهم فارسل إلى القتل فانی به علی نعت الذي نعمت رسول الله (ص).

حدیث ۷۶۱: مصنف عبد الرزاق: بح ۱۰، ج ۱۳۶، ح ۱۸۲۹۷؛ مصنف ابن أبي شيبة: بح ۱۰، ج ۱۳۶، ح ۵۵۶.

بح ۲۸۹۷؛ مصنف احمد: بح ۱۸، ج ۹۵، ح ۱۵۳۲؛ مصنف ابن أبي شيبة: بح ۱۰، ج ۱۲۵، ح ۹۷۹؛ مصنف مسلم: بح ۱۰، ج ۲۲۲.

بح ۹۳۵؛ مصنف ابن حبان: بح ۱۵، ج ۹۰، ح ۱۲۹؛ کتاب البهائم: ج ۱۷، ح ۲۲۵ و ج ۹۲۵.

مناقب خوارزمی: ج ۱۵، ج ۱۳۲، ح ۷۷۳؛ مصنف ابن مخازن: ج ۱۵، ج ۵۳، ح ۷۷۷.

نَثَانِيَانِ لَا يَمِسُّ جَوْهَرَهُمْ فَلَمَّا كَفَرُوا بِهِمْ نَذَرُوا فَرْمَائِيَّتَهُمْ .

حَدِيثٌ: ٧٧١ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَسْكِبٍ قَرَاءً - عَلَيْهِ وَآتَاهُ أَسْمَعٌ
عَنْ [عَدَالَةٍ] بْنِ وَهْبٍ [بْنِ مُسْلِمٍ] قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكِيرٍ بْنِ
الْأَشْجَاعِ، عَنْ بَشْرٍ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ الْحَرْوَرِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ
عَلَيْهِ: كَلِمَةُ حَقٍّ أَرِيدُ بِهَا بَاطِلًا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَصَفَ لِي نَاسًا، إِنِّي لَا أَعْرِفُ
مَقْتِلَهُمْ فِي هَذِلَّةِ الْأَذْيَنِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالسَّتْنِهِمْ لَا يَحْزُرُ هَذَا مِنْهُمْ (وَأَشَارَ إِلَى)
حَلْقَهُ) مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدِيهِ طَبِيعَتْ شَأْةُ أَوْ حَلْمَةُ ثَدِيدٍ.
فَلَمَّا قَاتَلُوهُمْ عَلَيْهِ قَالَ: انْظُرُوا فَنْظُرُوا فَلَمْ يَجْدُوهَا شَيْئًا فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَيْهِمُ الْمَا
كَلِبَتْ وَلَا كَذَبَتْ (مَرَّتَنِينَ أَوْ ثَلَاثَتَنِينَ) ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي سُرْبَةٍ فَأَتَوْهُمْ حَتَّىٰ وَضْعُوهُ بَيْنَ
يَدِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا حَاضِرٌ ذَالِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقُولُ عَلَيْهِ فَلَمَّا

عیداللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ جب فرقہ خوارج نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا تو وہ لوگ کہنے لگے حکومت صرف خدا کے لئے ہے یہ سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا یہ ایک کلام حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے حضور

محدثات ۲۷: مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ص ۱۵۶، ح ۸۲۷-۲۸۲؛ مصنف ابن أبي شيبة: ج ۷، ص ۹۵۹،
ج ۹۰، ص ۳۷-۴۹، ح ۹۱۹-۲۷؛ مسن احمد: ج ۷، ص ۱۸۷، ح ۱۱۱۸ وص ۳۸۶، ح ۱۲۸۵-۱۱۲۸۵
ج ۱۸، ص ۱۵۸، ح ۱۱۲۱ وص ۱۶۳، ح ۱۲۲۱ وص ۱۶۱، ح ۱۲۳۸؛ تاریخ کبیر بغدادی: ج ۸،
ص ۳۲۲، رقم ۲۲۵؛ صحیح عخاری: ج ۸، ص ۲۷، ح ۸۵۶-۲۱؛ صحیح مسلم: ج ۲، ص ۲۷، ح ۱۰۶۲-۱۰۶۳؛
سید بن صوفی: ج ۲، ص ۲۲۲، ح ۲۹۰۳ وص ۳۲۲، ح ۲۹۰۲؛ کتاب ابن القیم: ص ۲۳۵-۲۳۶، ح
۹۲۲-۹۲۳ وص ۳۲۲، ح ۹۲۵ وص ۳۲۳، ح ۹۲۹؛ شمن ابن داود: ج ۳، ص ۲۲۵، ح ۲۲۶-۲۲۷
و ج ۳، ص ۲۲۳، ح ۲۲۳-۲۲۴؛ مسن ابو الحیلی: ج ۲، ص ۳۰۹، ح ۱۱۹۳؛ مسندرک حاکم: ج ۲،
ص ۱۲۸-۱۲۹؛ مسن زید

ابوسعید خدری سے ایک اور روایت نقل ہے کہ ایک روز رسول اکرم ﷺ
چمارے درمیان کچھ تقسیم فرماء ہے تھے کہ اتنے میں ذوالخوبی صرف تمیٰ آکر کہنے والے
رسول خدا ملکیتِ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لبھجے تو حضرت مسیح دین نے فرمایا: تمیرا بہاگر میں
انصاف نہ کروں گا تو کون انصاف کرے گا پس عمر نے کہایا رسول اللہ اگر اجازت
دوس تو اس کی گردان اڑا دوں۔

حضرت مسیح امیر ائمہ نے فرمایا: نہیں اسے چھوڑ دو اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے جن کی نماز اور روزوں کے مقابلہ میں تم میں سے ہر ایک اپنی نماز اور روزے کو تحریک کرے گا۔

یہ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے مگر قرآن کی باتیں ان کے لگے کے نئے نہ اتریں گی یہ لوگ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تم کمان سے کل جاتا ہے اگر (تم میں سے) کوئی ان کے تیر کی نوک پر خون کا نشان ڈھونڈھے گا تو اس پر کچھ نہ ملے گا پھر اس کے پر کو دیکھے گا تو اس پر بھی کچھ نہ ملے گا پھر تیر پر نظر دوزائے گا مگر اس پر بھی کچھ نہ ملے گا (یعنی وہ لوگ اپنی کوشش میں ناکام رہیں گے) ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہو گا جو سیاہ رنگ ہو گا اور جس کا ایک بازو ہمورت کے پستان ہاگوشت کے نکلوے کی طرح ملتا ہو گا۔

یہ لوگ بہترین گروہ کے خلاف خروج کریں گے ابوسعید کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے یہ بات رسول اسلام ﷺ کی زبانی سنی اور حضرت علیؓ نے اس گروہ کو قتل کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اس کے بعد حضرت علیؓ نے اس سامان روشنک کو تلاش کرنے کا حکم دیا وہ تلاش کر کے لا یا گیا تو میں نے اس میں وہ تمام

نے مجھے کچھ لوگوں کی پیچاں بتائی ہے اور بیشک میں وہ صفتیں ان لوگوں میں دیکھ رہا ہوں جو اپنی زبان پر یہ کلر حق جاری کر رہے ہیں۔

پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے طلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: لیکن یہ حق ان کے یہاں سے نیچے نہیں اترتا ہے لوگ خدا کے نزدیک بدترین اور مبہوس ترین مخلوق ہیں ان میں ایک سیاہ رنگ کا شخص ہے جس کا ایک بازو بکری کے ٹھنڈی یا گورت کے سیدہ جیسا ہے۔

جب حضرت علی علیہ السلام نے ان سے جنگ کر کے انھیں قتل کر دیا تو اس شخص کو علاش کرنے کا حکم دیا گیروہ علاش کے باوجود ملا تو آپ نے فرمایا: جاؤ دوبارہ جاؤ علاش کرو خدا کی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں اور نہ مجھ سے کوئی جھوٹی بات کہی گئی ہے اور آپ نے یہ بات دو یا تین مرتبہ کہی: پھر لوگ گئے اور اس کو ایک خراب (ویران زمین) سے ڈھونڈ کر لائے اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا عبد اللہ کہتے ہیں: کہ میں وہاں موجود تھا اور اس حکم اور حضرت علی علیہ السلام کے قول کی صداقت دیکھ رہا تھا۔

حدیث: ۱۷۸: أخبرنا أحمدي بن سليمان [الرهاوي] والقاسم بن زكرياء قالا: حدثنا عبد الله [بن موسى]، عن إسرائيل [بن يونس]، عن [جده] أبي إسحاق، عن سويدين غفلة، عن علي قال: قال رسول الله (ص): ((يخرج قوم من آخر الزمان يفرون من القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فتاتهم حق على كل مسلم)).

رسول الله، سمعت رسول الله (ص) يقول:

حدیث ۱۷۸: صحیح مسلم: ج ۲، ص ۳۲۹، ح ۱۰۸۶، فضائل احمد: ج ۱۰، ج ۱۵۷، ح ۱۸۶۷، من محدث: ج ۲، ج ۳۲۹، ح ۱۰۸۶، ح ۱۱۹۸، فضائل احمد: ج ۱۰، ح ۲۷۶۷، صحیح مسلم: ج ۲، ص ۳۶۷، ح ۱۰۴۹، سنن ابن ماجہ: ج ۲، ج ۲۲۲، ح ۲۷۶۷، صحیح ابن حبان: ج ۱۵، ج ۱۳۶، ح ۲۷۳۹، صحیح سیفی طبرانی: ج ۲، ج ۱۰۰، ح ۱۰۳۹، مناقب کوفی: ج ۲، ج ۳۳۰، ح ۸۰۲، مناقب ابن مخارقی: ج ۲، ج ۵، ح ۸۱، سنن کبریٰ تیمیل: ج ۸، ج ۱۷۱،

((يخرج قوم أحداث الأنسان، سفهاء الأحلام، يمرقون من حير قول البرية، لا يتجاوز إيمانهم حاجتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم فاقتلمهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيمة)).
سوید بن غفلة سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنائے کہ آپ علیہ السلام فرمادی ہے تھے کہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ تم سے کہوں تو جان لو کہ یہ جنگ فریب اور دھوکا ہے۔

اور اگر رسول اکرم علیہ السلام کی طرف سے کچھ کہوں تو جان لو کہ مجھے آسان سے گمرا منظور ہے مگر آنحضرت علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا قبول نہیں ہے میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنائے کہ "ایک قوم پیدا ہوگی جو کم عمر اور یقوق و ہوگی وہ لوگ روے زمین پر بہترین سے بہترین باتیں کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے لگے سے نیچے نہ اترے گا وہ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ تحسیں مل جائیں تو ان کو قتل کر دیں اس لئے کہ روز قیامت ان کے قتل کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔"

حدیث: ۱۷۹: أخبرنا أحمدي بن سليمان [الرهاوي] والقاسم بن زكرياء قالا: حدثنا عبد الله [بن موسى]، عن إسرائيل [بن يونس]، عن [جده] أبي إسحاق، عن سويدين غفلة، عن علي قال: قال رسول الله (ص): إذا حدثكم عن نفسی فلان الحرب خدعة فإذا حدثكم عن رسول الله (ص) فلان اخر من النساء احب الى من ان اكذب على رسول الله، سمعت رسول الله (ص) يقول:

حدیث ۱۷۸: مند طیلی: ج ۱۹۸، ح ۲۲۶، مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ج ۱۵۷، ح ۱۸۶۷، من محدث: ج ۲، ج ۳۲۹، ح ۱۰۸۶، فضائل احمد: ج ۱۰، ح ۲۷۶۷، صحیح مسلم: ج ۲، ص ۳۶۷، ح ۱۰۴۹، سنن ابن ماجہ: ج ۲، ج ۲۲۲، ح ۲۷۶۷، صحیح ابن حبان: ج ۱۵، ج ۱۳۶، ح ۲۷۳۹، صحیح سیفی طبرانی: ج ۲، ج ۱۰۰، ح ۱۰۳۹، مناقب کوفی: ج ۲، ج ۳۳۰، ح ۸۰۲، مناقب ابن مخارقی: ج ۲، ج ۵، ح ۸۱، سنن کبریٰ تیمیل: ج ۸، ج ۱۷۱،

الله من الرمية، سيمأهـ أنـ فيـهم رـجـلـاً أـسـودـ مـخـدـجـ الـهـ، فـيـ يـدـهـ شـعـراتـ
سودـ، إـنـ كـانـ هوـ قـدـ قـتـلـتـ شـرـ النـاسـ، وـإـنـ لمـ يـكـنـ هوـ قـدـ قـتـلـتـ حـيـرـ النـاسـ.
وـيـكـيـانـمـ قـالـ: اـطـلـبـاـ، فـلـطـلـبـاـ فـوـجـدـنـاـ المـخـدـجـ فـخـرـنـاـ سـجـوـدـاـ وـخـرـ مـعـنـاـ سـاجـداـ
فـيـ اللهـ قـالـ: يـكـلـمـونـ بـكـلـمـةـ الـحـقـ.

طارق بن زیاد سے روایت ہے کہ ہم لوگ امام علیؑ کے ہمراہ خارج سے بیکرنے کے لئے نکلے تو امام علیؑ نے ان کو قتل کرنے کے بعد فرمایا: دیکھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ: عقریب ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو حق کی باتیں تو کریں گے مگر حق ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا یہ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔

ان کی پیچان یہ ہوگی کہ ان میں ایک سیاہ رنگ کا شخص ہوگا جس کا باتھنا قص ہوگا
ال کے باتھ پر سیاہ رنگ کے بال ہوں گے اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو جان لو کر تم نے
ظلق خدا میں بدترین شخص کو قتل کر دیا اور اگر وہ ان میں نہ ہو تو جان لو کر تم نے بہترین
حقوق کو قتل کیا ہے یہ سن کر ہم لوگ رونے لگے اس کے بعد امام علیؑ نے ہمیں اس
کے تلاش کرنے کا حکم دیا جب ہم اسے ڈھونڈ کر لائے تو ہم سب امام علیؑ کے ہمراہ
جگہ میں گردپڑے امام علیؑ کہتے جاتے تھے کہ یہ لوگ تحقیق کی باتیں کرتے تھے؟!

الحديث رقم ١٨٢ أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو بليج يحيى بن سليم بن بليج قال: أخبرني أبي سليم بن بليج أنه كان مع علي في النهروان قال: كنت قبل ذلك أصرخ رجلا على يده شئ فقلت: ما شأن يدك؟ قال: أكلها يعبر فلما

١٤٢٣: مسند احمد: ح ٢٧، م ٢٠٩، ح ٨٣٨ و م ٣١٠، ح ١٢٥٥؛ فضائل احمد: م ١٢٧، ح ١٤٢٣؛ انساب الاعراف: م ٢٨٣، ح ٣٦٧.

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ: اخْرِي می زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہوں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کان سے نکل جاتا ہے اُن کو قتل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

١٨٠ أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو كريب [محمدبن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف [بن إسحاق بن أبي إسحاق]، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس الأودي، عن سعيدبن غفلة، عن علي، عن النبي (ص) قال: (يخرج في آخر الزمان قوم يقرءون القرآن لا يجائز ترافقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فتالهم حق على كل مسلم، سماهم [التحلّق]).

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کہ آخری زمان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہوں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے ان کو قتل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے سرمند ہوئے ہوں گے۔

الحديث: ١٨١ أخبرنا أحمدين بكار الحراني قال: حدثنا مخلد [بن يزيد]
قال: حدثنا إسرائيل [بن يونس]، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن طارق بن زياد
قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم، ثم قال: انظروا فإنّ نبی الله (ص) قال: إله
سيخرج قوم يتكلّمون بالحقّ لا يجاوز حلوّهم، يخرّجون من الحقّ كما يخرجون

^٩ محدثون: مسلم، حديث رقم ٢٥٢، صحيح البخاري، حديث رقم ١٣٣٦، صحيح مسلم، حديث رقم ٢٧٤، صحيح مسلم، حديث رقم ٩١١.

جه سیزدهم: کاٹل ایبن عدیدی: ج ۱، ج ۲۲: کشف لا ستار: ج ۲، ج ۳۶۳، ح ۱۸۵۸.

کان یوم النہروان وقتل علی الحروریة، فجزع علی من قتلهم حسین لم یعدنی الشدی فطاف حتی وجدہ فی ساقیہ فقال: صدق الله وبلغ رسوله وقال: فی منکہ ثلاث شعرات مثل حلمة الشدی.

ابویسم بن بیانؑ سے روایت ہے کہ وہ امام علیؑ کے ساتھ جنگ نہروان میں تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ سے پہلے ایک شخص سے کشتی لڑا کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ ہاتھ کیسا ہے؟ اس نے کہا: اسے اونٹ نے چبایا ہے اور جب نہروان کے روز امام علیؑ نے ختن جنگ کی تو اس کے بعد آپ اس "ذوالہدی" کو قتل ہونے والوں میں ڈھونڈنے لگے مگر جب وہ سلطان تو آپ نے چکر لگانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک نشیب میں ملا یہ دیکھ کر آپؑ نے فرمایا کہ خدا نے حق فرمایا اور اس کے رسول نے بھی خردی اور فرمایا تھا کہ اس کے بازو پر پستان کے سرے کی طرح تین بال ہوں گے۔

خوارج کی پہچان

حدیث: ۱۸۳ اخبرنا علی بن المندرق قال: أخبرنا [محمد] بن فضیل قال: حدثنا عاصم بن كلیب [بن شہاب] الجرمی، عن أبيه قال: كنت عدد على جالساً إذ دخل رجل عليه ثياب السفر، قال: وعلى يكلم الناس و يكلمونه، فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلّم؟ فلم يلتفت إليه و شغله ما هو فيه، فجعلت إلى الرجل فسألته: ما حبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت لي: هؤلاء القوم الذين خرجوا في أرضكم يسمون حروزية؟ قلت: خرجوا في موضع يسمى حروزاء فسوابذلک. فقالت: طوبى لمن شهد هلكتهم، لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم، قال: فجئت أأسأه عن خبرهم، فلما فرغ علي قال: أين المستاذن؟ فقصص عليه كما قصص علينا، قال [علي]:

لی دخلت علی رسول الله (ص) و لیس عنده أحد غیر عائشة أم المؤمنین فقال لها: ((كيف أنت يا علي و قوم كذا وكذا))؟ قالت: الله و رسوله أعلم. وقال ثم أشار بيده فقال: ((قوم يخرجون من المشرق يقراءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجال مخدج كانوا يده ثدی)). أنسدكم بالله أخبرتكم بهم؟ قالوا: نعم. قال: انشدكم بالله

حدیث ۱۸۲: یہ حدیث اس سند کے ساتھ کسی دوسرے مأخذ میں نہیں مل سکی۔

سوائے ام المؤمنین عائشہ کے کوئی اور تھا اس وقت حضور ﷺ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: "اے علیؑ! اس طرح کی قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے پھر آنحضرتؐ نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے ایسے ہوں گے،" میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں آنحضرتؐ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

"کچھ لوگ مشرق سے لفٹیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہوں گے مگر قرآن ان کے گلے کے نیچے نہ اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان میں ایک ناقص شخص ہو گا جس کا ہاتھ عورت کے پستان جیسا ہو گا پھر حضرت علیؑ نے لوگوں سے کہا، میں تم لوگوں سے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ میں نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا؟"

سب نے کہا: جی ہاں پھر آپؑ نے کہا تمیں قسم ہے بتاؤ میں نے تمیں بتا یا ہے کہ وہ شخص ان میں ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس کے بعد تم لوگ آئے اور کہنے لگے کہ وہ شخص ان میں نہیں ہے تو میں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ شخص انھیں میں ہے اس کے بعد تم لوگ اس کو کھینچتے ہوئے لائے تھے اور اس میں وہ صفتیں تمیں جو میں نے تمیں بتائی تھیں۔

سب نے کہا: جی ہاں، آپؑ نے فرمایا خدا اور اس کے رسول ﷺ کا فرمان چجھے ہے۔

بیان: ۸۳: مندرجہ: ج ۲، ص ۳۷۰، ح ۱۳۷۹۔ ۱۳۷۸: فضائل احمد: ص ۱۲۷، ح ۱۲۲۳؛ کتاب الرستہ: ص ۲۲۸، ح ۹۶۱۳، ص ۵۸۵، ح ۱۳۷۴؛ مندرجہ: ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۹۸۷، ص ۳۶۱، ح ۱۳۷۲؛ محقق کوئی: ج ۲، ص ۳۲۵، ح ۹۸۷، ص ۳۶۱، ح ۱۳۷۲؛ ولیل الدین: ج ۲، ص ۳۲۲، ح ۱۳۷۲؛

اخبر تکمیلی فیض: قالت: نعم۔ قال فاتیح متنی فیض: اخبار تمویلی ائمہ لبس فیض فحلفت لكم بالله ائمہ فیض فاتیح متنی به تجرونہ کمانعت لكم؟ قالوا: نعم۔ قال: صدق الله ورسوله۔

کلیب بن شہاب نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں امام علیؑ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور آپؑ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص لباس سفر پہنے ہوئے آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین ﷺ کیا مجھے بھی بونے کی اجازت ہے؟ لیکن آپؑ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح گفتگو میں مشغول رہے میں اس شخص کے نزدیک بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا: کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں عمرہ پر گیا تھا وہاں عائشہ سے ملاقات ہوئی انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری سرزی میں پر جو گردہ پیدا ہوا ہے وہ لوگ اپنے کو حرمہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ لوگ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں کا نام حرمہ راء ہے اس لئے وہ لوگ اپنے کو حرمہ دیں کہتے ہیں۔

یہ سن کر انھوں (عائشہ) نے فرمایا: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جوان کی ہلاکت کا مشاہدہ کرے اگر ابوطالبؓ کے فرزند (حضرت علیؑ) چاہیں گے تو تمیں ان کے بارے میں بتائیں گے، میں یہاں آیا ہوں تاکہ امام علیؑ سے ان کے بارے میں کچھ دریافت کروں غرض کہ جب امام علیؑ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ وہ اجازت لینے والا شخص کہاں ہے؟ اس شخص نے جو کچھ کہا انہیں سنائی تھی امام علیؑ سے بھی بیان کر دی۔

امام علیؑ نے فرمایا: میں رسول اسلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں

اصحاب علي اثني عشر رجلاً او ثلاثة عشر رجلاً،
فقال علي: **السموا المخدج**. وذاك في يوم شات فقالوا: ما نقدر
عليه فركب على بغلة النبي (ص) الشباء فاتي وهذه من الأرض فقال:
السموه في هؤلاء. فاخرج فقال: ما كذبت ولا كذبت. فقال: اعلموا ولا
تكلوا، لولا ابني أخاف أن تتكلوا وأخبرتكم بما قضى الله لكم على
لسانه (يعنى النبي (ص)) ولقد شهدنا ناس باليمن. قالوا: كيف يا
أمير المؤمنين؟ قال: كان هو اهم معنا.

زید بن وہب کہتے ہیں: کہ امام علیؑ نے دیز جان کے پل پر ہم لوگوں سے چاٹپ ہو کر فرمایا: مجھے خبر دی گئی ہے کہ مشرق سے ایک گروہ خود رج کرے گا اور ان میں ذو اللہ یہ یعنی پستان والا شخص ہو گا تم کو ان سے جنگ کرنی چاہئے۔ یہ سن کر خوارج آپس میں کہنے لگے کہ ان سے بات نہ کرو اس لئے کہ وہ حربو راء کے دن کی طرح تمہیں جنگ سے منصرف کر دیں گے۔ اتنے میں یہ لوگ تیر اندازی کے لئے الگ الگ ہو کر پھیل گئے اور جنگ کا بازار گرم ہو گیا۔

امام علیؑ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ ان کے شانوں اور نیزوں کو قطع کر دو اس جنگ میں امام علیؑ کے ساتھیوں میں بارہ یا تیرہ افراد شہید ہو گئے اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس ناقص ہاتھ و اے شخص کو ڈھونڈنا اور وہ زمانہ سردیوں کا خالیہ الدوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے تو امام علیؑ خود حضور ﷺ کے رکب (شیباء) پر سوار ہو کر ایک نشیب کی طرف تشریف لائے اور فرمایا:

امیں لاشوں میں اسے تلاش کرو تو وہ ان لاشوں کے نیچے سے نکالا گیا اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا: کہ آج تک نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی جھٹلایا کیا ہوں، پھر زیادا تم کو عمل کرنا چاہئے نہ کہ قسم پر بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہئے اگر مجھے تم لوگوں

الحديث رقم ١٨٣: أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية [محمد بن خازم]، عن الأعمش، عن زيد، (وهو ابن وهب) عن علي بن أبي طالب قال: لما كان يوم النهروان لقي الحوارج فلم ير حواجى شجروا بالرماح فقتلوا أحجمها، قال علي: اطلبوا اذا شدبة. فطلبوه [فلم يجدوه، فقال علي: ما كذبت ولا كذبت، اطلبوه. فطلبوه] فوجدوه في وهذه من الأرض عليه ناس من القطي [إذا رجل على يده مثل سلات السنور، فلما رأى الناس، وأعجبهم ذالك.

زید بن وہب سے روایت ہے کہ امام علیؑ نے فرمایا: نہروان کے دن جب خوارج سے مقابلہ ہوا اور وہ ہٹائے نہ ہے جب تک کہ ان پر تمدن بر سارے گئے تھے یہ ہوا کہ سب کے قتل کردئے گئے حضرت علیؑ نے ذوالثہ یہ کو تلاش کرنے کے لئے کہا تو لوگوں نے تلاش کیا مگر اسے نہ پایا پھر امام علیؑ نے فرمایا: خدا کی حرم میں آن تک جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھ سے کوئی جھوٹ بات کہی گئی ہے۔ وہ ان ہی لوگوں میں ہے، اسے ڈھونڈو۔ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کو ایک گڑھے میں پکھ لاشوں کے نیچے دبا ہوا پایا اس کے ہاتھ پر بلی کی موچھہ کی طرح بال تھے تو لوگوں نے امام علیؑ کے ساتھ بھیسر کیا اور سب کو اس بات پر تعجب ہوا۔

١٨٥: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمتين كهيل، عن زيد بن وهب قال: خطبنا عليّ بقسطنطينة الدبيز فقال: إنّه قد ذكر لي خارجة تخرج من قيل المشرق وفيهم ذو الشدية، فقاتلهم، فقالت الحرورية بعضهم لبعض: لا تتكلّموا في ردكم لكماردكم يوم حرب راء، فلما شجّر بعضهم بعضًا بالرماح فقال رجل من أصحاب عليّ: أقطعوا العوالي. (والعلّي: الرماح) فداروا واستداروا، وقتل من

کے سلسلہ میں یہ ڈرتہ ہوتا کہ تم قسمت پر تکمیل کر کے بینجھ جاؤ گے تو تحسین وہ سب احکام بتادیتا جو خدا نے تمہارے لئے اپنے بنی گی زبان سے جاری کئے ہیں، لیکن کے لوگ بھی ہمارے درمیان ہیں، لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا: ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں۔

حدیث ۱۸۶: أخیرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرزاق [بن همام] قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا زيد بن وهب: أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الدين ساروا إلى الحوارج، فقال علي: أيها الناس! إنني سمعت رسول الله (ص) يقول: ((سحرج قوم من أمتي يقرءون القرآن، ليس قراءة تكميل القراءة بشيء ولا صلاة تكميل الصلاة بشيء، ولا صائمكم إلى صيامهم بشيء، يقرءون القرآن يعسون الله لهم وهو عليهم، لا تجاوز صائمهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)، لو يعلم الجيش الذين يصيرون لهم ما قضى لهم على لسان نبيهم (ص) لا تكلوا عن العمل، وأية ذلك أن فيهم رجالاً له عصدة ولست أنا ذراعاً، على رأس عصده مثل حلمة ثدي المرأة، عليه شعرات بيضاء، [فألهعنون إلى معاوية وأهل الشام، وتركتون هؤلاء يعلقونكم في دراريكم وأموالكم!] والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القروم فأنتم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح النساء، فسيروا على اسم الله.

قال سلمة: فنزلني مزيد منزلة حتى مررت على قطرة [فلما التقينا على الحوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: القوارم أحواش سلموساوفكم من جفونها، فإني أخاف أن ينادوكم كما نادوكم يوم حرر راء]. قال: [فلدوا السيف والقوافل جفونها، وشجرهن النساء] (يعني برمائهم) فقتل بعضهم على

بعض، وما أصيـب من النـاس بـوـمـتـدـ إلا رـجـلـانـ. قالـ عـلـيـ: التـصـوـيـهـمـ المـخـدـجـ. فـلـمـ بـجـدـوهـ، فـقـامـ عـلـيـ بـنـفـسـهـ حتـىـ أـنـيـ أـنـاسـأـقـلـ بـعـضـهـمـ عـلـىـ بـعـضـ. قالـ جـرـدوـهـ، وـجـدـوـهـ مـعـاـيـلـيـ الـأـرـضـ فـكـتـرـ عـلـيـ وـقـالـ صـدـقـ اللـهـ وـبـلـغـ رـسـوـلـ(صـ).

فـقـامـ إـلـيـ عـبـيـدـةـ السـلـمـانـيـ فـقـالـ: يـاـ أـمـيـ الرـمـمـيـنـ. اللـهـ الـذـيـ لـاـ إـلـهـ إـلـاـ هـوـ سـعـتـ هـذـاـ الـحـدـيـثـ مـنـ رـسـوـلـ اللـهـ(صـ). قالـ: يـاـ وـالـلـهـ الـذـيـ الـلـيـ إـلـاـ هـوـ لـسـعـتـ

مـنـ رـسـوـلـ اللـهـ(صـ). حتـىـ اـسـتـحـلـفـ ثـلـاثـاـ وـهـوـ يـحـلـفـ لـهـ

زـيـدـ بـنـ وـهـبـ كـبـيـتـهـ ہـیـںـ: كـمـ مـیـںـ اـمـامـ عـلـیـ صلی اللہ علیہ وسلم کـیـ اـسـ فـوـجـ مـیـںـ تـحـاـجـوـ خـوـارـجـ سـےـ جـنـگـ کـرـنـےـ کـےـ لـئـےـ جـارـیـ تـحـیـ اـسـ وـقـتـ حـضـرـتـ عـلـیـ صلی اللہ علیہ وسلم نـےـ فـرمـاـیـ: اـےـ لوـگـ! مـیـںـ نـےـ رـسـوـلـ

شـدـاـ مـنـ صلی اللہ علیہ وسلم کـوـ فـرـمـاتـےـ ہـوـئـےـ نـاـہـےـ "كـعـنـ قـرـبـ مـيـرـيـ اـمـتـ مـیـںـ سـےـ اـیـکـ اـیـساـ گـروـہـ

لـئـکـہـ گـاـجـ قـرـآنـ اـسـ طـرـحـ پـڑـھـ رـہـ ہـےـ ہـوـںـ گـےـ کـمـ تـحـارـیـ قـرـائـتـ اـنـ کـیـ قـرـائـتـ کـےـ مـقـابـلـہـ

مـیـںـ پـکـھـنـہـ، وـوـگـیـ اـورـنـتـیـ تـحـارـیـ نـماـزـ اـوـرـ رـوـزـوـںـ کـےـ مـقـابـلـہـ مـیـںـ کـچـھـ

ہـوـںـ گـےـ وـہـ قـرـآنـ کـیـ تـلـاوـتـ اـسـ مـگـانـ سـےـ کـرـیـسـ گـےـ کـہـ وـہـ اـنـ کـےـ فـانـدـہـ مـیـںـ ہـےـ

جـبـ کـہـ وـہـ اـنـ کـےـ ضـرـرـ مـیـںـ ہـوـگـاـ، اـنـ کـیـ نـماـزـ یـہـ اـنـ کـےـ گـلـ کـےـ نـیـچـےـ نـاـتـرـیـسـ گـیـ وـہـ

اـسـ اـلـامـ سـےـ اـسـ طـرـحـ باـہـرـ نـکـلـ جـائـیـںـ گـےـ جـسـ طـرـحـ تـیرـ کـمانـ سـےـ نـکـلـ جـاتـاـ ہـےـ۔

وـہـ فـوـجـ وـالـےـ جـوـانـ سـےـ لـڑـیـںـ گـےـ اـگـرـ خـصـ مـعـلـومـ ہـوـ جـائـےـ کـہـ رـسـوـلـ اـلـلـهـ صلی اللہ علیہ وسلم

کـیـ اـرـبـانـ اـنـ کـےـ بـارـےـ مـیـںـ کـیـاـ طـےـ ہـوـاـہـ توـیـہـ لوـگـ (فـوـجـ وـالـےـ) عـلـیـ عـلـیـ کـوـ چـھـوـڑـ کـرـ قـسـتـ

پـاـہـرـوـرـ کـرـکـےـ بـینـجـھـ جـائـیـںـ گـےـ اـسـ گـرـوـہـ کـیـ نـشـانـیـ یـہـ ہـےـ کـہـ اـنـ مـیـںـ اـیـکـ خـصـ اـیـساـ ہـوـگـاـ

جـسـ کـاـ تـحـکـمـ کـہـنـیـوـںـ سـےـ نـہـ ہـوـگـاـ اـوـ اـسـ کـاـ باـزـ وـعـورـتوـںـ کـےـ پـتـانـ کـےـ سـرـےـ کـیـ طـرـحـ ہـوـگـاـ

جـسـ پـرـ کـچـھـ سـفـیدـ بـالـ ہـوـںـ گـےـ۔

جـبـ تـمـ لوـگـ مـعـاوـيـهـ اـوـ شـامـ وـالـوـںـ سـےـ لـڑـنـ ہـوـ گـےـ اـوـ انـ لوـگـوـںـ کـوـ چـھـوـڑـ

لوـگـ توـیـہـ لوـگـ ہـمارـےـ جـاتـےـ ہـیـ تـحـارـاـےـ گـھـرـوـاـلوـںـ اـوـ تـحـارـاـےـ اـموـالـ رـیـحـلـ کـرـسـ

گے خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ لوگ بے گناہوں کا خون بھائیں گے اور لوگوں کے اموال کو غارت کریں گے پس اللہ کا نام لے کر نکلو۔

سلکتے ہیں کہ زید نے مجھے پل سے گزار کر ایک جگہ چھوڑ دیا اور دیکھا کہ خوارج کے سردار عبد اللہ بن وہب را بھی نے اپنی فوج سے تیر اندازی اور شمشیر زدن کے لئے کہا، اور کہا کہ مجھے ذر ہے کہ کہیں تمہیں حرواء کے دن کی طرح قسم نہ دلائے ان لوگوں (خوارج) نے تیر اندازی اور شمشیر زدنی شروع کر دی اور لوگوں (حضرت ملکر) نے تیروں کے ذریعہ ان کو منشر کر دیا اور قتل کر کے کشتوں کے پیٹے کا دنے مگر ہم لوگوں میں سوائے دشمن کے کسی کو آسیب نہ پہنچا اور صرف دو ادمی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علیؓ نے اس ناقص ہاتھ دالے کو حلاش کرنے کے لئے کہا مگر وہ نہ ملتا تو حضرت علیؓ خود نکل اور ایک جگہ آئے جہاں لاشوں پر لائے پڑے ہوئے تھے اسے زمین پر لاشوں کے پیچے پایا۔ اسے دیکھتے ہی امام نے تھکیر کا فرمادیں کیا اور فرمایا خدا نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچی خبر دی تھی اتنے میں عبیدہ سلمانی کھڑے ہوئے اور پوچھا اے امیر المؤمنینؑ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معمود نہیں کیا آپ نے یہ حدیث رسول خدا شیختم کی زبانی خود سنی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے یہ حدیث حضورؐ سے سنی ہے عبیدہ نے تین مرتبہ قسم دلائی اور آپؑ نے قسم کھائی۔

حدیث ۱۸۶: مصنف عبد الرزاق: ج ۱، ص ۱۲۷، ح ۱۸۶۵۳۔ حدیث ۱۸۷: مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ص ۱۲۹، ح ۱۸۶۵۲۔ حدیث ۱۸۸: مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ص ۱۲۶، ح ۱۸۶۵۰۔ حدیث ۱۸۹: مصنف عبد الرحمن بن حميد: ج ۲۸، ص ۲۷، ح ۱۰۶۶۔ حدیث ۱۹۰: مصنف عبد الرحمن بن حميد: ج ۲۸، ص ۲۷، ح ۱۰۶۷۔ حدیث ۱۹۱: مصنف عبد الرحمن بن حميد: ج ۲۸، ص ۲۷، ح ۱۰۶۸۔ حدیث ۱۹۲: مصنف عبد الرحمن بن حميد: ج ۲۸، ص ۲۷، ح ۱۰۶۹۔ حدیث ۱۹۳: مصنف عبد الرحمن بن حميد: ج ۲۸، ص ۲۷، ح ۱۰۶۱۔

حدیث: ۱۸۷: اخیرنا قبیۃ بن سعید قال: حدثنا محمد بن إبراهیم [بن] ابی عدی، عن عبد الله [بن] عون، عن محمد [بن سیرین]، عن عبیدة السلمانی (قال: قال علی: لولا أن تبظروا لأنياتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد (ص). فقلت: أنت سمعته من رسول الله (ص)؟ قال: إِنَّ رَبَّ الْكَوْنَى إِنَّ رَبَّ الْكَوْنَى إِنَّ رَبَّ الْكَوْنَى إِنَّ رَبَّ الْكَوْنَى)

عبدیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ فخر کرنے لگو گے تو میں تمہیں ان (خوارج) کے قتل کرنے کا وہ ٹواب اور وعدہ الہی بتاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ شیختم نے اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپؑ نے اس حدیث کو رسول اسلام شیختم سے سنائے؟ آپؑ نے فرمایا: ہاں کعبہ کے رب کی قسم ہاں کعبہ کے رب کی قسم ہاں کعبہ کے رب کی قسم۔

حدیث: ۱۸۸: اخیرنا إسماعیل بن معروف قال: حدثنا المعترب بن سليمان، عن عوف [بن أبي جمیله الأعرابي] قال: حدثنا محمد بن سیرین قال: قال عبیدة السلمانی: لما كان حيث أصبب أصحاب النهر قال علی: ابتغوا فیهم، فإنهم إن كانوا هم القوم الذين ذكرهم رسول الله (ص)، فلان فيهم رجال مخدج اليـد (او مثدون اليـد او مؤدون اليـد) فابتغـاهـا فـدـلـلـنـاهـ عـلـيـهـ فـلـلـاـهـ رـآـهـ قال: الله أكـبـرـ، الله أكـبـرـ الله أكـبـرـ. قال: والله لـوـلـاـ أنـ تـبـطـرـوـ (أـنـ ذـكـرـ كـلـمـةـ مـعـنـاـهـاـ) لـحـدـثـكـمـ بـمـاـقـضـيـ اللهـ [عـزـ وـجـلـ] عـلـىـ لـاسـ نـبـيـهـ [صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـآـلـهـ وـسـلـمـ] لـمـنـ ولـىـ قـتـلـ هـوـلـاـ. قـلتـ: أـنـ سـمـعـتـ مـنـ رـسـوـلـ اللهـ (صـ)؟ قـالـ: إـنـ رـبـ الـكـوـنـىـ إـنـ رـبـ الـكـوـنـىـ إـنـ رـبـ الـكـوـنـىـ

حدیث ۱۸۷: مسنطی اسی: ج ۲۲، ح ۱۹۶، مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ص ۱۲۹، ح ۱۸۶۵۳۔
مسند احمد: ج ۲، ص ۲۸۱، ح ۹۸۲، فضائل احمد: ج ۱۱۳، ح ۹۸۲، صحیح مسلم: ج ۱۲، ص ۲۷۲، ح ۱۵۵۰ (۱۵۵۱)
كتاب الزکۃ) کتاب السن: ج ۲۲۸، ح ۹۱۲، مسن ابی راود: ج ۲۲۸، ص ۲۲۲، ح ۲۷۳، مسن ابو علی:
شاء، ج ۲۸۱، ح ۳۳۷؛ مناقب ابن مغازی: ج ۵۶، ح ۸۰؛ مناقب خوارزمی: ج ۲۶۲، ح ۲۷۵.

خوارج کی پہچان

چھوڑ دو گے تو میں تھیں وہ ثواب بتاتا ہے خدا نے اپنے نبی ﷺ کی زبانی ان کے پہل کے لئے طے فرمایا ہے۔ ایسا قاتل جو ان کی حالات سے آگاہ اور اس بدایتے واقف ہے جس پر ہم ہیں۔

عبدہ سلمانی سے روایت ہے کہ جب نہروان والوں (خوارج) سے جنگ ہو
بچک تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا: کہ ان میں اس شخص کو حلاش کرو جو ناقص الہد (یا
چھپوئے ہاتھ والا) ہے اگر یہ گردہ وہی ہوگا جس کی خبر آنحضرت نے مجھے دی ہے تو وہ
شخص ان میں ضرور ہوگا ہم لوگ ڈھونڈنے نکلے اور جب وہ مل گیا تو امام علی علیہ السلام کے
پاس لے آئے، امام علی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر تین مرتبہ اللہ اکبر کا نفرہ لگایا اور فرمایا: خدا کی
تم اگر مجھے تمہارے فخر کا خیال نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو ان کے قاتل کے ٹوپ بے
بارے میں وہ فیصلہ نہ تا جو اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی زبانی طے فرمایا تھا۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا: کیا آپ نے خود اس حدیث کو رسول اکرم ﷺ سے
سنا ہے؟ آپ نے تین بار قسم کھا کر اقرار فرمایا۔

الحديث رقم ١٨٩ أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا أبو مالك عمرو (وهو ابن هاشم)، عن إسماعيل (وهو ابن أبي خالد) قال: أخبرني عمرو بن قيس، عن المنهال بن عمرو [عن زر بن بن حبيش أنه سمع علياً يقول: أنا فقات عين الفتنة، ولو لا أنا ما قوتل أهل النهروان [وأهل الجمل]، ولو لا أنا أخشى أن تحرر كوا العمل لأن يخربكم بالذى قضى الله عز وجل على لسان نبئكم (ص)]، ومن قاتلهم مبصرأ لضلاليهم عارفاً بالهدى الذي نحن عليه.

زربن حیش سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علیؑ کو فرماتے ہوئے تا
ہے، میں نے قندکی جڑ کو ختم کر دیا اگر میں نہ ہوتا تو نہ اہل نہروان سے جگ کرنے
والا کوئی ہوتا اور نہ اہل جمل سے کوئی لڑنے والا ہوتا اگر مجھے یہ درست ہوتا کہ تم لوگ اہل
حدیث ۱۸۸: الشریعہ: ج ۳۲؛ منڈابویطی: ج ۱، ج ۳۷، ح ۵۰، ح ۵۷، ح ۵۸: تاریخ بغداد: ج ۱، ج ۱۸

ابن عباسؓ کا خوارج سے مناظرہ

حدیث: ۱۹۰ أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عكرمة بن عمارة قال: حدثنا أبو زمبل [سماك بن الوليد] قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحوروية اعتزلوا في دار وكالوا ستة آلاف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلة لعلك أكلم هؤلاء القوم. قال: إنّي أحافظهم عليك. قلت كلاً. فلبيست وترجلت ودخلت عليهم في دارِ نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاءتك؟

قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي (ص) المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي (ص) وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتاویله سکم، وليس فيكم منهم أحد لا بلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون. فانتهى لى لسفر منهم، قلت: هاتو ما نقمتم على أصحاب رسول الله (ص) وابن عمّه؟ قالوا: ثلاثة. قلت: ما هن؟

قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
لِلّٰهِ﴾ [الأنعام: ٦٠، ٣٥ و ٢٧ / يوسف: ١٢] ما شان الرجال
والحكم؟ قلت: هذه واحدة.

وَأَتَا مُحَمَّدَ نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَتَيْكُمْ بِمَا تَرْضُونَ، أَنْ لَبِّيَ اللَّهُ (ص) يَوْمَ الْحِدْيَةِ صَالِحٌ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ: ((اَكْتَبْ يَا عَلِيًّا: هَذَا مَا صَالِحٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (ص)). قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَا قَاتَلْنَاكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): ((امْسِحْ يَا عَلِيًّا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، امْسِحْ يَا عَلِيًّا وَإِنَّكَ: هَذَا مَا صَالِحٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)). وَاللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) خَيْرٌ مِنْ وَالْكَافِرِينَ. قَالَ عَلِيٌّ وَقَدْ مُحِيَّ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْوُهُ نَفْسَهُ ذَالِكَ مَحَاهُ مِنَ النَّبَّةِ، أَخْرَجَ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَرَجَعَ مِنْهُمْ الْفَانِ وَخَرَجَ سَالِرِهِمْ فَقَتَلُوا عَلَى ضَلَالِهِمْ، قَتَلُوهُمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ.

عبدالله بن عباس کہتے ہیں کہ جب خوارج نے خروج کیا اور چھ بڑا کی تعداد میں ایک مقام پر جمع ہو گئے تو میں نے حضرت علیؑ سے عرض کی: اے امیر المؤمنین علیؑ نماز میں تھوڑی دریغ مائیے تاکہ میں اس قوم (خوارج) سے کچھ باتیں کروں حضرت علیؑ نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ کہیں تمیں تھیں نقصان سپنچا کیس میں نے کہا میں نہیں ڈرتا پھر میں نے کپڑے بدے کٹکھی کی اور دوپہر کے وقت ان کے علاقے میں داخل ہو گیا اور لوگ کھانے میں مشغول تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے خوش آمدید کی اور آنے کا سب دریافت کیا میں نے کہا میں رسول اکرم ﷺ کے اصحاب مہاجرین و انصار اور حضور ﷺ کے چیاز اور بھائی اور ان کے داماد کے پاس سے آ رہا ہوں قرآن ان پر نازل ہوا ہے پس وہ تم لوگوں سے زیادہ تاویل قرآن کا علم رکھتے ہیں اور ان کا کوئی آدمی تم میں نہیں ہے میں آیا ہوں تاکہ جو وہ کہد رہے ہیں تمیں بتاؤں اور جو تم لوگ کہد رہے ہو وہ انھیں بتاؤں۔

یعنی کران میں سے کچھ لوگ میرے قریب آئے میں نے کہا تاہذ اصحاب رسول خدا اور ان کے چیاز اور بھائی کے سلسلہ میں تمیں کیا اعتراض ہیں؟ وہ کہنے لگے تین

قَالُوا: وَأَمَا الدَّالِيَةُ فَإِنَّهُ قَاتِلٌ وَلَمْ يَسِبْ [سَبَاهِمْ] وَلَمْ يَغْنِمْ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سَبِيلُهُمْ، وَلَنَشْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ سَبِيلُهُمْ وَلَا قَاتَلُهُمْ. قَلَتْ: هَذِهِ لِتَنَانُ فَمَا الْكَالَّةُ؟ وَذَكَرَ كَلْمَةً مَعْنَاهَا:

قَالُوا: مُحِيَّ نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ.

قَلَتْ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: حَسْبَاَهُمَا.

قَلَتْ لِهِمْ: أَرَيْتُكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ شَاءَ وَرَسَّةَ نَبِيِّهِ (ص) مَا يَرِدُ قَوْلَكُمْ أَتَرْ جَعُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَلَتْ: أَمَا قَوْلَكُمْ ((حَكْمُ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللَّهِ)) فَإِنَّمَا أَقْرَأْتُكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ قَدْ صَرَّرَ اللَّهُ حَكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رِبْعِ دَرَاهِمْ، فَأَمْرَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَحْكُمُوا فِيهِ، أَرَيْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى: «إِنَّمَا إِيمَانُ الَّذِينَ آمَنُوا لِتَقْبِلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ فَجُزَاءُهُ مِثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعْمَ بِحُكْمِ بَهْذِهِ دُعَلِيَّتِكُمْ» [٥/٩٥] وَكَانَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَنْ صَرَّرَ إِلَى الرِّجَالِ بِحُكْمِهِنَّ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ بِحُكْمِ فِيهِ، فَجَازَ مِنْ حُكْمِ الرِّجَالِ، أَنْ شَدَّكُمْ بِاللَّهِ أَحْكَمَ السَّرْجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَحَقَنَ دَمَانِهِمُ الْأَفْلَلُ أَوْ لَبِّيَ أَرَبِّ؟ قَالُوا بَلِّي بِلِّي فِي هَذَا أَفْضَلُ.

وَفِي السَّرَّاءِ وَرِزْوَجَهَا [قَالَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ]: ((وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بِهِنَّمَ فَابْعُثُوا حُكْمَاءَ أَهْلِهِ وَحُكْمَاءَ أَهْلَهَا)) [٣٥/النساء: ٣] فَشَدَّتُكُمْ بِاللَّهِ حُكْمَ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَحَقَنَ دَمَانِهِمُ الْأَفْلَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بَعْضِ امْرَأَةٍ؟ خَرَجَتْ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

قَلَتْ: وَأَتَا قَوْلَكُمْ: ((قَاتِلٌ وَلَمْ يَسِبْ وَلَمْ يَغْنِمْ)) أَفَسِبُونَ أَنْتُمْ عَانِشَةً تَسْتَحْلُونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحْلُونَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أَمْكَمْ؟ فَإِنْ قَلَمْ: إِنَّمَا نَسْتَحْلُ مِنْهَا مَا نَسْتَحْلُ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قَلَمْ: لَيْسَ بِمَا نَسْتَحْلُ مِنْهَا مَا نَسْتَحْلُ مِنْ غَيْرِهَا فَأَنْتُمْ أَلْسَانُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفَسَهِمِ وَأَرْوَاجِهِ أَمْهَاتِهِمْ) [٦/الأحزاب: ٣٣] فَإِنْمَا ضَلَالُهُمْ فَأَتَوْهُمْ بِمَخْرَجٍ؟ فَأَخْرَجَتْ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

میں تھیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ دو گروہوں میں صلح کر اکرخون
دیزی سے بچانے کے لئے لوگوں کو حکم بنانا افضل اور بہتر ہے یا ایک خرگوش کے
معاملہ میں حکم بنانا بہتر ہے؟

بیکھ اس خوزیری میں حکم مقرر کرنا افضل و بہتر ہے۔

میں نے کہا زن و شوہر کے سلسلہ میں خداوند عالم کہتا ہے کہ "اگر تمھیں ان
دوں میں جدائی کا ذرہ تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف
مقرر کر کے بھیجو" (نساء ۳۵، ر ۶۷)

میں تھیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ دو گروہوں میں صلح کر اکر
خوزیری سے بچانے کے لئے حکم بنانا ضروری ہے یا ایک عورت کے معاملہ میں حکم
بنانا ضروری ہے اس اعتراض سے باہر نکلیں یعنی اب تو یہ اعتراض باقی نہ رہا، وہ
بدلے جی ہاں یہ اعتراض ختم ہوا۔

میں نے کہا اب تمھارا دوسرا اعتراض کہ جنگ کی، مگرنا اسیر کیا، اور نہ ہی مال غیمت
لوٹا تو تم خود ہی بتاؤ کیا تم ام المومنین عائشہ کو جو تمھاری ماں ہیں اسیر کرو گے اور جو کچھ
کفار کے لئے جائز بختتے ہو وہ ان کے لئے بھی جائز جانتے ہو اگر تم یہ کہو کہ ہاں جائز
ہے جس طرح کفار کے سلسلہ میں جائز ہے تو تم کافر نہبڑے اور اگر تم یہ کہو کہ وہ تمھاری
مال نہیں تو بھی تم کافر ہوئے اس لئے کر خدا کا ارشاد ہے: "نبی مومین کے نفشوں پر ان
سے زیادہ حاکم ہے اور ان (نبی) کی بیان مومین کی ماں ہیں" (اذاب ۶۷)

تم دونوں طرح کے جواب میں ضلالت و گمراہی میں ہو اس سے نکلے کا کوئی
راستہ ملاش کر دیکھا میں نے اس اعتراض کا جواب بھی صحیح دیا اور میں بری الذمہ ہو

اعتراض، میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ انہوں نے حکم
اللہ میں لوگوں کو حکم قرار دیا جب کہ اللہ فرماتا ہے "حکم صرف خدا ہی کے لئے ہے"
(انعام ۶۷ و ۶۸) لبذا لوگوں کا حکم ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک
اعتراض انہوں نے کہا دوسرا اعتراض یہ کہ انہوں نے جنگ کی مگرنا اسیر بنایا اور نہیں
مال غیمت لوٹا اگر وہ کافر تھے تو یہ جائز تھا اور اگر وہ مومن تھے تو ان سے جنگ کرنا بھی
حرام ہے میں نے کہا اچھا یہ تو دوسرا اعتراض ہوا، اب ذرا تیسرا اعتراض بیان کرو
انہوں نے کہا: اپنے نام کے آگے سے امیر المؤمنین ہشادیا اگر یہ امیر المؤمنین نہیں ہیں
تو امیر الکافرین ہیں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ وہ بولے نہیں،
یہی ہمارے لئے کافی ہے۔

میں نے کہا اگر میں قرآن مجید اور حدیث رسول سے تمھارے ان عقیدوں کو فقط
ثابت کر دوں تو کیا تم اپنے مذہب سے واپس پہنچ آگے انہوں نے کہا ہی ہاں۔

میں نے کہا: تمھارا پہلا اعتراض کہ انہوں نے امر خداوندی میں لوگوں کو حکم بنایا
تو میں تمھارے سامنے کتاب خدا سے بیان کرتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو اس چیز کے
لئے بھی حکم قرار دیا ہے جس کی قیمت ایک چوتھائی درہم ہو کیا تم نے خداوند تعالیٰ کا
یہ قول نہیں پڑھا ہے، ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو! تم حالت احرام میں شکار قتل
میں کرو اور اگر تم میں سے کوئی قتل کر دے تو جیسا جانور شکار کیا ہے ویسا ہی اس کے
بد لے میں دے جس کا حکم تم میں سے دو عادل آدمی دیں گے (ماندہ ۹۵) دیکھو یہ
حکم لوگوں کی طرف ہے کہ وہ حکم کریں جب کہ یہ حکم الہی ہے اور اگر خدا چاہتا تو خود
یہ حکم کر سکتا تھا پس لوگوں کو حکم بنانا جائز ہے۔

گیا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں جواب صحیح ہے۔

اب تمہارا تمیرا اعتراض کر حضرت علی ﷺ نے اپنے نام کے آگے سے ایم
المؤمنین ہنادیا ہے تو سنو میں تھسیں ایسا جواب دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے
رسول اکرم ﷺ نے صلح حدیبیہ میں مشرکوں سے صلح فرمائی تو حضرت علی ﷺ سے فرمایا
کہ اے علی ﷺ لکھو کہ ان شرائط پر اللہ کا رسول محمدؐ مشرکین سے صلح کرتا ہے تو مشرکین
نے اعتراض کیا کہ اگر ہم تھسیں اللہ کا رسول مان لیتے تو تم سے جنگ ہی کیوں کرتے؟
یہ سن کر حضور ﷺ نے حضرت علی ﷺ سے فرمایا: اے علی ﷺ اے مٹا دو تم تو
جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اے علی ﷺ اے مٹا دو اور لکھو دو کہ ان شرائط پر
بن عبد اللہ صلح کر رہا ہے، خدا کی قسم بتاؤ رسول اللہ افضل ہیں یا حضرت علی ﷺ اجب کہ
حضور نے لفظ رسول اللہ کو اپنے نام کے آگے سے مٹا دیا اور ان کا یہ مٹانا خود کو مردجہ
نبوت سے معزول کرنا تھا۔

اب بتاؤ کیا میں نے تمہارے اس اعتراض کا صحیح جواب دیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگے جیساں آپ نے صحیح جواب دیا اور عہدہ سے بری ہو گئے۔ (اس مناظرہ کے بعد) دو ہزار افراد خوارج میں سے واپس پلٹ آئے اور یقینہ نے بغاوت کی بیانات تک کہ اسی ممالک میں مہاجرین اور انصار کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

حدیث ۱۹۰: مصطفی عبدالرازاق: ح ۱۰، ج ۱۵، ح ۲۷۸، ح ۱۸۴؛ مندادحمد: ح ۲، ج ۸۳، ح ۶۵۲، ح ۱۵۶.
 حدیث ۲۱۸، ح ۲۷۸، ج ۳۱۸: کتاب الامول: ج ۲، ح ۲۷۸، ح ۲۳۵؛ المعرفة والتاریخ: ح ۱، ج ۱، ح ۵۲۲؛ مندواہ علی: ح ۲،
 ج ۲۶۳، ح ۲۷۸، ج ۳۱۸؛ تکمیل کیر طبرانی: ح ۱۰، ج ۲۵۸، ح ۵۹۸؛ جامع بیان الحکم: ح ۲، ج ۱۰۳؛ مندرج
 حاکم: ح ۲، ج ۱۵، ح ۲۷۸؛ منسی کبیری: تحقیق: ح ۸، ج ۱۸۱، ح ۱۸۲؛ مناقب خوارزمی: ج ۲۶، ح ۲۳۳.

پیغمبر اسلام ﷺ کی پیشین گوئی

الحادي عشر: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجوني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب الفراتي، عن علقمتين قيس قال:

فَلَتْ لِعْلَىٰ تَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَبْنَ أَكْلَهُ الْأَكْبَادَ حَكْمًا؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَوْمَ الْحَدِيْثِ فَكَتَبَتْ: ((هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَسَهْلِ بْنِ عُمَرٍ))

فقال سهيل: لو علمنا أنه رسول الله (ص) ما قاتلناه، اسحها. فقلت: هو والله رسول الله (ص) وإن رغم أنفك، لا والله أمحوها. فقال رسول الله (ص): ((أرني مكانها)). فاربعه فمحاها و قال: ((أما إنَّ لَكَ مِنْهَا سَأْلَيْهَا أَنْ تُضطَرَّ)).

علماء بن قيس سے نقل ہے کہ میں نے حضرت علیؑ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے اور ”آکلۃ الاکباد“ کے بینے (یعنی جگر خوار عورت کے بینے معادیہ) کے درمیان (دوسرے کو) حکم فرقہ ادا کر سکتے ہیں؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں حدیبیہ کے دن آنحضرت ﷺ کا کاتب تھا اور میں نے صلیٰ نامہ بیوں لکھا کہ "ان شرائط پر اللہ کے رسول محمد ﷺ اور سعیل بن عمرو صلح

کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ ان کو رسول مان لیتے تو جنگ ہی کیوں
کرتے اس لفظ کو مناؤ اس وقت میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ خدا کے رسول ہیں چاہے
تم اپنی ناک رگڑا الویں اس لفظ کو مناؤ نہیں سکتا تو حضور ﷺ نے مجھ سے طلب کیا
میں نے اخیں دیدیا پھر آپ ﷺ نے خود ہی مناکر فرمایا: "اے علیؑ مبارکہ حمارے
لئے بھی ایسا ہی ایک دن آئے گا اور تم مجبور ہو گے۔"

حدیث: ۱۹۲ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَقِيَ
صَالِحَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحَدِيثَةِ (وَقَالَ أَبْنُ بَشَّارَ: أَهْلَ مَكَّةَ) كَبَّ عَلَى
كَتَابَهُ بَيْهِمْ، قَالَ فَكَبَ: ((مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْبِ
مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
((أَمْحَى)). قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَى، فَمَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَالَ جَهَنَّمَ عَلَى
أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجَلْبَانِ السَّلَاجِ.

براء سے روایت ہے جب رسول اسلام ﷺ نے حدیبیہ والوں سے صلح کی
اور بشار کا کہنا ہے کہ اہل مکہ سے صلح کی تو امام علیؑ نے ایک صلح نامہ تیار کیا اور اس
میں محمدؐ، اللہ کے رسول کا حایہ دیکھ کر مشرکین نے کہا محمد رسول اللہ متکھوا اگر ہم تمیں
اللہ کا رسول ﷺ مان لیتے تو تم سے جنگ ہی کیوں کرتے۔

(یہ سن کر) حضور ﷺ نے امام علیؑ کو اس لفظ کے مٹانے کے لئے کہا
امام علیؑ نے عرض کی میں تو اس لفظ کو نہیں مٹاؤں گا تو خود حضورؐ نے اپے دست
مبارک سے مٹاؤ پھر صلح اس بات پر ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب کے نہیں

روز تک مکہ میں آ کر رہے رکتے ہیں مگر اس شرط پر کہ جلبان السلاح۔ (یعنی اسلحہ میان کے
اندر نہیں رہے)

حدیث: ۱۹۳ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَيْمَانَ [الرَّهَاوِي] قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ [بْنُ يُونُسَ] [عَنْ جَنَّةِ] أَبِي إِسْحَاقِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ قَالَ: أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ
مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضِاهُمْ عَلَى أَنْ يَقِيمَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبَا: ((هَذَا مَا
قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))، قَالُوا: لَا نَقْرَبُهَا، لَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّكَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ بَيْهُ وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ((أَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)، قَالَ لَعْلَى: ((أَمْحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ)) فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبْدًا، فَأَخْدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ بِهِ
يَكْبُرُ، فَكَبَ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَ: ((هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ سَلَاجُ إِلَّا السَّيفُ فِي الْقَرَابِ، وَأَنْ لَا يَعْرُجَ مِنْ
أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقِيمَ)).
فَلَمَّا دَخَلُوكَمْ مِنْ الْأَجْلِ أَنْوَأْتُهُمْ عَلَيْهِ أَفْقَالُهُمْ، قَالُوا لِصَاحِبِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ فَقَدْ
مضى الأَجْلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَعَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادِي: يَا عَمْ يَا عَمْ!
فَتَأْوِلُهَا عَلَىٰ، فَأَخَدَ بِيدهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونِكَ ابْنَةُ عَمِّكَ، فَحَمَلَتْهَا، فَأَخْتَصَّ
لِهَا عَلَيَّ وَزَيْدُ وَجَعْفَرٍ، فَقَالَ عَلَيَّ: أَنَا آخَذُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ
عَنْتِي وَخَالَتِها تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ: ((السَّخَالَةُ بِسَنْزَلَةِ الْأَمْمَ)). ثُمَّ قَالَ لَعْلَى: ((أَنْتَ مَنِي وَأَنَا مِنْكَ)). وَقَالَ
لِجَعْفَرٍ: (أَشَبَّهُتْ خَلْقِي وَخَلْقِي). ثُمَّ قَالَ لِزَيْدٍ: ((أَنْتَ أَخُونَا وَمُولَانَا)). فَقَالَ
عَلَيَّ: الْأَنْتَ رَجُلُ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)).

حدیث: ۱۹۲: مسن دیلمی: ج ۱۳، ح ۹۷، مسن احمد: ج ۱۰، ج ۵۳۵، ح ۴۷، ح ۱۸۵۶؛ صحیح بخاری: ج ۳،
مس ۲۳۱، صحیح مسلم: ج ۱۰، ح ۱۰۱، ح ۱۷۸۳؛ مسن ابی داؤد: ج ۲۴، ج ۱۶۷، ح ۱۸۳۲؛

حدیث: ۱۹۳: کتاب البنت: ج ۳۲۵، ح ۹۰۷، انساب الاشراف: ج ۱، ج ۲۳۲، ح ۳۲۴.

میں اٹھا لیا۔
ان کی پروپریتی کے سلسلہ میں امام علیؑ اور زید اور جعفر میں اختلاف ہوا تو امام علیؑ نے فرمایا ان کی کفارت میں کروں گا، میری پیچازاد بہن ہیں، جعفر نے کہا یہ میری پیچازاد بہن ہیں اور ان کی خالہ میری بیوی ہیں؛ زید نے کہا: یہ میری بیوی ہے یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ حق خالہ کا ہے اس لئے کہ خالہ ماں کی پکڑ ہوتی ہے۔

پھر آنحضرت ﷺ نے امام علیؑ سے فرمایا: تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور جعفر سے فرمایا تم صورت ویرت میں میری طرح ہو اور زید سے فرمایا آپ ہمارے بھائی، بزرگ اور مددگار ہیں۔

پھر امام علیؑ نے فرمایا: کیا آپ جناب حمزہ کی صاحبزادی سے شادی نہیں کریں گے تو حضور ﷺ نے فرمایا: یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں۔

حدیث: ۱۹۳: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَسَارِكَ قَالَ: حَدَّثَنَا
بِحْرَىٰ (وَهُوَ بْنُ آدَمْ) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ، عَنْ هَالِيِّ بْنِ هَالِيِّ
وَهِيَرَةِ بْنِ يَرِيمٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُمْ اخْتَصَمُوا فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقُضِيَّ بِهَا رَسُولُ
اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِخَالِهِ وَقَالَ: ((الخَالَةُ أَمْ)). قَلَتْ بِيَارَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِزَوْجِهِ؟ قَالَ: ((إِنَّهَا لَا تَحْلِي لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ))، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: ((أَنْتَ
مَسْئِيٌّ وَأَنَا مَنْكَ))، وَقَالَ لَرِيدَ: ((أَنْتَ أَخُونَا وَمُوْلَانَا))، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: ((أَشَهَتْ
خَلْقِي وَخُلُقِي)).

حدیث: ۱۹۳: سنده احمد: ج: ۳۰، ص: ۵۹۲، ح: ۸۲۳۵؛ صحیح بخاری: ج: ۵، ص: ۷۴؛ سنن داری: ج: ۲،
ص: ۲۳؛ سنن تیمی: ج: ۸، ص: ۵؛ شرح السنن بقوی: ج: ۱۲، ص: ۱۳۹، ح: ۹۳۷.

براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اسلام ﷺ نے ماہ ذی القعده میں عمرہ کا احرام باندھا لیکن مکہ والوں نے انھیں داخل ہونے سے روک دیا بیہاں تک کہ طے پایا کہ مکہ میں صرف تین دن تک قیام کریں تو جب صلح نامہ لکھا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ "ان شرائط پر اللہ کے رسول محمد ﷺ نے فیصلہ کیا ہے تو مشرکین نے اعتراض کیا اور کہا کہ اگر تم کو اللہ کا رسول جانتے تو تصمیم اس کے مگر سے منع ہی کیوں کرتے تم اللہ کے رسول نہیں بلکہ محمد بن عبد اللہ ہو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور میں ہی محمد بن عبد اللہ ہوں اور پھر امام علیؑ سے فرمایا: کہ رسول اللہ کی لفظ کو مٹا دو، امام علیؑ نے عرض کی میں اسے ہرگز مٹانے میں مکا تو آنحضرت نے وہ کاغذ لیا اگرچہ وہ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے پھر بھی رسول اللہ کی جگہ محمد ﷺ لکھا اور پھر صلح نامہ لکھا گیا کہ یہ فیصلہ ہے جیسے محمد بن عبد اللہ نے ملے کیا ہے کہ وہ مکہ میں اس طرح داخل ہوں گے کہ شمشیر غلاف کے اندر ہو گی اور اگر کہ کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے تو اسے وہ مکہ سے باہر نہیں لے جائیں گے اور اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص یہاں قیام کرنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔
اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے نبی ﷺ سے کہہ دیں ہو گئی تو اہل مکہ امام علیؑ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے نبی ﷺ سے کہہ دیں کہ مدت ختم ہو چکی ہے لہذا وہ شہر سے باہر نکل جائیں یہ سن کر حضور ﷺ شہر سے باہر نکلے اتنے میں جناب حمزہ کی صاحبزادی بیچا، بیچا کہتی ہوئی آنحضرت ﷺ کے پیچھے پیچھے دوڑیں تو امام علیؑ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا اور فرمایا اپنی پیچا زاد چھوٹی بہن کو اٹھا لو تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انھیں گود

ہانی بن ہانی اور ہمیرہ بن یحیم سے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب حمزہ کی بیٹی کی پرورش کو لے کر ہم میں اختلاف ہوا تو حضور ﷺ نے فصل فرمایا کہ یعنی ان کی خالہ کا ہے اور فرمایا: خالہ ماں کے برابر ہے میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے رسول خدا کیا آپ ان سے نکاح نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا: کہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں لہذا میرے لئے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔

آنحضرت نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا: کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور زید سے فرمایا: آپ ہمارے بھائی، بزرگ اور مددگار ہیں اور جعفرؑ سے فرمایا کہ تم صورت و سیرت میں مجھ سے مشابہ ہو۔

فہرست

آیات قرآن کریم

- ﴿ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذَهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ ﴾ الاحزاب، حدیث ۱۱، مس ۳۲۰.
- ﴿ اَفَأَنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقْلَبَتِمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ ﴾ آل عمران، حدیث ۱۳۲، مس ۳۲۰.
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ... صَلَوةً ﴾ مجادلہ، حدیث ۱۵۲، مس ۳۲۰.
- ﴿ وَ اَنْ خَفَّتِمْ شَفَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حُكْمًا ﴾ النساء، حدیث ۳۵، مس ۱۹۰.
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُلُوا الصَّيْدَ وَ اتَّقُلُوا حُرْمَةً ﴾ الصَّاتِدَةُ، حدیث ۹۵، مس ۳۲۰.
- ﴿ اَنَّ الْحُكْمَ اَلَّا لِلَّهِ ﴾ الاعلام، ۵: ۲۷، یوسف، حدیث ۳۶۰.
- ﴿ النَّبِيُّ اُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انفُسِهِمْ ﴾ الاحزاب، حدیث ۱۹۰، مس ۳۲۰.

احادیث رسول خدا علیہ السلام

۱. ابن سمیہ بن قطیل کے الفتۃ الباغۃ "سیسی کے پرتمہیں ایک با غنیمت سنگرہ قتل کرے گا" حدیث ۱۶۰.
۲. اتیغض علی؟! "کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو" حدیث ۹۷.
۳. اذھب فوار اباک "جا کر اپنے پدر کو فن کر دے" حدیث ۱۳۹.
۴. اشیبھت خلقی و خلقی "تم (جعفر بن ابوطالب) صورت و سیرت میں میری شمیہ ہو" حدیث ۱۹۲، ۷۰.

حدیث: ۱۹۳۔ طبقات کبری: ح ۳، مس ۳۶؛ مند ابن راہوی: ح ۳، مس ۲۷؛ مصنف ابن الہیۃ: ح ۲، مس ۳۶۸، ح ۵، مس ۸ و مس ۲۷۲، ح ۲۲؛ سنن ابن ابی داؤد: ح ۳، مس ۲۸۳، ح ۲۲۸۰؛ مند ابویعلی: ح ۱، مس ۳۰۱، ح ۵۲۶، مس ۳۲۱، ح ۵۵۲؛ مشکل الآثار: باب ۳۸۲، ح ۳۵۵۔ ح ۲۳۵۵؛ صحیح ابن حبان: ح ۱۵، مس ۵۲۰، ح ۲۰۳۶؛ سنن کبری بیہقی: ح ۸، مس ۵۔ ۲؛ تاریخ بغداد: ح ۲، مس ۱۳۰؛ ترجمۃ الامام علی بن تاریخ دمشق: ح ۱، مس ۱۳۹، ح ۱۷۳۔

- حقوق میں سے اپنے مجوہ ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پر نہ کوتناول فرمائے۔ حدیث ۱۰۔
۱۷. اللهم هؤلاء اهلى "خداوند ایکی میرے اہل ہیں" حدیث ۱۱۔
۱۸. اللهم هؤلاء اهلى بنتی "خداوند ایکی میرے اہل بنتی ہیں" حدیث ۲۳۔
۱۹. اما انت یا علی فحشی و ابو ولدی و انت منی و انا منک "لیکن تم اے علی میرے داماد، میرے بیٹوں کے باپ ہو اور تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں" حدیث ۱۲۸۔
۲۰. اما انت یا علی فصفی و امینی "اور تم اے علی میرے منتخب اور امین ہو" حدیث ۲۷۔
۲۱. اما ان لک مثلاً ساتھیها و انت مضطرب "آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی (حداد) پیش آئے گا اور تم مجبوہ ہو گے" حدیث ۱۹۱۔
۲۲. اما بعد ایها الناس انی ولیکم "المابعد" اے لوگوں میں تمہارا اولی ہوں" حدیث ۹۳۔
۲۳. اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی "کیا تم (اس بات پر) راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موتی سے تھی" حدیث ۱۱، ۲۳، ۳۶، ۴۳، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۱۲۶۔
۲۴. اما ترضیں ان تکونی سیدۃ النساء هذه الامة "اے میری میٹی فاطمہ" کیا تم اس بات پر راضی و خشنود نہیں ہو کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو" حدیث ۱۳۱۔
۲۵. انت خلیفتی فی کل مومن "اے علی تم مومین کے درمیان میرے خلیفہ وجاشین ہو" حدیث ۲۳۔
۲۶. انت منی بمنزلة هارون من موسی "تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موتی سے ہے" حدیث ۲۳۔
۲۷. انت منی و انا منک "تم (اے علی) مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں" حدیث ۶۹۔
۲۸. ان الشفیع ما فعلی علی الناس "اگر تم دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہو تو علی سب کے

۵. الا احمد کما باشقی الناس "کیا تم دونوں کو شفیع ترین شخص کے بارے میں خبر نہ دوں" حدیث ۱۵۳۔
۶. الا اعلمک دعاء اذا دعوت غفرلک؟ "آیا میں تمہیں اس دعا کی تعلیم نہ دوں کر اگر تم نے اسے پڑھ لیا تو خداوند عالم تمہیں بخش دے گا" حدیث ۲۰۔
۷. الا اعلمک کلمات اذا قلتهن غفرلک؟ "کیا میں تمہیں ان کلموں کی تعلیم دوں کر جس کے زبان سے ادا کرنے پر خداوند عالم تمہیں بخش دے گا" حدیث ۲۵۔
۸. الا ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی "کیا تم اس بات پر خشنود نہیں ہو کر تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موتی سے تھی" حدیث ۵۳۔
۹. المستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسہ؟ "کیا تم کو یہیں معلوم کر میں ہر مومن کے نفس پر اس سے برتر حاکم ہوں" حدیث ۹۵، ۹۶، ۸۳۔
۱۰. الله ولی وانا ولی المؤمنین "خداوند عالم میرا اولی ہے اور میں مومین کا اولی ہوں" حدیث ۱۵۷۔
۱۱. اللهم اذهب عنہ الحر و البر "خداوند اس (علی) سے سردی اور گری کو دور فرما" حدیث ۱۵۱۔
۱۲. اللهم اکفہ اذی الحر و البر "خداوند اس (علی) کو سردی اور گری کی اذیوں سے محفوظ فرمा" حدیث ۱۳۔
۱۳. اللهم ان الخير خير الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة "خداوند اخیر و بھالی نظر آخرت کی ہے پس تو مہاجرین و انصار کو بخش دے" حدیث ۱۲۱، ۱۲۰۔
۱۴. اللهم اهد قلبہ و سدد لسانہ "خداوند اس (علی) کے قلب کی ہدایت اُنہا اور اس کی زبان کو استوار فرماء" حدیث ۳۳۔
۱۵. اللهم انتی باحث خلقک البک باکل معنی من هذا الطير "خداوند ایں

- اور ادھیس کرے گا، حدیث ۶۷۔
۲۶. ائمہ منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ "بیشک وہ (علیٰ) میری نسبت دیسے تھیں جسے ہارون کو موسیٰ سے، حدیث ۱۲۔
۲۷. انها صغیرة " (عمرہ ابو بکر کی جناب سیدہ کے ساتھ شادی کی درخواست پر آنحضرت نے فرمایا: وہ ابھی چھوٹی ہیں، حدیث ۱۳۲۔
۲۸. اتنی امرت ان ابلغہ آس اور جل من اهل بیتی " مجھے حکم ہوا ہے کہ اس (سورہ براثت) کو یا میں یا میرے الملبوث میں سے کوئی شخص پہنچائے، حدیث ۷۵۔
۲۹. اتنی دافع لو اتنی غدا الی رجل بحث اللہ و رسولہ " کل میں علم اس کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، حدیث ۱۵۔
۳۰. او لاترضی ان تكون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ " کیا تم اس بات پر راضی و خوش تینیں ہو کر تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، حدیث ۵۲۔
۳۱. ایکم یوالي فی الدنیا والآخرة " تم میں سے کوئی ہے جو دنیا و آخرت میں مجھے دوستی کرے، حدیث ۲۲۔
۳۲. ایها الناس من ولیکم؟ " اے لوگو! تمہارا ولی اور پیشواؤ کون ہے، حدیث ۹۶۔
۳۳. بوسالک ابن سمعیہ " اے سیے کے فرزند کس قدر مظلی اور زحمت میں جتنا ہو گئے، حدیث ۱۶۳۔
۳۴. تفرق افتدی فرقین بعرق بینها مارقة " میری امت کے وہ گروہ ہوں گے اور ان دونوں میں سے ایک مارق (جہنمی گروہ) ہو گا، حدیث ۱۷۔
۳۵. تفضل عمارا الفنة الباغية " باغی اور سُنگر گروہ عمار کو قتل کرے گا، حدیث ۱۴۸، ۱۵۸۔
۳۶. تمرق مارقة عند فرقة من الناس " لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف کے وقت مارق (جہنمی گروہ) خروج کرے گا، حدیث ۱۷۲، ۱۶۹۔

۲۸. ان بنی هشام بن المغيرة استاذنولی " بنی هشام بن مخیرہ مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، حدیث ۸۹۔
۲۹. ان جبر نسل کان بعارضتی بالقرآن کل سنتہ مرہ " جبر نسل ہر سال ایک مرد مجھ سے قرآن کا مقابلہ کرتے تھے، (محضے قرآن سناتے تھے) حدیث ۱۳۲، ۱۳۳۔
۳۰. ان علیا منی و انا منہ " بیشک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، حدیث ۶۶۔
۳۱. ان فاطمة مضغۃ منی بربیتی مارا بہا " بیشک فاطمہ میر اکراہے جس پیڑ سے یہ پریشان ہوا سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، حدیث ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۸۔
۳۲. ان اللہ سیہدی قلبک ویشت لسانک " (اے علیٰ) عنتریب خداوند عالم تمہارے دل کی بدایت (روشن) اور تمہاری زبان کو (حق پر) استوار فرمائے گا، حدیث ۳۲، ۳۳۔
۳۳. ان اللہ مولای وانا ولی کل مومن " بیشک اللہ میر امولہ اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، حدیث ۲۹۔
۳۴. ان اللہ ولنی وانا ولی کل مومن " بیشک اللہ میر اولی اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، حدیث ۹۸۔
۳۵. ان ملکا من السماء لم يكن رأني فلساندن الله في زيارة " آسمان کے کایفیت شنے مجھ تینیں دیکھاتا تو اس نے خداوند عالم سے میری زیارت کی اجازت طلب کی، حدیث ۱۳۰۔
۳۶. ان منکم من يقاتل على تاویل القرآن " تم میں سے ایک (شخص ہے جو) تاویل قرآن پر بجک کرے گا، حدیث ۱۵۶۔
۳۷. ائمہ سیخ حجہ قوم یکلمون بالحق لا یتجاوز حلوقهم " عنتریب لیکی دیا گروہ جو میں آئے کہ جو حق کی باتیں تو کریں گے (مگر حق) ان کے گلے کے نیچے نہ اترے گا، حدیث ۱۸۱۔
۳۸. ائمہ لا ییؤذی عنی الا أنا او علی " (میرے حقوق کو) سوائے میرے اور علی کے کوئی

- ۲۳۔ کف انت یا علیٰ و قوم کذا و کذا؟ "اے علیٰ اس طرح کی قوم کے ساتھ کیا رہتا کر دے گے" حدیث ۱۸۳۔
- ۲۴۔ لا بعشن رجلاً يحب الله ورسوله "میں ضرور پڑو رائے شخص کو تجویز کا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے" حدیث ۲۲۷۔
- ۲۵۔ لا دفععن الرایۃ الی رجل يحب الله ورسوله "میں علم اس شخص کے حوالہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے" حدیث ۲۱۸۔
- ۲۶۔ لا دفععن الرایۃ غدأ الی رجل يحب الله ورسوله "کل علم اس شخص کے حوالہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے" حدیث ۱۳۷۔
- ۲۷۔ لا عطین الرایۃ رجلاً يحب الله ورسوله "علم ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے" حدیث ۱۱۵۔
- ۲۸۔ لا عطین الرایۃ غدار رجلاً يحب الله ورسوله "کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے" حدیث ۲۳۰۔
- ۲۹۔ لا عطین اللواء رجلاً يحب الله ورسوله "میں علم اس شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے" حدیث ۱۲۰۔
- ۳۰۔ لا عطین هذه الرایۃ رجلاً يحب الله ورسوله "میں علم اس شخص کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے" حدیث ۱۹۔
- ۳۱۔ لا عطین هذه الرایۃ غدار رجلاً يفتح الله عليه "میں کل اس علم کو اس شخص کو دوں گا کر جس کے (باقیوں پر) خدا فتح و کامرانی دے گا" حدیث ۷۷۔
- ۳۲۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم "خدا عظیم و حليم کے سوائے کوئی اور خدا نہیں ہے" حدیث ۳۰، ۲۵۔
- ۳۳۔ لا تفعنْ يابريدة في علي "اے بریدہ علیٰ کے بارے میں چوں وچرا (شبہ انگریزی)

- ۵۰۔ الحسنُ والحسينُ سيداً شبابَ أهلِ الجنة "حسن" و "حسین" جوانان جنت کے سردار ہیں "حدیث ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳" حدیث ۱۹۲، ۷۰۔
- ۵۱۔ الحالة ألم "حالہ ماں ہوتی ہے" حدیث ۱۹۲، ۷۰۔
- ۵۲۔ الحالة بمنزلة الأم "حالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے" حدیث ۱۷۱۔
- ۵۳۔ دعه فانَ له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم "اے چھوڑ دو اس کے ایسے دوست ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں کی نمازوں کے مقابلہ میں کم اور حریر بھی گا" حدیث ۱۷۵۔
- ۵۴۔ رب هؤلاء اهلي "پروردگاری میرے اہلیت ہیں" حدیث ۵۳۔
- ۵۵۔ ريحانتي من هذه الأمة "({حسن و حسین}) اس امت میں میرے دو خوشبودار بیویوں ہیں" حدیث ۱۳۵، ۱۳۳۔
- ۵۶۔ ستكون ائمۃ فرقتين "عنقریب میری امت میں دو گروہ ہوں گے" حدیث ۱۷۱۔
- ۵۷۔ ستوا هذه الأبواب الاباب على "(مسجد میں) کبھی دروازوں کو بند کر دو جو ایسے علی کے دروازے علی ﷺ کے" حدیث ۲۳۲، ۳۸۔
- ۵۸۔ سیخرج قوم من امیٰ بقرؤن القرآن "عنقریب میری امت سے ایک گروہ لئے گا جو قرآن پر صحتا ہوگا" حدیث ۱۸۶۔
- ۵۹۔ علىٰ مني وانا منه "علیٰ مجھ سے ہے اور میں علیٰ سے ہوں" حدیث ۱۹۲، ۸۹، ۷۳، ۷۱، ۶۹۔
- ۶۰۔ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة "فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں" حدیث ۱۳۱، ۱۲۷۔
- ۶۱۔ قم ياعليٰ فقد برئت "اخوات علیٰ کی تھیں شفافیٰ" حدیث ۱۳۸، ۱۳۷۔
- ۶۲۔ كانى قد دعيت فاجبت، ائمۃ قد ترکت فيكم الثقلین "گویا کہ محمد و ہوت ولی گئی تو میں نے لبیک کی میں تمہارے درمیان دو گرانقمر چیزیں چھوڑے جاء رہا ہوں" حدیث ۱۸۷۔

- کے (حالات) سے مطلع ہو، حدیث ۲۳۷۔
۸۲. مرحباً بانتی... امام ارضین انک سیدۃ النساء هذه الامة "خوش آمدیداے میری بیٹی... کیا تم اس بات پر خشنود راضی نہیں ہو کر اس امت کی عورتوں کی سردار ہو" حدیث ۱۳۲۔
۸۳. مرهم ان یتصدقوا "انہیں صدقہ دینے کا حکم دو" حدیث ۱۵۲۔
۸۴. من سب علیاً فقد سبی "جس نے علیٰ کو بردا بھلا کہا اس نے مجھے برا، بھلا کہا" حدیث ۹۱، ۹۰۔
۸۵. من كنت مولاہ فعلى مولاہ "جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں" حدیث ۱۲، ۹، ۸۰، ۸۷، ۹۲، ۹۳، ۸۷، ۹۰، ۹۹، ۹۸، ۹۳، ۸۷، ۱۵۷۔
۸۶. من کنت ولیه فعلى ولیه "جس کا میں ولی ہوں اس کے علی بھی ولی ہیں" حدیث ۲۳۔
۸۷. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله "یہ وہ عہد ہے کہ جس پر محمد رسول خدا نے صلح فرمائی ہے" حدیث ۱۹۱۔
۸۸. هذا اولیٰ والمؤذن عنی "یہ (علیٰ) میرے ولی (جاشین) اور میرے فرائض کو ادا کرنے والے ہیں" حدیث ۹۔
۸۹. هذان ابسای وابسا ابنتی "یہ دونوں (حسن و حسن) میرے اور میری بیٹی کے فرزند ہیں" حدیث ۱۳۹۔
۹۰. هصار بمحانتی من الدنيا "یہ دونوں (حسن و حسن) اس دنیا میں میرے دو خوبصوردار بچوں ہیں" حدیث ۱۲۵۔
۹۱. هي احب الى منك وانت اعز "یہ (فاطمہ) میرے زادیکم سے زیادہ محبوب اور تم (علیٰ) اس سے زیادہ عزز ہو" حدیث ۱۳۶۔

۹۲. لا يحبك الا مؤمن "اے علیٰ) صرف مومن ہی تم سے محبت کرے" حدیث ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۸۔
۹۳. لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه "اے فقط وہی شخص لے جائے گا جو مجھے ہوا اور میں اس سے ہوں" حدیث ۲۳۔
۹۴. لا ينبغي ان يبلغ هذا الرجل من اهلي "مناسب بھی ہے کہ اس کو وہ شخص لے کر جائے جو میرے اہل میں سے ہو" حدیث ۷۲۔
۹۵. لينتهين بنو وليعة او لابعن البهم رجل اكتفى "يا قبيلتي ولية (النی حرکت) سے دست بردار ہو جائیں یا میں ان کے پاس ایسے شخص کو بھجوں گا جو میری ہی طرح ہے" حدیث ۱۔
۹۶. ما ان امرت با خراج حکم، ما ان فتحتها ولا سدتھا "میں نے اپنی طرف سے تھیں باہر نکل جانے کا حکم نہیں دیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے (مسجد کے دروازوں) کوٹہ بند کیا ہے اور نہ کھوا لے" حدیث ۳۱، ۳۰۔
۹۷. ما تریدون من على؟ ان علیاماً "تم علیٰ سے کیا چاہتے، بیٹک علیٰ مجھے سے ہیں" حدیث ۸۸۔
۹۸. ماسالت ربی شینا الا اعطانی وما سالت لنفسی شینا الا وقد سالت لک "میں نے جو کچھ اپنے پروردگار سے طلب کیا اس نے مجھے عطا کیا اور جو کچھ اپنے لئے طلب کیا وہ تمہارے لئے بھی طلب کیا" حدیث ۱۲۷۔
۹۹. مالک يا بالتراب؟ "اے ابو تراب تھیں کیا ہوا ہے" حدیث ۱۵۳۔
۱۰۰. ما منكم أحد الا وله حامدة "تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے مخصوص لوگ نہ ہوں" حدیث ۶۰۔
۱۰۱. ما يدریك لعل الله قد اطلع على اهل بدر "تھیں کیا خبر شاید خداوندان بدر

۹۷. یا علی فیک من عیسیٰ مثل "اے علی تم میں ایک مشاہد حضرت عیسیٰ کی طرح ہے جو باروں کو موئی سے تھی" حدیث ۶۲۔
۹۸. یا علی فیک من عیسیٰ مثل "اے علی تم میں ایک مشاہد حضرت عیسیٰ کی طرح ہے" حدیث ۱۰۳۔
۹۹. یا معاشر قربش والله لیعین اللہ علیکم رجلاً "اے قریش والو! خداوند عالم تمہاری سرگونی کے لئے ایک مرد کو بھیجیں گا" حدیث ۳۱۔
۱۰۰. یا بخوبی قوم احداث الامسان سفهاء الأحلام "ایک قوم وجود میں آئے گی جو کم عراوی و توف ہوگی" حدیث ۱۴۸۔
۱۰۱. یا مرقون من الاسلام کما یعرق السهم من الرمية "وہ لوگ (خوارج) اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کان سے نکل جاتا ہے" حدیث ۱۷۳۔

احادیث حضرت علی ﷺ

۱. اطلبوا ذا اللدیدہ "پستان والے کو تلاش کرو" حدیث ۱۳۸۔
۲. التمسوا المخدج "ناقص باتحدا والے کو سب مل کر تلاش کرو" حدیث ۱۸۱۔
۳. انطلقت مع رسول الله حتیٰ اتیا الكعبۃ "میں رسول خدا کے ساتھ چلا یہاں تک کہ تم کعبہ تک پہنچے" حدیث ۱۲۲۔
۴. الا اول من صلی "سب سے پہلًا نمازی میں ہوں" حدیث ۱۔
۵. انا عبد الله و اخور رسوله و انا الصديق الاکبر "میں بندہ خدا اس کے رسول کا بھائی اور صدیق اکبر ہوں" حدیث ۲۶۰، ۷۔

۶. الانفاقات عین الفتنہ "میں نے قتشکی جڑ کو ختم کرو یا" حدیث ۱۸۹۔
۷. ان رسول الله وصف ناس اتی لا عرف صفتہم فی هزلاء "رسول خدا نے کچھ لوگوں کی صفتیں بیان کی تھیں میں ان صفتوں کو ان لوگوں میں دیکھ رہا ہوں" حدیث ۷۷۔
۸. ان الله يقول : (افان مات او قتل) "خداوند عالم فرماتا ہے: پس اگر وہ وفات کر جائے

۹۴. والله ماانا ادخلته وآخر حجتكم "خدا کی قسم میں نے اپنی طرف اس (علی) کو اندر داخل نہیں کیا اور شہنشہ تھیں باہر نکالا" حدیث ۳۹۔
۹۵. ومن يعدل اذا لم اعدل؟ "اگر میں عدل و انصاف سے کام نہ لوں گا تو کون ہے جو عدل سے کام لے گا؟" حدیث ۱۵۷۔
۹۶. وبحک ، ومن يعدل اذا لم اعدل "اعنت وغرين بهوم پا اگر میں نے عدل سے کام نہ لیا تو کون عدل سے کام لے گا؟" حدیث ۶۱۔
۹۷. يا این سمیة تقتلک الفنة الباغية "اے سیسی کے فرزند کم کو ایک باقی اور جنکر کر کو قتل کرے گا" حدیث ۱۶۱۔
۹۸. يا أيها الناس اتی ولیکم "اے لوگوں میں تمہارا ولی ہوں" حدیث ۹۔
۹۹. يا ساری دمۃ من کمت مولاہ فعلی مولاہ "اے بریجہ جس کامیں مولا ہوں اس کے لیے بھی مولا ہیں" حدیث ۸۱، ۸۰۔
۱۰۰. يا ابنی عبد المطلب اتی بعثت اليکم بخاصة "اے بنی عبد المطلب میں خصوصا تمہارے لئے مبعث کیا گیا ہوں" حدیث ۶۵۔
۱۰۱. يازيد انت اخونا و مولانا "اے زید تمہارے بھائی اور بزرگوار ہو" حدیث ۷۷۔
۱۰۲. يا عائشة كيف رأيتي أنقتك "اے عائش تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کس طرح بچایا" حدیث ۱۰۰۔
۱۰۳. يا علی الا اعلمك کلمات اذا قلتهن "اے علی کیا میں تمہیں ان کلموں کی تعلیم دوں کہ اگر تم نے انھیں ادا کیا" حدیث ۲۶۔

۱۰۴. يا علی اما ترضی ان تكون متنی بمنزلة هارون من موسی "اے علی یا تم اس بات پر ارضی نہیں ہو کم کو مجھ سے وہی نہست ہے جو باروں کو موئی سے تھی" حدیث ۲۲۳۔
۱۰۵. يا علی انت متنی بمنزلة هارون من موسی "اے علی تم کو مجھ سے وہی نہست

۱۹. کنت ادخل علی نبی اللہ فان کان يصلی سبح "میں رسول خدا کی خدمت میں
چاتا اگر وہ نماز پڑھتے رہتے تھے تو تسبیح پڑھتے ہوئے مجھے اجازت دیتے تھے" حدیث ۱۱۳
۲۰. کنت اذا سالت اعطيت "جب میں آنحضرت سے کوئی سوال کرتا تھا تو مجھے
عطایا کیا جاتا" حدیث ۱۲۱، ۱۲۰.
۲۱. کنت اذا سالت رسول الله اعطانی "جب میں رسول خدا سے کوئی سوال کرتا تھا تو
آپ مجھے عطا فرماتے تھے" حدیث ۱۱۹.
۲۲. لم ارجعت الى النبي قال لى كلمة ما أحب أن لى بها الدنيا "جب میں
آنحضرت کی خدمت میں واپس پہنچا آپ نے مجھے ایک ایسی بات کی جس کے مقابلے
میں پوری دنیا کی حکومت پسند نہیں کرتا" حدیث ۱۵۰.
۲۳. لو لا ان بسطروا لابنائكم مارعده اللہ "اگر تم لوگ احساں برتری کے شکار
ہوتے تو میں تمہیں وہ بات بتاتا جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے" حدیث ۱۸۸، ۱۸۷.
۲۴. ما اعرف احداً من هذه الأمة عبد الله بعد نبيها غيري "نبی امت کے بعد
اس امت میں اپنے سوا کسی اور کوئی نہیں پہچانتا جس نے (کما تقد) اللہ کی عبادت و بندگی کی
ہو" حدیث ۸.
۲۵. والله لانقلب على أعقابنا بعد اذ هدانا الله "خدا کی حرم ہم اپنے پاٹی کی طرف
نہ پہنچیں گے جب کہ خدا ہماری پدایت کر چکا ہے" حدیث ۶۲.

۱۷. کامل کر دیا جائے "حدیث ۶۲.
۱۸. ان قد ذکر لی خارجہ تعریج من قبل المشرق وفیهم ذواللہیه "مجھے
ایک گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مشرق کی طرف سے نکلے گا جن میں ذواللہ یہ ہو گا"
حدیث ۱۸۵.
۱۹. انه لعهد النبي الامى لا يجعنى الا مؤمن "البتة نبی ایسی نے مجھے دعیت فرمائی
ہے کہ صرف مؤمن ہی مجھے محبت کرے گا" حدیث ۱۰۲، ۱۰۰.
۲۰. بي حفف عن هذه الامة "میرے ہی ذریعہ اس امت کو تخفیف دی گئی" حدیث ۱۵۲.
۲۱. صدق الله وبلغ رسوله "خداؤند عالم نے مجھے فرمایا اور اس کے رسول نے پیغام کو
پہنچا دیا" حدیث ۱۸۲.
۲۲. عهد النبي الامى لا يجعنى الا مؤمن "مجھے نبی ایسی نے عہد دعیت
فرمائی ہے کہ صرف مؤمن ہی مجھے دوست رکھے گا" حدیث ۱۰۱.
۲۳. كان لى من نبی الله مدخلان "میرے لئے رسول خدا کی خدمت میں چافر
ہونے کے دو وقت مقرر تھے" حدیث ۷۷.
۲۴. كانت لى ساعة من السحر "میرے لئے سحر کے وقت ایک وقت (آنحضرت
سے شرفیابی کے لئے) مقرر تھا" حدیث ۱۱۶، ۱۱۵.
۲۵. كانت لى منزلة من رسول الله لم تكن لأحد من العخلاف "رسول خدا کے
نزدیک میری وہ منزلت تھی جو کسی اور کو حاصل نہ تھی" حدیث ۱۱۸.
۲۶. كلمات الفرج: لا إله إلا العلي العظيم "خدا علی عظیم کے علاوہ کوئی محدود نہیں
کلمات فرج میں" حدیث ۲۷.
۲۷. كلمة حق أريد بها باطل "بات تحق بے گراس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے"
حدیث ۷۷.

فهرست اعلام

(الف)

- ابراهيم بن المتندر الحزامي المدنى : ح ١٩ .
- ابراهيم بن سعد بن ابراهيم : ح ١٣٧، ١٣٨ .
- ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص الزهرى : ح ٥٢، ٣٩، ٣٩ .
- ابراهيم بن سعيد الجوهرى البغدادى : ح ١١٣ .
- ابراهيم بن عبد الاعلى الجعفى الكوفى : ح ١٨١ .
- ابراهيم بن ميمون الصالح المرزوقي : ح ١٥١ .
- ابراهيم بن الجوزجاني الدمشقى : ح ١٣٥ .
- ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبئى : ح ١٨٠ .
- ابراهيم بن يونس : حرمى بن يونس .
- ابن ابي الشوارب = محمد بن عبد الملك بن محمد .
- ابن ابي عدى = محمد بن ابراهيم بن ابي عدى .
- ابن ابي عمر = محمد بن يحيى ابو عبدالله العدنى .
- ابن ابي ليلى : عبد الرحمن بن ابي ليلى : محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى .

ابو ليلي الانصارى : ح ١٥١، ١٣.

ابو مروان = محمد بن عثمان .

ابو مرير المدائى الكوفى : ح ١٢٢ .

ابو مسلمة : سعيد بن يزيد البصري : ح ١٦٣ .

ابو مصعب : احمد بن ابي بكر المدى : ح ٥٤، ٣٧، ٣٩ .

ابو مصعب بن المقدام الكوفى : ح ٩٢ .

ابو معاوية = محمد بن خازم الصنبرى .

ابو نجح العكى : ح ١٢٢ .

ابو نصرة العبدى : المنذر بن مالك البصري : ح ١٦٣، ١٢٩، ١٤٣ .

ابو نعيم = فضل بن دكين .

ابوهيرقة الدوسى اليعانى : ح ١٣٠، ٢١، ١٨ .

ابوهشام المخزومى : المغيرة بن سلمة البصري : ح ٢١ .

ابو يزيد المدى : ح ١٢٣ .

احمد بن ابي بكر الزهرى المدى = ابو مصعب .

احمد بكار العرائى : ح ١٣٨ .

احمد بن حرب الطانى الموصلى : ح ١٣٩، ١٣٢، ١٢٢، ٧٠ .

احمد بن خالد الوهبي الحمصى : ح ١٢٩، ٣٩، ٢٧ .

احمد بن سليمان الرهاوى : ح ٧، ١٨، ١٢، ١٣، ٢٨، ٢٢، ٣٦، ٣٥، ٣٩، ٤٣ .

احمد بن عبد الله ، ١٣٣، ١٣١، ١٣١، ١٢٣، ١٢٣، ١٠٦ .

احمد بن عبد الله بن الحكم البصري ابن الكردى : ح ١٢٢ .

احمد بن عثمان بن حكيم الاودى الكوفى : ح ٨٣، ٢٨، ٢٦ .

احمد بن يحيى الاودى الكوفى : ح ٣٠، ٣٠ .

اثامة بن زيد بن حارثة المدى مولوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

١٣٩، ١٣٨ ح .

اسباط بن محمد الكوفى : ح ١٢٢، ٧٦، ٣١ .

اسساط بن تصر الهمدانى الكوفى : ح ٦٣ .

اسحاق بن ابراهيم بن مخلد المروزى ابن راهويه : ح ٢٠، ٢٣، ٢٧، ٩٧، ٩٩ .

١٥٦، ١٢٣ .

اسحاق بن موسى بن عبد الله الانصارى الكوفى : ح ٣٨ .

اسد بن عبد الله الجعلى القسرى : ح ٢ .

اسرتيل بن يونس بن ابى اسحاق السعى : ح ٢٧، ٣٠، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٩، ٢٧ .

٢٠، ١٩٣، ١٩٣، ١٨١، ١٧٩، ١٠٤، ٩٩ .

اسمعائيل بن ابى خالد الجعلى الكوفى : ح ١٨٩ .

اسمعائيل بن رجاء بن ربعة الزبيدى الكوفى : ح ١٥٦ .

اسمعائيل بن عبد الرحمن = السدى .

اسمعائيل بن مسعود البصري : ح ٥، ١٠٣، ١٢٣ .

اسمعائيل بن يعقوب بن اسماويل العرائى : ح ١٠٧ .

اسماء بنت عميس : ح ١٢٣، ٢٣، ٢١ .

اشعث بن عبد الملك البصري : ح ١٣٣ .

الاجلخ بن عبد الله الكلدى الكوفى : ح ٨، ٨٩ .

الاحرص بن جواب ابوالجواب الكوفى : ح ٧، ٧ .

الاسود بن عامر: شاذان الشامي البغدادى : ح ٣١ .

الاسود بن مسعود البصري : ح ١٦٣ .

الاعمش = سليمان بن مهران .

الاواعى : عبد الرحمن بن عمرو .

البراء بن عازب : ح ٩٣، ١٩٣، ٨٧، ٦٩ .

- الحكم بن عبد الملك البصري الكوفي: ح ١٠٣.
 الحكم بن العبيه الكوفي الكندي: ح ٨١، ٨٠، ٥٥، ١٣، ٥٢.
 الدراوردي: عبد العزيز بن محمد.
 الزهرى = محمد بن مسلم.
 السدى: اسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي: ح ١٠١.
 الشعبي = عامر بن شراحيل.
 الضحاك بن شراحيل المشرقي الكوفي: ح ١٤٦، ١٤٣.
 العلاء بن صالح الكوفي: ح ٧.
 العلاء بن عرار الكوفي: ح ١٠٤، ١٠٣.
 العلاء بن هلال الرقى: ح ١٠٩.
 القوام بن حوشب الواسطي: ح ١٢٥، ١٢٣.
 العيازى بن حرثت العبدى الكوفي: ح ١١٠.
 الفضل بن دكين ابو نعيم الكوفي: ح ١٣١، ١٣٠، ١٣١، ١٨، ٦٣، ٥٩، ٣٥.
 الفضل بن سهل البغدادى: ح ٢٥، ٥٨.
 الفضل بن مساور ابو المساور البصري: ح ١١٩.
 الفضل بن بن موسى السباني المروزى: ح ١٥٧، ١٢٣، ١٠٢، ٩٨، ٣٠.
 القاسم بن الفضل البصري: ح ١٧٤.
 القاسم بن زكرياء بن ديار الكوفي: ح ١٢٩، ١٢٨، ١٣٩، ١١٨، ٥٩، ٣٥.
 القاسم بن يزيد الجرمي الموصلى: ح ١٥٢، ١٣٩، ٧٠.
 الليث بن ابي سليم الكوفي: ح ٥٢.
 الليث بن سعد المصرى: ح ١٣٢، ١٣٣.
 المسور بن مخرمة الزهرى: ح ١٣٤، ١٣٣.

- الجعید بن عبد الرحمن المدنی = الجعید بن عبد الرحمن: ح ٥٧.
 الحارث بن حصیرة الازردى الكوفي: ح ١٠٣، ٦٦.
 الحارث بن عبدالله الااعور الهمدانى الكوفي: ح ٣٠.
 الحارث بن مالك: ح ٢٠، ٣٠.
 الحارث بن مسکین البصري: ح ١٤٤، ١٤٥.
 الحارث بن نوفل بن الحارث عبد المطلب الهاشمى: ح ١٣٧.
 الحارث بن يزيد العکلى الكوفي: ح ١١٣، ١١٣.
 الحسن البصري = الحسن بن ابي الحسن.
 الحسن بن ابى الحسن البصري ابو سعيد: ح ١٢١، ١٥٩، ١٣٣.
 الحسن بن اسامه بن زيد المدنى: ح ١٣٩.
 الحسن بن اسماعيل بن سليمان المصيصى: ح ٥٢.
 الحسن بن حماد الوراق الكوفي: ح ١٠.
 الحسن بن صالح بن حى الكوفي: ح ٢٣.
 الحسن بن عبد الله العرنى: ح ١٤٣.
 الحسن بن على بن ابيطالب عليه السلام: ح ١١، ٢٣، ٥٢، ٢٣، ١٢٩، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٠.
 الحسن بن مدرك البصري: ح ١٨٢.
 الحسين بن حرثت المروزى: ح ٩٨، ٣٠.
 الحسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام: ح ١١، ١٣، ٥٣، ١٢٩، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٨، ١٣٩، ١٣٥.
 الحسين بن عياش الرقى: ح ١٠٨، ١٠٥.
 الحسين بن واقد المروزى: ح ١٥، ٣٠.
 الحكم بن عبد الرحمن: بن ابى نعم الكوفي: ح ١٣٣.

بکیر بن الاشج. بکیر بن عبد الله الاشج: ح ١٧٧.

بکیر بن مسمار المدنی: ح ٥٣، ١١.

بنت حمزة بن عبد المطلب سید الشهداء: ٢٠ و ١٩٣، ١٩٣.

بنو عبد المطلب: ح ٢٥.

بیهیز بن اسد العمی البصري: ح ١٧٢.

(ج)

جاہر بن عبد الله الانصاری: ح ٢٤.

جریل: ح ١٣٢، ١٣١.

جویر بن حازم البصري: ح ١٣٥.

جویر بن عبد الحمید الرازی: ح ١٢٩، ١٥٩، ١٥٣١٢٩، ١١٩، ٢٠.

جهنر بن ابی طالب الطیار: ح ١٩٣، ١٩٣، ٢٠.

جهنر بن زیاد لأحمر الكوفی: ح ١٣٨، ١١٣.

جهنر بن سلیمان الضبعی البصري: ح ٨٨، ٣٧، ٣٣.

جهنر بن عون الكوفی: ح ٩١، ٦٢.

جمعیع بن عمر کوفی: ح ١١٣، ١١١.

(ح)

حاتم بن اسماعیل المدنی: ح ١١.

حاتم بن وردان البصري: ح ١٢٣.

حارثه بن مضرب الكوفی: ح ١٥٧، ٣٢.

حشی بن جنادة السلوی: ح ٧٣، ٣٨.

حجه بن جوین العرنی الكوفی: ح ١.

حیب بن ابی لایت الكوفی: ح ٢٧، ٢٧.

حجاج بن محمد الاعور: ح ١٢١.

المطلب بن زیاد الكوفی: ح ٥٦.

المغيرة بن سلمه. ابو هشام المخزومنی.

المغيرة بن مقسم الكوفی: ح ١٥٥، ١٥٣، ١١٧، ١١٦.

المندب بن مالک. ابو نضرة العبدی.

النهال بن عمرو الكوفی: ح ١٢٣، ٩٧، ٢٣.

النعمان بن بشیر الانصاری المدنی: ح ١١٠.

الوضاح بن عبد الله ابو عوانة الواسطی: ح ١٨٣، ١٧٠، ١٣٢، ٧٨، ٢٥، ٢٣، ٢٢.

الولید بن کثیر المدنی الكوفی: ح ١٣٧.

الولید بن مسلم الدمشقی: ح ١٧٦.

ام الحسن البصري و اسمها خیرة: ح ١٤١، ١٥٨.

ام ایمن: ح ١٢٥، ١٢٣.

ام سلمة المخزومنیة: ح ١٨٣، ٩٠، ١٥٣، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٨، ١٥٥.

ام موسی سریہ علی: ح ١٥٥، ١٥٣.

انس بن مالک: ح ١٠، ٢٣، ٢٣.

ایمن الحشی المکی: ح ٨٣، ١٣.

ابوبن ابراهیم الفقی المروزی: ح ١٥١.

ابوبن ابی تیمیه السخیانی البصري: ح ١٥٩، ١٢٥، ١٢٣.

(ب)

بریدة بن الحصیب الاسلامی: ح ١٥، ١٥، ١٥، ٢٩، ١٤، ١٣، ٩٧، ٨٩، ٨١.

سر بن سعید المدنی: ح ١٧٧.

بشر بن السری البصري المکی: ح ١٣٣.

بشر بن شعیب بن ابی حمزة الحمصی: ١٣٦.

بشر بن هلال البصري: ح ٦٧، ٦٣.

(ن)

(ر) ربيعى بن حراش الكوفى: ح ٣١، ٢٢
ربعية ناجد الكوفى: ح ١، ٣، ٣٥
رجاء بن ربعة الزبيدى الكوفى: ح ١٥٦

(ز) زاذان الكوفي: ح ١٢١
 زر بن حبيش الكوفي: ح ١٠٠، ١٠٢، ١٤٩
 زكريا بن أبي زالدة الكوفي: ح ١٣١
 ذكرياء بن يحيى السجزي والمجتالي: ٥٠، ١١٣، ٩٤، ٩٣، ٨٣، ٧٥، ٧٢، ٢٢، ٥٤
 زهير بن معاوية الكوفي الجزرى: ح ٨، ١٠٥
 زيد بن ابي النسبة الجزرى الراهوى: ح ٩
 زيد بن ارقم: ٨٣، ٧٨، ٣٨، ٥، ٢
 زيد بن حارث ابو اسامه: ح ٩٣، ١٩٣
 زيد بن حباب الكوفي: ٦٨

(س) سالم بن أبي الجعد الكوفي: ح ١٥٢
سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنى: ٥٢

٣٢ حرب بن شاد البصري: ح

١٢٣ حرمي بن يونس البغدادي الطرسوسي: ابراهيم: ح

١١٨ حماد بن ابعة ابواسامة الكوفي: ح

٥٠ حماد بن زيد البصري: ح

٧٣ حماد بن سلمة البصري: ح

٥٨ حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنى: ح

٦٩ حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء: ح ١٩٣، ٧٠ و

١٤٠ حميد بن مسعدة البصري: ح

٣٥ حنش بن المعتمر الكوفي: ح

١٢٣، ١٩٥ حنظلة بن خويلد = مسويد العنزي: ح

(خ) خالد بن أبي يزيد أبو عبد الرحيم الحراني: ح ١١٣
 خالد بن العمارت البصري: ح ١٢١، ١٢٣، ١٠٣، ٥
 خابد بن الوليد المخزومي: ح ٩٧، ٨٩
 خالد بن قشم بن العباس بن عبد الطلب: ح ١٠٩
 خالد بن مخلد القطوانى الكوفى: ح ١٣٩، ٢٨، ٤٦
 خالد بن مهران الحلاء البصري: ح ١٢٢، ١٥٩، ١٥٨
 خديجة بن خويلد: ح ٢٣، ٢
 خلف بن تميم الكوفي المتصichi: ح ٩٩، ٨٦، ٢٩
 خيمه بن عبد الرحمن الكوفي: ح ١٧٨

(و) اود بن ابی هند البصري : ح ١٦٩
اود بن كثير الرقبي : ح ٣٨

- عبد العزيز بن محمد الدروري المدنى: ح ٣٦، ٣٧، ٥٨، ٧٤
- عبد الله ابن الهذيل الكوفى: ح ٨
- عبد الله بن ابى يكرب بن زيد بن المهاجر: ح ١٣٩
- عبد الله بن ابى نجح المكى: ح ١٢٢، ١٣٢
- عبد الله بن ادريس الكوفى: ح ٣
- عبد الله بن العمارث بن نوقل المدنى: ح ١٣٨، ١٤٧، ١٤٨
- عبد الله بن الرقيم الكتانى الكوفى: ح ٣١، ٥٩، ٦٩
- عبد الله بن بريدة الاسلامى المروزى: ح ١٥، ١٩، ٢٩، ٣٩، ٩٧
- عبد الله بن حبيب بن ابى ثابت الكوفى: ح ٥٨
- عبد الله بن داود الغربى: ح ١٣، ٨٢
- عبد الله بن سعيد الاشج الكوفى: ح ٣
- عبد الله بن سلمة المرادى الكوفى: ح ٢٥، ٢٩
- عبد الله بن شريك العامرى الكوفى: ح ٣٠، ٥٩، ٦١، ٦٠
- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: ح ٢٣، ٣٢، ٤٣، ٨١، ٩٠، ١٢٥
- عبد الله بن عبيد الله بن ابى مليكة المكى: ح ١٣٣، ١٣٥
- عبد الله بن عثمان بن خثيم المكى: ح ٧٤
- عبد الله بن عطاء: ح ١١٣
- عبد الله بن عمر بن الخطاب: ح ١٠٣، ٥٧، ١٠٧، ١٣٥
- عبد الله بن عمر بن محمد الكوفى مشكداه: ح ٣١، ٦٠
- عبد الله بن بن عمرو العاص: ح ١٢٣، ١٢٨
- عبد الله بن بن عمرو الجملى الكوفى: ح ١١٩
- عبد الله بن عون البصرى: ح ١٢٠، ١٢١، ١٨٧
- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهرى: ح ٥٨

- عبد بن عبد الله الاسدى الكوفى: ح ٧
- عباس بن عبد العظيم العبرى البصرى: ح ٢٢، ٤٨
- عباس بن عبد المطلب بن هاشم: ح ٦، ٣٠، ١٠٩
- عباس بن محمد الدورى البغدادى: ح ٧١، ٧٥، ٩٠
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى: ح ١٢٩
- عبد الأعلى بن واصل الكوفى: ح ٩١، ١٢٣، ١٣٧، ٩١
- عبد الجليل بن عطيه القيسى ابو صالح البصرى: ح ٩٧
- عبد الرحمن ابن ليلى الانصارى الكوفى: ح ١٣٢، ٢٤، ٣٩، ١٥١
- عبد الرحمن بن ابى نعم الكوفى: ح ١٢٩، ١٣٠، ١٣٥
- عبد الرحمن بن ثروان = ابوقيس الاردى
- عبد الرحمن بن خالد: ح ٨٠، ١٠٨
- عبد الرحمن بن زياد او ابى زياد مولى بنى هاشم: ح ٦٧، ١٦٨
- عبد الرحمن بن سابط المكى: ح ١٢
- عبد الرحمن بن صالح الكوفى البغدادى: ح ١٩١
- عبد الرحمن بن عمرو الاذاعى الشامى: ح ٦٢، ١٧
- عبد الرحمن بن غزوان ابو نوح قراد البغدادى: ح ٧٥
- عبد الرحمن بن ملجم المرادى: ح ١٥٣
- عبد الرحمن مهدى الصناعى: ح ٢١، ٩٠
- عبد السلام بن حرب الكوفى: ح ١٢، ٣٥
- بعد الصمد بن عبد الوارث البصرى: ح ٦٢
- عبد العزيز بن ابى سلمة الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن ابى سلمة المدنى البغدادى: ح ٥١، ٣٩
- عبد العزيز بن الخطاب الكوفى البصرى: ح ١٢٤

- عثمان بن محمد ابراهيم بن اب شيبة ابو الحسن العيسى الكوفي: ح ٦٦
 عدى بن ثابت الانصارى الكوفي: ح ١٠٢، ١٠٠
 عطاء بن السائب الكوفي: ح ٧٤، ١٠٠
 عفان بن مسلم بن البصرى البغدادى: ح ٧٥، ٦٥
 عفيف الكلدى: ح ٩
 عكرمة بن عمارة العجلن اليمامى: ح ١٩٠
 عكرمة مولى ابن عباس: ح ١٢٢، ١٢٥، ٢٣
 علقة بن قيس الكوفي: ح ١٩١
 على بن ابي طالب: ح ٢١، ٨، ٢٣، ٣٧، ٢٩، ٢٥، ٨، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٣٧، ٢٩، ٢٥، ٧٢، ٧٤، ٧٥، ٨٣، ٨٣
 على بن الحسين بن على ابيطالب زين العابدين: ح ١٣٧، ٣٦
 على بن المنذر الطريقى الكوفي: ح ١٨٣، ٨
 على بن ثابت الدهان الكوفي: ح ١٣٧
 على بن حجر المرزوقي: ح ١٥٣
 على بن خثرم المرزوقي: ح ٣٣
 على بن زيد بن جدعان البصرى: ح ٥١، ٥
 على بن صالح ابن صالح بن حى الهمدانى الكوفي: ح ٣٠، ٢٩، ٢٥
 على بن قادم الكوفي: ح ١٣٨، ٢٠، ٣٠
 على بن محمد بن على قاضى المصيصة: ح ٩٩، ٨٢، ٢٩
 على بن هاشم بن البريد الكوفي: ح ١٧٨
 عمار بن هاشم بن البريد الكوفي: ح ١٧٨
 عمار بن ياسر ابو اليقطان: ح ١٦٨، ١٥٨، ١٥٣
 عمارنة بن القعقاع الكوفي: ح ١١٥

- عبد الله ابن محمد ابن يحيى الترقوسى: ح ١٩٧
 عبد الله بن نجوى الحضرمى الكوفى: ح ١١٨، ١١٣
 عبد الله بن نمير المهدانى الكوفى: ح ٦٦
 عبد الله بن وهب الراسى: ح ١٨٦
 عبد الله بن وهب بن زمعة الاسدی الاصغر: ح ١٢٨
 عبد الله بن مسلم المھرى: ح ١٧٧، ١٧٥
 عبد الملك بن ابى سليمان الكوفى: ح ١٨٦
 عبد المک ابى غنية = عبد المک بن حمید بن ابى غنية
 عبد المک بن جربج = عبد المک بن عبد العزیز بن جربج
 عبد المک بن حمید بن ابى غنية الكوفى: ح ١٣٨، ٨١، ٨٠
 عبد المک عبد العزیز بن جربج المکى: ح ١٢١، ٧٧
 عبد الواحد بن ایمن المکى: ح ٨٢، ١٣
 عبد الواحد بن زیاد البصري: ح ١١٥
 عبد الوهاب بن عبد المجید البصري: ح ١٢٧
 عبدة بن عبد الرحيم المرزوقي الدمشقى: ح ١١٠
 عبد الله بن ابى رافع المدنى: ح ٧٧
 عبد الله بن سعد بن ابراهيم البغدادى: ح ١٣٧، ٥٣
 عبد الله بن عمرو والرقى: ح ١٠٩
 عبد الله بن موسى العيسى الكوفى: ح ٧، ٧، ١٣، ١٢٩، ١٠٢، ٨٥، ٦٨، ١٣، ١٩٣
 عبيدة السلمانى الكوفى: ح ١٨٨، ١٨٦
 عثمان بن ابى شيبة = عثمان بن محمد ابراهيم بن ابى شيبة
 عثمان بن المغيرة الكوفى: ح ١٥٢، ٦٥
 عثمان بن عفان خليفة سوم: ح ١٠٦، ١٠٣

(غ)

غلدر = محمد بن جعفر

(ف)

فاطمة بنت علي بن ابيطالب : ح ٢١، ٢٣

فاطمة زهرا دختر محمد رسول الله : ح ١١، ٤٠، ٥٣، ٤٣، ١١٣، ١١١، ١٢٣، ١١٣، ١١١، ١٢٣، ١٢٦، ١٩٣، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٣، ١٣٢، ١٣٤، ١٢٦

فراس بن يحيى الكوفي : ح ١٣٢، ١٣١

فضيل بن حميس ابو كامل البصري : ح ١١٥

فضيل بن ميسرة ابو معاذ البصري : ح ١٥٠

فطير بن خليفة الكوفي : ح ٣٠، ٣١، ٥٩، ٢٦، ٩٣، ٩٢، ٢٦

(ق)

قنادة بن دعامة البصري : ح ١٧، ٢٣

قبيبة بن سعيد الباضي البغدادي : ح ١١، ١٧، ١٩، ١٧، ١٣٣، ٨٨، ٨٣، ١٩، ١٨٢، ١٧

قشم بن العباس بن عبد المطلب : ح ١٠٨

(ك)

كليب بن شهاب الجرمي الكوفي : ح ١٨٣

(م)

مالك بن اسماعيل النهدي = ابو غسان مالك بن مغول الكوفي : ح ٢٦

محاضر بن المورع الكوفي : ح ١٤٣

محمد بن ابراهيم بن ابى عدى البصري : ح ١٨٧، ٨٣

محمد بن ابراهيم صدران البصري : ح ١٢٥

عمران بن ابان الواسطي : ح ٨٧

عمران بن بكار الحمصى : ح ١٢٩

عمران حسين الخزاعي : ح ٨٨، ٦٢، ٢٢

عمر بن الخطاب : ح ١٠، ١٣، ١، ١٩، ١٩، ١٣، ١٣١، ٢٣، ٢١، ١٩٣، ١٣١، ٢٣، ٢١، ١٧٥، ١٥٦، ١٢٣، ٧١، ٣١، ٢٣، ٢١، ١٧٥

عمر بن عبد الوهاب البصري : ح ٢٢

عمر بن الحارث المصري : ح ١٧٤

عمرو بن العاص : ح ١٦٨

عمرو بن جبى التبیدى الكوفي : ح ٣٧

عمرو بن حماد بن طلحة = عمرو بن طلحه

عمرو بن دينار المکى : ح ١٣٥، ٣٩

عمرو بن طلحه القناد الكوفي : ح ٢٣

عمرو بن على الفلاس البصري : ح ١٩٠، ١٧١، ١٥٨، ١١٢، ٢١، ٢٣

عمرو بن قيس الملائى الكوفي : ح ١٨٩

عمرو بن محمد العنقرى الكوفي : ح ١١٠

عمرو بن مرو المکوى : ح ١٢٠، ٢٤، ٢٥، ٥، ٢

عمرو منصور النسائى : ح ١٦٨، ١٣٠

عمر بن ميمون الاوردى الكوفي : ح ٣٣، ٣٢، ١٢٣

عمرو بن هاشم ابو مالك الجنى الكوفي : ح ١٩١، ١٨٩

عمرو ذور الهمدانى الكوفي : ح ١٥٢، ٩٩

عميرة بن سعد اليامي الكوفي : ح ٨٣

عوف بن ابى جميلة الاعرابى البصري : ح ١٦، ١٨٨، ١٧١، ١١٩، ٨٣، ٣٨، ١٢

عيسى بن عمر الهمدانى الكوفي : ح ١٠

عيسى بن مريم رسول الله : ح ١٣٣، ١٠٣

عيسى بن يونس بن ابى اسحاق السبئى الكوفي : ح ٣٣

- محمد بن عبد الأعلى الصناعي البصري : ح ١٢٣، ١٢١، ١٢٢ .
- محمد بن عبد الرحمن ابى ليل الانصارى الكوفى : ح ١٣٢ .
- محمد بن عبد الرحيم البغدادى صاعقة : ح ٩٣ .
- محمد بن عبد الله بن الزبير ابو احمد الزبيرى الكوفى : ح ١٣٥ .
- محمد بن عبد الله بن الزبير ابو احمد الزبيرى الكوفى : ح ١٣٠، ٨٠، ٥٨، ٤٥ .
- محمد بن عبد الله بن المبارك ابو جعفر المخرمي البغدادى قاضى حلوان : ح ١٩٣، ١٠٣، ٣١، ٢١ .
- محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى المخرمى ابو جعفر : ح ١٥٢ .
- محمد بن عبد الملك بن ابى الشواب البصري : ح ٥٠ .
- محمد بن عبد بن حساب البصري : ح ١١٥ .
- محمد بن عبد بن محمد الكوفى المحاربى : ح ١٨٩، ١١٤، ٦ .
- محمد بن عثمان بن خالد ابو مروان المدى المكى : ح ٧٢ .
- محمد بن على بن الحسين ابو جعفر الباقر : ح ٣٩ .
- محمد بن على بن حرب المرزوقي : ح ١٥ .
- محمد بن عمرو بن حلجه المدى : ح ١٣٧ .
- محمد بن عمرو بن علقمة الليثى المدى : ح ١٢٧ .
- محمد بن فضيل بن غزوان الكوفى : ح ١٨٣، ١٢٢، ٨٩، ٨ .
- محمد بن قدامة المصيصى : ح ١٢٩، ١٥٦، ١٥٥، ١١٦ .
- محمد بن كعب القرظى المدى : ح ١٥٣ .
- محمد بن مروان ابو جعفر الكوفى : ح ١٣٠ .
- محمد مسلم بن شهاب الزهرى المدى : ح ١٤٦، ١٤٥، ١٣٢، ١٣٤ .
- محمد بن مصفي بن بهلول الحمصى : ح ١٧٨ .
- محمد بن معاوية بن يزيد الانطاطى البغدادى : ح ١٧٨ .

- محمد بن اسامة بن زيد المدى : ح ١٣٨ .
- محمد بن اسحاق بن يسار المدى : ح ١٩١، ١٥٣، ١٣٨، ١٢٦، ٥٣ .
- محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البصري الدمشقى القاضى : ح ١٣١ .
- محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي الكوفى : ح ١١٢ .
- محمد بن العلاء الهمданى ابو كريب الكوفى : ح ١٨٣، ١٨٠، ١٠٠، ٢٩، ٣٤ .
- محمد بن المثنى البصري الزمن : ح ١، ٣، ٣٢، ٢٣، ٧٨، ٥٣، ١٥٠، ١٢٠، ١٥٢ .
- محمد بن المتكدر المدى : ح ٥١، ٣٩، ٣٨ .
- محمد بن الوليد البصري حمدان : ح ١٦٢ .
- محمد بن بشار البصري بندار : ح ١٩٢، ١٢٤، ١١٩، ٧٣، ٥٥، ٥٢، ٣٨، ١٢ .
- محمد بن جعفر ابو عبد الله البصري غندر : ح ٨٥، ٥٥، ٥٢، ٣٨، ١٢، ٣ .
- محمد بن خاز الضير ابو معاوية الكوفى : ح ١٨٣، ١٢٤، ١٢٠، ١٠٠، ٧٩، ٣٣ .
- محمد بن خالد البصري بن عثمة : ح ١٢٨، ٩٥، ٩ .
- محمد بن خالد بن خلي الحمصى : ح ١٣٦ .
- محمد بن خثيم المحاربى العجراوى : ح ١٥٣ .
- محمد بن سلمة العرائى : ح ١٥٣، ١٣٨، ١١٣ .
- محمد بن سليمان بن ابى داود العرائى : ح ٩٣ .
- محمد بن سليمان بن حبيب المصيصى لوبن : ح ٣٩ .
- محمد بن سواد البصري : ح ١٨٨، ١٨٧ .
- محمد بن صدران = محمد بن ابراهيم بن صدران .
- محمد صفوان الجمحى المدى : ح ٣٢ .
- محمد طلحة بن يزيد بن ركانة العجراوى : ح ٥٣ .

- محمد بن معاشر البحراوى البصري : ح ١٢٣
 محمد بن منصور الطوسي البغدادى : ح ١٣٠
 محمد بن موسى بن اعين الجزرى العرائى : ح ١٠٧
 محمد بن نافع عجیر الحجازى : ح ٧٢
 محمد بن وهب العرائى : ح ١٥٣، ١١٢، ٥١، ٣٢
 محمد يحيى بن ابي عمر ابو عبد الله العدنى المكى : ح ١٣٦، ٩٦، ٧٢
 محمد بن يحيى ايوب المرزوقي : ح ١٥١
 محمد بن يحيى بن عبد الله النسابورى : ح ٨٣، ٩٣
 مخلد بن يزيد العرائى : ح ١٨١
 مرحب الخيرى : ح ١٤
 مروان بن معاوية الكوفى الدمشقى : ح ١٣٣
 مريم بنت عمران : ح ١٢٩، ١٢٧
 مسروق بن الاحدع الكوفى : ح ١٣٢، ١٣١
 مسکین بن بکير العرائى : ح ٥١، ٣٢
 مسلم بن ابی سهل النبیال : ح ١٣٩
 مسهر بن عبد الملک الكوفى : ح ١٠
 مصعب بن سعد بن ابی وقاص المدنسى : ح ٥٥
 مطرف بن عبد الله البصري : ح ٨٨، ٦٤
 معاذ بن خالد المرزوقي : ح ١٥
 معاوية بن ابی سفیان : ح ١١، ٨٩، ١٨٢، ١٢٨، ١٢٣، ١٢٩، ٥٣
 معاوية بن صالح الدمشقى : ح ١٩١
 معاوية بن هشام القصار الكوفى : ح ٣٧
 معتصر بن سليمان بن طرخان البصري : ح ١٨٨، ١٧٣، ٢٢
 معن بن عيسى المدنسى : ح ٩٣

- منصور بن ابی الاسود الكوفى : ح ١٣٧
 منصور بن المعتصر الكوفى : ح ٣١، ٢٢
 موسى بن اعين الحرانى : ح ١٠٧
 موسى بن طارق ابو قرة الزبيدي اليماني : ح ٧٧
 موسى بن عبد الله العجهنى الكوفى : ح ٤٣، ٤١
 موسى بن عمران و آخوه هارون : ح ١٢٩، ٦٣، ٣٣
 موسى بن قيس الحضرمى الكوفى : ح ١٨٥
 موسى بن مسلم الصغير الكوفى : ح ١٢
 موسى بن يعقوب الزمعى المدنسى : ح ١٣٩، ١٢٨، ٩٥، ٩٣، ٩
 مهاجر بن مسحار المدنسى : ح ٩٤، ٩٣، ٩
 ميمون ابو عبدالله البصري : ح ٨٣، ٣٨، ١٢
 ميمون بن ابی شيبة الكوفى : ح ١٧٣
 (ن)
 ناجية بن كعب الاسدی الكوفى : ح ١٣٩
 نافع بن عجیر الحجازى : ح ٧٢
 نعیي الحضرمى الكوفى صاحب مطہره على : ح ١١٨
 نصر بن على بن نصر الجهمى البصري : ح ٨٢، ١٣
 نعیم بن حکیم المدنسى : ح ١٢٢

- (و)
 واصل بن عبد الاعلى الكوفى : ح ١٠١، ٨٩
 وکیع بن الحراح الرواسى الكوفى : ح ١٠١
 وهب بن جریر بن حازم المصرى : ح ١٣٥
 وهب بن خالد البصري : ح ٢١

- يزيد الرشك = يزيد بن أبي يذيد .
 يزيد بن أبي يذيد الرشك البصري : ح ٨٨, ٢٤
 يزيد بن زريع العيشى البصري : ح ١٤٠
 يزيد بن عبد الله اسامه اليتى المدنى : ح ٧٢
 يزيد بن عبدالله بن قسيط المدنى : ح ١٣٨
 يزيد بن كيسان الكوفى : ح ١٨
 يزيد بن محمد بن خثيم المعجربى : ح ١٥٣
 يزيد بن مردانه الكوفى : ح ١٠٣
 يزيد بن هارون الوسطى : ح ١٦٣
 يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهرى البغدادى : ح ١٣٧, ٥٣
 يعقوب بن ابراهيم بن كثير الدررورى : ح ١٣٣
 يعقوب بن جعفر بن ابي كثير المدنى : ح ٩٢
 يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى المدنى : ح ١٩٠, ١٧
 يعلى بن عبيد الكوفى : ح ١٨
 يوسف بن ابي سلمة الماجشون = يوسف بن يعقوب بن ابي سلمة .
 يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق السبئى : ح ١٨٠
 يوسف بن سعيد المصيصى الانطاكي : ح ١٢١
 يوسف بن عيسى المرزوقي : ح ١٥٧, ١٠٢
 يوسف يعقوب بن ابي سلمة الماجشون المدنى : ح ٣٩
 يونس بن ابي اسحاق السبئى الكوفى : ح ١١٠, ٧٥, ٧١, ٢٣
 يونس بن عبد الاعلى المصرى : ح ١٧٥
 يونس بن يزيد الأيلى : ح ١٥

- (ه)
 هارون بن عبد الله الحمال البغدادى : ح ٩٢, ٢٥
 هاشم بن مخلد التقى المرزوقي : ح ١٥١
 هاشم بن هاشم بن عتبة الزهرى المدنى : ح ١٢٨, ٣٧
 هانى بن ابروب العنفى الكوفى : ح ٨٣
 هانى بن هانى الهمدانى الكوفى : ح ٢٠, ٩٣
 هبيرة بن بريم الكوفى : ح ٢٣, ٧٠, ٩٣
 هشام بن عمارة الدمشقى : ح ١١
 هلال بن العلاء بن هلال الرقى : ح ١٠٨, ١٠٥
 هلال بن بشر البصري : ح ١٢٨, ٩
 (ى)
 يحيى بن آدم الكوفى : ح ١٩٣, ١٣٣, ٧٣, ٣٦, ٣٥
 يحيى بن ابي بكر الكرمانى البغدادى : ح ٩٠
 يحيى بن ابي سليم او سليم بن بلج ابر بلج الفزارى : ح ١٨٢, ٣٣, ٣٢, ٢٣
 يحيى بن حماد البصري : ح ١٨٢, ٧٨, ٣٣, ٢٣
 يحيى بن ذكريانى الله : ح ١٣٣
 يحيى بن سعيد بن فروغ القطنان البصري : ح ١٧١, ٦١, ٢٣
 يحيى بن سعيد قيس الانصارى المدنى : ح ٣٥
 يحيى بن عبد الملك بن حميد بن ابي غنية الكوفى : ح ١١١
 يحيى عفيف الكندى : ح ٦
 يحيى معين البغدادى : ح ١٠٣
 يزد بن ابي زياد الكوفى : ح ١٣٨, ١٣٧, ١٣٢, ١٣١, ١٢٩

عشیرة: ح ۱۵۳
 غارثور: ح ۲۲
 غدیر خم: ح ۹۹، ۹۸، ۹۶، ۸۷، ۷۸
 کعبه: ح ۲۲ و ۶
 کوفه: ح ۱۵۷، ۱۳۶، ۹۹، ۹۲، ۸۷، ۸۳
 مدینه: ح ۱۳۷، ۱۰۷، ۳۳، ۳۸، ۲۳
 مسجد النبی: ح ۱۳۷
 مکہ: ح ۱۹۳، ۱۳۳، ۷۷، ۷۵، ۷۰، ۳۰، ۲۶
 نہروان: ح ۱۸۹، ۱۸۲
 یمن: ح ۸۹، ۸۱، ۸۰، ۳۷، ۳۲

قبیلہ اور گروہ
 اصحاب الشجرة: ح ۲۳
 بن مدلج: ح ۱۵۳
 سوولیعہ (پادشاہان حضرموت): ح ۷۱
 بوہاشم بن المغیرہ: ح ۱۳۳ و ۱۳۴
 جمل (اصحاب جمل): ح ۱۸۹
 خوارج (مارقون اصحاب نہروان سروریہ): ح ۱۹۰، ۱۹۱
 قریش: ح ۳۱
 النصاری: ح ۱۰۳
 یہود: ح ۱۰۳

فهرست اماکن

احمد: ح ۱۰۳ و ۱۰۶
 ترمیمون: ح ۲۳
 بیوک: ح ۵۵، ۵۳، ۳۷، ۳۳، ۲۲ و ۵۸
 جعلانہ: ح ۷۷
 حدیبیہ: ح ۱۹۰، ۱۹۳
 خندق: ح ۱۹۰ و ۱۶۱
 خیبر: ح ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴ و ۵۳
 دیزجان (بل دیز جان): ح ۱۸۵
 شام: ح ۱۸۶
 عراق (اہل عراق): ح ۱۴۳ و ۱۳۵

فهرست متألف و مآخذ

١. احاديث و مثنى، الاحاديث و المثنى ابن ابي عاصم، تحقيق الدكتور باسم فيصل احمد الجوابرة، دار الرأي، رياض ١٣١١.
٢. ايات القضاة: محمد بن لف بن حيان الوكي، عالم الكتب، بيروت.
٣. اربعين زاعى: كتاب الأربعين عن الأربعين طى فضائل على امير المؤمنين عبدالرحمن بن احمد بن الحسين البسابوري.
٤. ارشاد مقيد: الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، ابي عبدالله محمد بن محمد بن السعدي البغدادي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، المؤتمر العالمي للقية الشی المقید، قم ١٣١٣ق.
٥. اسد الغابة: اسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين على بن ابي الكرام المعروف بابن الأثير، بيروت.
٦. الاصابة: الاصابة في تمييز الصحابة ابن ابي جحر عقلاتي تحقيق على محمد الجاوي، بيروت، ١٣١٣ق.
٧. امالی میسیہ: کتاب الامالی، الامام مرشد بالله یحیی بن الحسین الشحری، عالم الكتب، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٨. امالی سید ابو طالب: تيسیر المطالب في امالی ابو طالب، تریج جعفر بن احمد

١٠. كروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣١٠هـ.
١٠. تارى بغداد: تارى بغداد او مدينة السلام، احمد بن على الطيب البغدادى، المكتبة السلفية، مدينة متور.
١١. تارى التقات عجلی: تارى التقات، احمد بن عبد الله بن صالح ابى الحسن العجل، ترتیب نور الدین علی بن ابی بکر الہبی، تعلیق الدكتور عبد المعطی قلعی، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٠٥هـ.
١٢. تارى جرجان: السهمی، عالم الكتب، بيروت، ١٣٠١هـ.
١٣. تارى طبری: تارى الأسم والملوک، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم، بيروت.
١٤. تارى کبیر: كتاب التاری الكبير، اسماعیل بن ابراهیم الجعفی الباری، دار الكتب العلمية، بيروت.
١٥. تذكرة الحفاظ: ابو عبد الله شمس الدین اللہی، دار احیاء التراث العربي، بيروت.
١٦. ترجمة الامام الحسین علیه السلام بن طبقات ابی سعد: محمد بن سعد بن منيع، تحقيق عبد العزیز الطباطبائی، مؤسسه الایت، قم، ١٣١٥ق.
١٧. ترجمة الامام علی بن تاری دمشق: ترجمة الامام علی علیه السلام من تاری دمشق، ابن عساکر، تحقيق محمد باقر المحمودی، چاپ سرم، بيروت ١٣٠٠هـ.
١٨. تفسیر ابن ابی حاتم: تفسیر القرآن العظیم، ابن ابی حاتم رازی، تحقيق اسعد محمد الطیب، بيروت، المکتبة المصریة، ١٣١٩هـ.
١٩. تفسیر طبری: جامع البيان عن تاویل آی القرآن، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، بيروت، ١٣٠٨هـ.
٢٠. تفسیر الوسيط: الوسيط في تفسیر القرآن المجید، علی بن احمد الواحدی النیسابوری، تحقيق علی محمد معوض و آرین، بيروت، ١٣١٥هـ.
٢١. تهدیب الآثار طبری: تهدیب الآثار و تفصیل الثابت عن رسول الله حصل الله

- بن عبد السلام، بيروت، ١٣٩٥هـ.
٢٢. أمالی طوسی: الأمالی، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، دار الثقافة، قم، ١٣١٣هـ.
٢٣. أمالی عبدالرزاق: الأمالی في آثار الصحابة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق، محدث السيد ابراهیم، القاهرة.
٢٤. أمالی مفید: كتاب الأمالی، محمد بن محمد بن النعمان (الشی المفید)، تحقيق على اکبر الغفاری، جماعة المدرسین، قم، ١٣٠٣هـ.
٢٥. الاموال: كتاب الاموال، محمد بن محمد النعمان تحقيق على اکبر الغفاری، جماعة المدرسین، قم، ١٣٠٣هـ.
٢٦. المنجد: عربی اردو لفت، مجلس ترتیب المنجد عربی اردو، مرکزی ادارہ تبلیغ، دہلی.
٢٧. انساب الأشراف: احمد بن يحيی بن جابر البلاذری، تحقيق محمد باقر المحمودی، چاپ دوم ١٣١٦هـ.
٢٨. أوائل ابن ابوعاصم: الأوائل، ابی بکر احمد بن ابی عاصم البیل، تحقيق محمد سعید بن بسیونی زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٠٧هـ.
٢٩. أوائل العسكري: الأوائل، ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٣٠. البداية والنتهاية: ابو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقی، تحقيق، الدكتور احمد ابو ملحم و الدكتور علی نجیب عطروی الاستاذ قواد السيد والاستاذ مهدی ناصر الدین، الاستاذ علی عبد الساتری، دار الكتاب العلمية بيروت، ١٣٠٨هـ.
٣١. تاری الاسلام ذھی: تاری الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام شمس الدین الذھبی تحقيق عمر عبد الاسلام تدمیری بيروت ١٣١٣ق.
٣٢. تاری اصبهان: كتاب تاری اصبهان (ذکر ایار اصبهان) احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران المهرانی الاصبهانی، تحقيق سید

٣٣. مجمع احياء الثقافة الاسلامية، قم، ١٤١٨هـ.
٣٤. زهد احمد: كتاب الزهد، ابى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى، تحقيق محمد السيد بسيونى زغلول، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٠٢هـ.
٣٥. سنن ابى داود: سليمان ابن الاشعث السجستانى الازدي، تعلیق محمد محیي الدين عبد الحميد، دار احياء السنة النبوية.
٣٦. سنن ابن ماجة: ابى عبد الله محمد بن يزید الفزوینی، تحقيق محمد فواد عبد الباقی، دار الفكر، بيروت.
٣٧. سنن بیهقی: السنن الكبرى، ابویکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی، اعداد الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت.
٣٨. سنن ترمذی: الجامع الصحیح، تحقیق ابراهیم عطّة عوض، بيروت، دار احياء التراث العربي.
٣٩. سنن دارمی: سنن الدارمی، ابو محمد عبد الله بهرام الدارمی، دار احياء السنة النبویه.
٤٠. سنن کبری نسائی: السنن الكبرى، ابو عبد الرحمن احمد بن شعب النسائی، تحقیق دکتور عبد الغفار سليمان العلدادی، سید کسری حسن، بيروت، ١٤١١هـ.
٤١. سیر اعلام البلااء: سیر اعلام البلااء، محمد بن احمد بن عنمان الذہبی، اشرف على تحقيق الكتاب شعب الانزورط، چاپ چهارم، بيروت، ١٣٠٦هـ.
٤٢. شرح الابار فى فضائل الانمة الاطھار عليهم السلام: القاضی النعمان بن محمد التمیھی المغربي، تحقيق السيد محمد الحسیني الجلالی، موسسه النشر الاسلامی، قم.
٤٣. سیره ابن هشام: السیرة النبویه، ابو محمد عبد الملک بن هشام، بشرح الوزیر المغربي، تحقيق الدكتور سهیل زکار، بيروت، ١٣١٢هـ.
٤٤. شرح ابن ابی الحدید: شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم، دار احياء الكتب العربية، ١٣٨٥هـ.

٤٥. عليه وآلہ وسلم من الآثار، محمد بن جویر بن بزید الطبری، مطبقة المدى، مصر.
٤٦. تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی، تحقيق مصطفی عبد القادر عطا، بيروت، ١٣١٥هـ.
٤٧. تهذیب الكمال: في اسماء الوجال، جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزري، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، ١٤١٣هـ.
٤٨. جامع البيان: جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، بيروت، دار الكتب العلمية.
٤٩. الجرح والتعديل: كتاب الجرح والتعديل، شی الاسلام ابی محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادريس بن المتندر الرازی مجلس دائرة المعارف العثمانیه حیدر آباد دکن الہند، ١٤٢١هـ. دار احياء التراث العربي، بيروت.
٥٠. حلیۃ الاولیاء: حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، ابو نعیم احمد بن عبد الله الاصفیاء، ط الامس، بيروت، ١٣٠٧هـ.
٥١. صالح صدق: كتاب الصال، ابر جعفر محمد بن علی الصدق، تصحیح على اکبر الفقاری، ط منشورات جماعة المدرسین، قم، ١٣٠٣هـ.
٥٢. الدر المستور: الدر المستور في التفسیر بالماهور، جلال الدين عبد الرحمن السیوطی، دار الفكر، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٥٣. دلائل بیهقی: دلائل البوہ و مورفة احوال صاحب الشريعة، ابویکر احمد بن الحسین البیهقی، تریج الدكتور عبد المعطی قلعی، بيروت، ١٣٠٥هـ.
٥٤. الذریۃ الطاہرۃ: ابر بشر محمد بن احمد بن حماد الانصاری الرازی الدولی، تحقيق السيد محمد جواد الحسینی الجلالی، موسسه النشر الاسلامی التابعة بمعنیة المدرسین قم، ١٣٠٧هـ.
٥٥. ریاض النصرۃ: الریاض النصرۃ فی مناقب العشرة المبشیرین بالجنة، ابو جعفر احمد المحب الطبری، دار الدوحة الجديدة.
٥٦. زین الفتن: العسل المصفی من تهذیب زین الفتن فی شرح سورہ هل لی، احمد بن محمد بن علی بن احمد العاصی تعلیق الشی محمد باقر المحمودی،

٢٦. محمد قمحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٢٧. علل الحديث رازى: علل الحديث، ابى محمد عبد الرحمن الرازى، دار المعرفة، بيروت، ١٣٠٥هـ.
٢٨. العلل والمعروفة: كتاب العلل والمعروفة الرجال، احمد بن حنبل، تحقيق الدكتور وصى الله بن محمد عباس، دار الالى، رياض ١٣٠٨هـ.
٢٩. عمل يوم وليل: كتاب عمل اليوم والليلة، ابى يكر احمد بن محمد الديسوري المعروف بابن التنى، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المزید، رياض، ١٣١٢هـ.
٣٠. عيون ابار الرضا، محمد بن على بن بابويه القمي، تصحیح الشی حسین الاعلمنی، موسسة الاعلی للطبعات، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٣١. الفائق زمشری: الفائق فی غریب الحديث، جاء اللہ محمد بن عمر الزمشری، تحقیق علی محمد البیخاری، دار الفکر، بيروت، ١٣١٣هـ.
٣٢. فرائد المستین: فی فضائل المرتضی و البعل و السطین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام، ابراهیم بن محمد ابن المؤید بن عبد اللہ بن علی بن محمد الجوینی الراسانی، تحقیق و تعلیق الشی محمد باقر محمودی، موسسة محمودی، بيروت، ١٣٩٨هـ.
٣٣. فضائل احمد: فضائل امير المؤمنین علی علیه السلام، احمد بن حنبل، بيروت.
٣٤. فضائل فاطمة لابن شاهین: فضائل فاطمة الزهراء علیها سلام، عمر بن احمد بن عثمان بن احمد بن اسود البغدادی، تحقیق الدكتور محمد هادی الامینی، دار الكتاب الاسلامی، بيروت، ١٣١٣هـ.
٣٥. القول المسدد: القول المسدد فی الذب عن المستد للمام احمد، احمد بن علی بن حجر العسقلانی، عالم الكتب، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٣٦. کامل ابن عدى: کامل فی ضعفاء الرجال، ابو احمد، عبد اللہ بن عدى الجرجانی، تحقیق يحيی متار غزاوی، بيروت، دار الفکر، ١٣٠٩هـ.

٣٧. شرح السنة البغوى: شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوى، تحقيق زهير الشاويش و شعيب الارناؤوط، بيروت، ١٣٠٣هـ.
٣٨. شرح طحاوی: شرح معانی الالار، ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی، تحقيق محمد زهیر الباری، بيروت، ٧هـ.
٣٩. شواهد التنزیل: شواهد التنزیل لقواعد التفصیل، عبد اللہ بن عبد اللہ بن احمد الحاکم الحسکانی، تحقيق محمد باقر محمودی، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، قم، ١٣١١هـ.
٤٠. صحيح ابن حبان: بترتیب ابن بلیان، علی بن بلیان احمدی، تحقيق شعیب الارناؤوط، موسسة الرسالله، بيروت، ١٣١٣هـ.
٤١. صحيح ابن زیمة: ابو سکر محمد بن اسحاق، تحقيق محمد مصطفی الاعظمی، المکتبة الاسلامیة، بيروت ١٣٩١هـ.
٤٢. صحيح باری: صحيح الباری، محمد بن اسماعیل الباری، بيروت، دار احیاء التراث العربي.
٤٣. صحيح مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي، بيروت، ٧هـ.
٤٤. صحیفة الامام الرضا: تحقیق محمد مهدی نجف، موسسة طبع و نشر الاستاذة الرضویة، ١٣٠٦هـ.
٤٥. طبقات کبری: طبقات الکبری، محمد بن سعد بن منیع، دار الكتب، بيروت، ١٣٠٥هـ.
٤٦. طبقات المحدثین: طبقات المحدثین اصیهان و الواردین علیها، عبد اللہ محمد بن جعفر حیان المعروف بابی الشی الانصاری، تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشی، موسسة الرسالله، بيروت، ١٣١٢هـ.
٤٧. الطراف: فی معرفة مذاهب الطوائف، علی بن موسی بن طاوس الحسینی، مطبعة الیام، قم، ١٣٠٠هـ.
٤٨. العقد الفرید: عقد الفرید، احمد بن محمد عبد ربہ الاندلسی، تحقيق مفید

٨٧. مسندر حاكم: المسندر على الصحيحين، ابو عبد الله الحاكم نيسابوري، تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة بيروت.
٨٨. مسنداً ابن راهويه: مسنداً إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مكلد الحنظلي المروزى، تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ١٤١٢هـ.
٨٩. مسنداً أبو يعلى: مسنداً أبي يعلى الموصلى، احمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق حسين سليم اسد، دار المامون للتراث، دمشق، ١٤٠٣هـ.
٩٠. مسنداً احمد: المسندة، احمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني، بيروت، ١٤٣٢هـ.
٩١. مسنداً بزار: البحر الزا المعروف مسنداً بزار، ابي يكر احمد بن عمرو بن عبد الالق العنكى البدار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٤١٣هـ.
٩٢. مسنداً حميدى: المسندة، عبد الله بن الزبير الحميدى، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمى، عالم الكتب، بيروت.
٩٣. مسنداً رؤيائى: مسنداً الصحابة، ابوبكر محمد بن هارون الرويانى الرازى، ترجم ابو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عوضة، دار الكتاب العلمية بيروت، ١٤١٦هـ.
٩٤. مسنداً شاشى: المسندة، ابو سعيد المضمى بن كلب الشاشى، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ١٤١٠هـ.
٩٥. مسنداً شاميين: مسنداً الشاميين، ابو القاسم سليمان بن احمد بن ابوب الطبرانى، تحقيق صدی عبد المجيد السلفى موسعة الرسالة، بيروت، ١٤٣٥هـ.
٩٦. مسنداً طباليسى: مسنداً ابى داود طباليسى، سليمان بن داود طباليسى، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد ١٤٢١هـ.
٩٧. مشكل الآثار طحاوى: مشكل ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه، تصحيح محمد عبد السلام شاهين، بيروت، ١٤١٥هـ.

٩٨. كامل الزوارات: ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، تصحيح ميرزا عبد الحسين الامينى، المطبعة المباركة المرتضوية، تجف، ١٤٥٦هـ.
٩٩. كتاب السنة: ابوبكر عمرو بن ابى العاص، بقلم محمد ناصر الدين الالبانى، بيروت، المكتبة الاسلامية، ط الثالثة.
١٠٠. كتاب سليم: بن قيس هلالى، سليم بن قيس الهلالى الكوفى، تحقيق محمد باقر الانصارى، نشر الهادى، قم، ١٤١٥هـ.
١٠١. كشف الاشارة: كشف الاشارة من زواائد البزار على الكتب السنية، نور الدين على بن ابى بكر المضمى، تحقيق حبيب الرحمن الاغطى، موسعة الواسلة، بيروت، ١٤٩٩هـ.
١٠٢. الكشف والبيان: الكشف اليان فى تفسير القرآن، احمد بن محمد بن ابراهيم الشعلى، مخطوط، مكتبة آية الله المرعشي التجفى.
١٠٣. كفاية الطالب: فى مناقب على بن ابيطالب عليهما السلام، محمد بن يوسف بن محمد القرى الشافعى، تحقيق محمد هادى الامينى، دار احياء تراث اهل البيت عليهم السلام قم، ١٤٠٣هـ.
١٠٤. الكنى واسماء دولابى: كتاب الكنى واسماء ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري تقديم مطاع الطلابى، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣هـ.
١٠٥. كنز العمال: كنز العمال فى سنن الاقوال والاعقاب، علاء الدين على المتنقى الهندى، تصحيح صفوۃ المسفاء، ط. الامسة.
١٠٦. كنز الفوائد: محمد بن على بن عثمان الكرآجلى الطرابلسي، تحقيق الشی عبد الله نعمة، دار الاضواء، بيروت، ١٤٠٥هـ.
١٠٧. مجتمع الزواائد: مجتمع الزواائد و منبع الفوائد، نور الدين على بن ابى بكر مضمى، دار الكتاب العربى، بيروت، ١٤٠٢هـ.
١٠٨. مسترشد طرى: المسترشد فى امامية امير المؤمنين على بن ابيطالب عليهما السلام، محمد بن جریر بن رستم الطبرى الامامى، تحقيق احمد محمودى،

١٠٩. مقتل الحسن وارزمي: مقتل الحسين، ابو المزید الموفق بن احمد المکی، تحقیق الشی محمد السماوی، مکتبة المفید، قم.
١٠٠. مناقب ابن مغازلی: مناقب الامام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب عليه السلام، علی بن محمد الشافعی (الشهیر بابن المغازلی) تحقیق محمد باقر البهودی، بیروت دار الاصوات، ١٤٠٣ھ.
١٠١. مناقب وارزمی: المناقب، الموفق بن احمد الوارزمی، تحقیق الشی مالک محمودی، موسیه التشریف الاسلامی، قم، ١٤١١ھ.
١٠٢. مناقب ابن شهر آشوب: المناقب، رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب العازندرانی، المطبعة العلمیة، قم.
١٠٣. مناقب کوفی: مناقب الامام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب عليه السلام، محمد بن سلیمان الكوفی القاضی، تحقیق محمد باقر محمودی، قم، ١٤٣٢ھ.
١٠٤. میزان الاعتدال: میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذہنی، تحقیق، علی محمد البیجاوی، دار الفکر، دمشق.
١٠٥. موضع اوهام: کتاب موضع اوهام الجمیع و الشریق، ابویکر احمد بن علی بن ثابت الطیب البغدادی، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد الدکن، الهند، ١٣٤٩ھ.

طالب دها: سید حسن علی نقی

Hassan
naqviz@live.com

١٠٦. مصنف ابن ابو شیة: الكتاب المصنف فی الاحادیث و الآثار، ابویکر عبد الله بن محمد بن ابی شیة، تصحیح محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٤١٦ھ.
١٠٧. مصنف عبد الرزاق: المصنف، ابویکر عبد الرزاق بن همام الصنعتی، تحقیق جیب الرحمن الاعظمی، ط. الثالثیه، ١٤٣٠ھ.
١٠٨. مطالب العالیة: المطالب العالیة بزوال المساید العثمانیة، ابن حجر احمد بن علی العسقلانی، تحقیق الشی جیب الرحمن الاعظمی، دار المعرفة، بیروت.
١٠٩. معارف ابن قتیبه: المعرف، ابی محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبه، تحقیق ثروت عکاشه، ناشر منشورات الشریف الرضی، مطبعه امیر، قم، ١٤٣٥ھ.
١١٠. معانی الابار: ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن احمد الطبرانی، تحقیق الدكتور محمود الطحان، مکتبة المعرفة، ریاض، ١٤٠٥ھ.
١١١. معجم سفرسلفی: معجم السفی، ابو طاهر احمد بن محمد السلفی، تحقیق عبد الله عمر البارودی، دار الفکر، بیروت، ١٤١٣ھ.
١١٢. معجم شیو ابویعلی: المعجم، احمد بن علی بن المثنی التمیمی، تحقیق حسین سلیم اسد، داء العامون للتراث، بیروت، ١٤١٠ھ.
١١٣. معجم صیر: المعجم الصیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، بیروت، ١٤٣٠ھ.
١١٤. معجم کیر: المعجم الكبير، ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، تحقیق حمدی عبد المجید السلفی، ط. الثالثة، ١٤٠٦ھ.
١١٥. المعرفة و التاریخ سیوی: کتاب المعرفة و التاریخ، ابو یوسف یعقوب بن سفیان السیوی، تحقیق اکرم صیناء العمری، مطبعه الارشاد، بغداد، ١٤٩٣ھ.
١١٦. مقتل ابن ابی الدنيا: کتاب مقتل الامام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب عليه السلام، عبد الله بن محمد بن عبید المعرف بابن ابی الدنيا، تحقیق محمد باقر محمودی، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، قم، ١٤١١ھ.